


# بزرگوں کی

مولانا جلال الدین احمد عجیب

کتب پرچار کمپنی



marfa



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مولانا جلال الدین احمد مجددی

داتا در بار مارکیٹ لاہور  
042-7324948  
0321-4300441

مَكْتَبَةُ جَمَالِ كَرَم



بسم اللہ الرحمن الرحیم

## شرف انتساب

غوثِ صدّانی قطب ربانی محبوب سجافی

حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی ب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
کے نام جن کے

قدَمِیْ هذِه عَلی رَقْبَةِ كُلِّ وَلَی اللَّهِ

فرمانے پر ساری دنیا کے بزرگوں نے اپنے اپنے مقام پر گردیں جھکادیں  
اور

پیشوائے اہلسنت مجدد دینی و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا برکاتی بریلوی  
علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام جنہوں نے بزرگوں کے عقیدے پر قائم رہنے کا ہمیں  
درس دیا اور اس مقدس گروہ کے نقشِ قدم سے ہٹانے والوں کا قلع قلع کرنے کے  
لئے رات دن قلم چلایا۔

جلال الدین احمد امجدی

# جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب  
بزرگوں کے عقیدے

مولف  
مفتی جلال الدین احمد امجدی

تعداد  
1100

زیر اهتمام  
ایم احسان الحق صدیقی

ہدیہ

شاعت اول  
اکتوبر 2009

ناشر .....  
مکتبہ جمال کرم لاہور

9 مرکز الائیں (ستا ہوٹل) دربار مارکیٹ لاہور

042-7324948

## فہرست مضمائیں

عنوانات	صفحہ نمبر
<b>تصرف و اختیار</b>	
تعارف مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ	15
نگاہ اولین	21
انبیاء کرام کے عقیدے	22
حضور سید عالم <small>صلوات اللہ علیہ وسلم</small> کا عقیدہ	22
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ	30
صحابہ کرام کے عقیدے	31
حضرت فاروق اعظم <small>صلوات اللہ علیہ وسلم</small> کا عقیدہ	31
حضرت انس <small>صلوات اللہ علیہ وسلم</small> کا عقیدہ	33
حضرت ابو ہریرہ <small>صلوات اللہ علیہ وسلم</small> کا عقیدہ	35
محمد شین کے عقیدے	38
حضرت امام بخاری کا عقیدہ	38
حضرت امام مسلم کا عقیدہ	42
حضرت امام ترمذی کا عقیدہ	45
حضرت امام قاضی عیاض کا عقیدہ	46
ایک اعتراض اور اس کا جواب	48
حضرت علامہ خطیب تبریزی کا عقیدہ	48
علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ	50
حضرت علامہ شٹنوفی کا عقیدہ	54
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ	58
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ	61

# اس کتاب میں

۱	تصرف و اختیار کے متعلق	بزرگوں کے عقیدے	۳۱
۲	علم غائب کے بارے میں	بزرگوں کے عقیدے	۵۲
۳	حاضر و ناظر کے متعلق	بزرگوں کے عقیدے	۱۳
۴	تعظیم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں	بزرگوں کے عقیدے	۹
۵	حضور ﷺ کا جسم بے سایہ کے متعلق	بزرگوں کے عقیدے	۷
۶	وسیلہ کے بارے میں	بزرگوں کے عقیدے	۱۲
۷	قبروں کی زندگی کے متعلق	بزرگوں کے عقیدے	۱۹
۸	زیارت قبور اور ان سے استفادہ کے متعلق	بزرگوں کے عقیدے	۱۲

درج ہیں اور جو سب بزرگوں کے عقیدے ہیں  
وہی ہم اہلسنت و اجماعت کے بھی عقیدے ہیں۔

**فَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

	حضرت فرید الدین گنج شکر کا عقیدہ	☆
128	حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی کا عقیدہ	☆
131	حضرت خواجہ باقی باللہ کا عقیدہ	☆
133	حضرت خواجہ کور فرزند حضرت خواجہ باقی باللہ کا عقیدہ	☆
135	حضرت ابن مجدد الف ثانی کا عقیدہ	☆
137	حضرت حاجی وارث علی شاہ کا عقیدہ	☆
138	<b>علم غیب</b>	☆
141	انبیاء کرام کے عقیدے	☆
141	حضور سید عالم مصطفیٰ کا عقیدہ	☆
145	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ	☆
	حضرت فاطمہ از زہراء اور	☆
146	امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے عقیدے	
147	صحابہ کرام کا عقیدہ	☆
147	حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ	☆
148	حضرت عمر فاروق اعظم کا عقیدہ	☆
149	حضرت عثمان غنی کا عقیدہ	☆
150	حضرت علی مرتضی کا عقیدہ	☆
152	فسرین کا عقیدہ	☆
155	محمد شین کا عقیدہ	☆
155	حضرت امام بخاری کا عقیدہ	☆
157	حضرت امام مسلم کا عقیدہ	☆
160	حضرت امام ترمذی کا عقیدہ	☆
160	حضرت امام ابو داؤد کا عقیدہ	☆

65	حضرت علامہ نبھانی کا عقیدہ	☆
69	حضرت علامہ تازنی کا عقیدہ	☆
74	آئمہ عظام کے عقیدے	☆
74	حضرت امام ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ	☆
75	حضرت امام رازی کا عقیدہ	☆
76	حضرت امام شعرانی کا عقیدہ	☆
78	حضرت علامہ شامی کا عقیدہ	☆
79	اویائے کرام کے عقیدے	☆
79	حضرت شیخ عبدالقدوس جیلانی کا عقیدہ	☆
88	حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ	☆
91	حضرت شیخ علی بن ہبیل کا عقیدہ	☆
92	حضرت سید احمد کیر رفائلی کا عقیدہ	☆
94	حضرت شیخ عدی کا عقیدہ	☆
97	حضرت شیخ ماجد کردی کا عقیدہ	☆
100	شیخ اکبر حجی الدین ابن عربی کا عقیدہ	☆
103	حضرت عبدالعزیز زد باغ کا عقیدہ	☆
107	حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عقیدہ	☆
109	حضرت خواجہ اجمیری کا عقیدہ	☆
112	حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی کا عقیدہ	☆
115	حضرت مولانا ناروی کا عقیدہ	☆
119	حضرت علامہ جامی کا عقیدہ	☆
123	حضرت خواجہ بختیار کاکی کا عقیدہ	☆
125	حضرت حیدر الدین ناگوری کا عقیدہ	☆

199	حضرت دا تانجخ بخش بھویری کا عقیدہ	☆
201	حضرت علامہ شٹنونی کا عقیدہ	☆
205	حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کا عقیدہ	☆
207	حضرت مولانا رومی کا عقیدہ	☆
211	حضرت علامہ امام غزالی کا عقیدہ	☆
211	سلطان الہند خواجہ اجمیری کا عقیدہ	☆
213	حضرت خواجہ بختیار کا کی کا عقیدہ	☆
215	حضرت فرید الدین سُچنگ شکر کا عقیدہ	☆
219	حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ	☆
222	حضرت شیخ حسن افغان کا عقیدہ	☆
223	حضرت شرف الدین سیکھی منیری کا عقیدہ	☆
224	حضرت خندوم جہاگیر سمنانی کا عقیدہ	☆
<b>حاضر و ناظر</b>		
227	حضور سید عالم مصطفیٰ کا عقیدہ	☆
229	محمد شین کا عقیدہ	☆
229	امام ترمذی اور صاحب مخلوٰۃ کا عقیدہ	☆
230	شارح بخاری علامہ عسقلانی کا عقیدہ	☆
230	قاضی عیاض اور ملا علی قاری کا عقیدہ	☆
231	علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ	☆
231	شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
233	حضرت علامہ خفاجی کا عقیدہ	☆
334	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
235	حضرت علامہ تہرانی کا عقیدہ	☆

161	حضرت امام داری کا عقیدہ	☆
162	علامہ خطیب تبریزی کا عقیدہ	☆
164	علامہ قاضی عیاض کا عقیدہ	☆
166	علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ	☆
167	حضرت علامہ عسقلانی کا عقیدہ	☆
168	حضرت علامہ زرقانی کا عقیدہ	☆
169	حضرت ملا علی قاری کا عقیدہ	☆
172	شیخ عبدالحق محمد دہلوی کا عقیدہ	☆
173	حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کا عقیدہ	☆
178	شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی کا عقیدہ	☆
179	حضرت علامہ یوسف تمہانی کا عقیدہ	☆
183	اویاء اللہ کے عقیدے	☆
183	حضرت امام باقر کا عقیدہ	☆
185	حضرت امام جعفر صادق کا عقیدہ	☆
187	حضرت امام مویٰ کاظم کا عقیدہ	☆
188	حضرت امام علی رضا کا عقیدہ	☆
189	حضرت امام محمد تقیٰ کا عقیدہ	☆
190	حضرت امام علی عسکری کا عقیدہ	☆
191	حضرت امام حسین زکی کا عقیدہ	☆
192	حضور سید ناغوٹ اعظم کا عقیدہ	☆
195	حضرت جنید بغدادی کا عقیدہ	☆
196	حضرت بایزید بسطامی کا عقیدہ	☆
198	حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ	☆

		حضرور سید شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ	☆
260		حضرور سید ناگوٹ اعظم کا عقیدہ	☆
261		حضرت امام مالک کا عقیدہ	☆
264		حضرت امام شافعی کا عقیدہ	☆
265		حضرت امام احمد بن حنبل کا عقیدہ	☆
266		صاحب شرح وقاریہ کا عقیدہ	☆
266		صاحب فتح القدر کا عقیدہ	☆
268		علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ	☆
268		شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
270		<b>قبروں کی زندگی</b>	☆
272		حضرور سید عالم مسیح <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا عقیدہ	☆
272		محمد شین کا عقیدہ	☆
272		علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ	☆
273		حضرت ملا علی قاری کا عقیدہ	☆
274		شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
275		علامہ شہاب الدین خفاجی کا عقیدہ	☆
275		شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
278		حضرت علامہ نبھانی کا عقیدہ	☆
279		فقہاء کا عقیدہ	☆
279		صاحب نور الایضاح کا عقیدہ	☆
279		علامہ ابن حجر عسکری کا عقیدہ	☆
280		اویاء اللہ کے عقیدے	☆

### تعظیم

240	حضور سید عالم <small>صلی اللہ علیہ وسیلہ</small> کا عقیدہ	☆
242	حضرت امام بخاری کا عقیدہ	☆
243	حضرت امام مالک کا عقیدہ	☆
245	حضرت امام قاضی عیاض کا عقیدہ	☆
247	صاحب ہدایہ علامہ مرغیانی کا عقیدہ	☆
249	حضرت ملا علی قاری کا عقیدہ	☆
250	حضرت امام تقی الدین سکنی کا عقیدہ	☆
251	حضرت خواجہ بختیار کاکی کا عقیدہ	☆
252	محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ	☆

### حضور مسیح مسلم کا جسم بے سایہ

253	حضرت عثمان غنی کا عقیدہ	☆
253	حضرت ذکوان تابعی کا عقیدہ	☆
254	حضرت امام قاضی عیاض کا عقیدہ	☆
254	علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ	☆
255	حضرت مجدد الف ثانی کا عقیدہ	☆
256	شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
256	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ	☆

### وسیله

257	حضور سید عالم <small>صلی اللہ علیہ وسیلہ</small> کا عقیدہ	☆
258	حضرت عمر فاروق اعظم کا عقیدہ	☆
259	حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ	☆

## تعارف

### فقیہہ ملت مفتی جلال الدین احمد صاحب قبلہ امجدی

آپ ضلع بستی و سدھار تھے نگر کے واحد مرجع قتاویٰ جید مفتی ہیں جن کونہ صرف روح فتویٰ نویسی کا مکمل اور اک ہے بلکہ فقہ کے غامض مسائل اور جزئیات پر عبور حاصل ہے۔ اور ملک کے صفوں کے مفتیاں کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔

#### ولادت و نسب:

آپ ۱۳۵۲ھ - ۱۹۳۳ء میں او جھا گنج ضلع بستی (پولی) میں پیدا ہوئے۔ او جھا گنج بستی شہر سے بیس کلومیٹر پچھم فیض آباد روڈ سے تین کلومیٹر دکن واقع ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ جلال الدین احمد بن جان محمد بن عبد الرحیم بن غلام رسول بن ضیاء الدین بن محمد سالک بن محمد صادق بن عبد القادر بن مراد علی۔

#### خاندانی حالات:

آپ کا خاندان ثانیہ (ضلع فیض آباد) کے پورب علاقہ بڑھر کے مشہور معروف راجبوں خاندان کے ایک فرد مراد نگھے سے تعلق رکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد مراد علی کہلانے۔ اور گھر والوں نے جب دباؤ ڈال کر اسلام سے برگشته کرنا چاہا تو زمینداری و تعلقہ داری چھوڑ کر ضلع فیض آباد کی مشہور مسلم آبادی شہزاد پور میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی اولاد میں ضیاء الدین مرحوم بغرض تجارت ضلع بستی میں آتے رہے۔ اسی اثناء میں او جھا گنج کے مسلمانوں سے تعلقات پیدا ہو گئے تو زمین خرید کر اسی آبادی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

آپ کے والد گرامی جان محمد مرحوم بڑے متقدی و پرہیزگار تھے دینداری اور نماز کی انتہائی پابندی ان کا نشانہ زندگی رہا۔ ابتدائے جوانی میں ان کو جامع مسجد کا امام مقرر کیا گیا تو وہ محض رضاۓ الہی کی خاطر بلا معاوضہ زندگی بھر پابندی کے ساتھ نماز و نجگانہ اور جمعہ و عیدین کی امامت فرماتے رہے۔ اور معاملات میں اتنے صحیح تھے کہ او جھا گنج سے تقریباً

280	حضور سید ناغوٹ اعظم کا عقیدہ	☆
281	حضرت شیخ علی بن بیتی کا عقیدہ	☆
182	حضرت سید احمد کبیر رفاقی کا عقیدہ	☆
283	حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عقیدہ	☆
284	سلطان الہند خواجہ اجمیری کا عقیدہ	☆
284	حضرت فرید الدین شیخ شکر کا عقیدہ	☆
284	محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ	☆
286	حضرت علامہ جامی کا عقیدہ	☆
<b>زیارت قبول اور ان سے استفادہ</b>		
287	حضور سید عالم اللہ علیہ السلام کا عقیدہ	☆
288	حضرت امام شافعی کا عقیدہ	☆
289	حضرت علامہ صاوی کا عقیدہ	☆
289	حضرت حمید الدین ناگوری کا عقیدہ	☆
290	محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ	☆
291	حضرت علامہ جامی کا عقیدہ	☆
292	حضرت علامہ ابن حجر عسکری کا عقیدہ	☆
292	شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
293	حضرت سید احمد طحطاوی کا عقیدہ	☆
294	علامہ ابن عابدین شاہی کا عقیدہ	☆
294	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
295	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ	☆
297	ایک ضروری فتویٰ: غیر صحابہ کو راضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیسا؟	☆

ظاہر ہے کہ فقیہ ملت قبلہ کی والدہ محترمہ کو شریعت کے اس مسئلہ کی خبر نہیں تھی مگر فطری طور پر ان کا مزاج شریعت کے مطابق تھا اس لئے وہ دوکاندار کے یہاں سے آیا ہوا غلہ بغیر دوبارہ تو لے ہوئے کام میں نہیں لاتی تھیں۔ اور صفائی ستمبرائی میں ان کا یہ عالم تھا کہ باغ سے چنی ہوئی لکڑیوں کو دھو کر سکھا لیتی تھیں اس کے بعد جلاتی تھیں۔ ۱۳ جمادی الاولی ۱۳۹۹ھ مطابق ۱۱۲ اپریل ۱۹۷۹ء کو ان کا انتقال ہوا۔

حضرت فقیہ ملت قبلہ کے بڑے بھائی محمد نظام الدین مرحوم جنہوں نے آپ کو عالم دین بننے کا ذہن دیا وہ بھی بڑے مقنی پر ہیز گار اور دیندار تھے ایک بار انہوں نے ثانیہ ضلع فیض آباد میں ایک مہاجن کے ہاتھ کچھ مال بیچا۔ اس نے پیسے کے ساتھ حساب کا کاغذ بھی دیا۔ جب وہ گھر آئے اور حساب کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ حساب لکھنے میں مہاجن غلطی کر گیا اور چار آنے (موجودہ زمانے کے پچیس پیسے) زیادہ دیئے۔ پھر انہوں نے حساب کا کاغذ کئی لوگوں کو دکھایا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ حساب غلط ہو گیا۔ جس کے سبب چار آنے پیسے آپ کو زیادہ مل گئے۔ تو دوسرے دن وہ چار آنے پیسے لے کر مہاجن کو واپس کرنے کے لئے ثانیہ پہنچ گئے۔

جب وہ کاغذ کے ساتھ چار آنے پیسے مہاجن کے ہاتھ میں دیئے اور اس نے حساب دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ او جھا گنج ضلع بستی سے پیدل چل کر یہ چار آنے پیسے واپس کرنے آئے ہیں جو ثانیہ سے تقریباً تیس کلو میٹر ہے اور راستے میں دو دریا "ذمنور" اور گھاگھر حائل ہیں تو قلم کو دانت سے دبا کر نظام الدین صاحب کو سر سے پیر تک بڑی حرمت کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہا جو اپنے لباس وغیرہ کے اعتبار سے تو معمولی آدمی نظر آرہے تھے مگر ان کی سچائی آسمان کی بلندیوں کو چھوڑی تھی۔ ۲ رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

### تعلیم:

فقیہ ملت قبلہ نے ناظرہ اور حفظ کی تعلیم مقامی مولوی محمد زکریا مرحوم سے حاصل کی۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا اور ۱۳۶۳ھ مطابق ۱۹۴۴ء یعنی ساڑھے دس سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔ فارسی آمد نامہ، التفاتات گنج ضلع فیض آباد میں وہاں کے مقامی مولانا عبدالرؤوف سے پڑھی۔ اور فارسی کی دوسری کتابوں کی تعلیم مولانا عبدالباری

چار کلومیٹر دور ندی کے اس پار پنڈول گھاٹ کے کسی آدمی سے ایک پیسہ کا (جب کہ ایک روپے کے چونٹھ پیسے ہوتے تھے) دہی ادھار خریدا۔ اس کے بعد دریا میں سیلا ب آگیا جس کے سبب وہ شخص کئی روز تک او جھا گنج میں نہیں آ سکا اور پھر شاید وہ بھول گیا تو ایک پیسہ اس کے گھر پہنچانے کے لئے آپ کے والد گرامی بے چین ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس کے لئے چار کلومیٹر پیدل چلے اور دریا پار کرنے کے بعد پیسہ اس کے گھر پہنچایا۔

آبادی اور قرب وجوار کے لوگ احتراماً ان کو میاں جی کہتے تھے۔ اور ۱۳۶۲ھ۔

۱۹۲۵ء میں موسلا دھار بارش کے ساتھ جب کہ ان کی چھتری پر ایسی بجلی گری کہ ساتھ کے تین آدمی فوراً مر گئے اور وہ نجع گئے تو ہر ایک نے یہی کہایا ان کی کرامت ہے۔ اس لئے کہ چھتری پر آسمان کی بجلی گرے اور اس کے نیچے کا آدمی نجع جائے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس واقعہ کے چھ سال بعد ۱۳۷۰ھ۔ ۱۹۵۱ء میں ان کا انتقال ہوا۔

آپ کی والدہ محترمہ نبی بی رحمت النساء مرحومہ ایک دیندار گھرانے کی لڑکی تھیں۔ نماز اور صبح تلاوت قرآن مجید کی بے حد پابند تھیں۔ دعاۓ نجع العرش اور درود لکھی ان کو زبانی یاد تھے جنہیں وہ روزانہ پڑھا کرتی تھیں۔ آبادی کے اندر تقویٰ اور پرہیز گاری میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھیں۔ دوسرے کامال کہیں غلطی سے تصرف میں نہ آجائے اس کا بھی بڑا خیال رکھتی تھیں اس لئے ایک ہی دوکاندار کے یہاں سے ہمیشہ غلدہ وغیرہ آتا تھا جو کبھی کم نہیں تولتا تھا مگر اس کے باوجود وہ دوکاندار کے یہاں سے آئی ہوئی تمام چیزوں کو ہمیشہ دوبارہ تولنے کے بعد ہی کام میں لاتی تھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول کر دوکاندار کوئی چیز ہمیں زیادہ دیدے اور ہم غلطی سے اس کو اپنے کام میں لے آئیں۔ چنانچہ ایک بار دوکاندار نے اپنی سمجھ سے چار پسیری (کلو) غلدہ دیا جو پانچ پسیری تھا تو انہوں نے تو لئے کے بعد ایک پسیری غلدہ واپس کر دیا۔

صاحب ہدایہ حضرت ابو الحسن علی مرغینانی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ خریدار کو خریدی ہوئی چیز کا بیچنا اور کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ دوبارہ ناپ تول نہ کر لے اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے غلدہ کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس میں دوناپ نہ ہو جائیں۔ بیچنے والے کا ناپ اور خریدنے والے کا ناپ۔ اور اس لئے کہ خریدی ہوئی چیز کے زیادہ ہو جانے کا احتمام ہے جو بیچنے والے کی ہے۔ اور غیر کے مال میں تصرف حرام ہے۔ لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ (ہدایہ جلد ثالث ص ۵۹)

آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ بناں فتاویٰ فیض الرسول جلد اول کتاب العقامہ سے کتاب الرضاع تک ۱۳۲۱ھ میں چھپ کر منتظر عام پر آچکا ہے۔ اور دوسری جلد کتاب الطلاق سے کتاب الفرأضیف تک عنقریب طباعت کی منزل سے گزرنے والی ہے۔

### تصنیفات:

فتاویٰ کے علاوہ آپ نے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں جو اسلام و سدیت کے لئے بے انتہا مفید اور بے حد مقبول ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں۔ انوار الحدیث اردو ہندی۔ عجائب الفقہ (فقہی پہلیاں) زیر نظر کتاب بزرگوں کے عقیدے۔ خطبات حرم، انوار شریعت (اچھی نماز) اردو، ہندی تعظیم نبی علیہ السلام، حج و زیارت، معارف القرآن، علم اور علماء، باغ فدک اور حدیث قرطاس، سید الاولیاء (سید احمد کبیر رفائل)، محققانہ فیصلہ اردو ہندی ضروری مسائل، گلستانہ مشنوی، بد نہ ہوں سے رشتہ اردو ہندی، نورانی تعلیم مکمل چھ حصے۔

ان میں سے اب تک چودہ کتابیں یروں ملک چھپ کر حجاز مقدس، بحرین دوحة دوہی، دمام، ترکی، عراق، فرانس، برطانیہ، جاپان اور امریکہ وغیرہ تک مسلمانوں کی لاہبریوں اور ان کے گھروں میں پہنچ گئیں اور ہندی داں طبقہ کے لئے علمائے اہلسنت میں سب سے پہلے آپ ہی نے انور شریعت کو ہندی میں چھپوا کر کتب خانہ امجدیہ سے شائع کیا۔

### آپ کی منفرد خدمات:

قرآن مجید کی کتابت و طباعت کی صحت کا ہر زمانے میں بہت اہتمام کیا گیا ہے مگر چند سال قبل کچھ دنیا دار ناشرین قرآن کریم (مع ترجمہ رضویہ) کو نہایت غیر ذمہ داری والا پرواہی سے کیش غلطیوں کے ساتھ شائع کر رہے تھے تو ہندو پاکستان میں صرف آپ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا اور بار بار ضروری صحیح کے عنوان سے ماہناموں میں مضمون شائع کیا یہاں تک کہ ناشرین کو صحیح متن کے ساتھ قرآن مجید چھاپنے پر مجبور کیا۔ اور جو ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزانہ العرفان کے ساتھ قرآن کریم کی جھوٹی فہرست شائع کی جا رہی ہے اور اس سے سدیت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے غلط ہونے کا اعلان صرف آپ نے کیا۔

فقہ حنفی کی عظیم کتاب بہار شریعت میں جو گمراہ کن تحریف کی مذموم حرکت کی گئی کہ اس کے ثبت مسائل کو منفی اور منفی کو ثابت بنا کر چھاپا گیا تو اس کے متعلق صرف آپ نے قلم اٹھا کر چند غلطیوں کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ

ڈھلموی سے حاصل کی اور عربی کی ابتدائی کتابیں بھی انہیں سے پڑھیں۔

جب التفات گنج کے مدرسہ کا نصاب آپ نے مکمل کر لیا تو ۱۹۵۷ء کی تقسیم کے فوراً بعد ناگپور (مہاراشٹر) چلے گئے۔ دن بھر کام کرتے جس سے پچھیں روپے ماہانہ اپنے والدین کی خدمت کرتے اور اپنے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے۔ اور بعد مغرب اپنے دس ساتھیوں کے ہمراہ تقریباً بارہ بجے رات تک حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدیسہ سے مدرسہ شمس العلوم میں پڑھتے اور صبح بعد نماز فجر ایک بھاری جو قرأت بعد کا قاری تھا اور اپنی بدمنہبی چھپائے ہوئے تھا اس سے فن قرأت حاصل کرتے۔ اس طرح ناگپور میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ ۲۲ شعبان ۱۴۳۷ھ مطابق ۱۹۵۲ء کو حضرت علامہ نے آپ کو سند فراغت عطا فرمایا۔

حضرت علامہ ناگپور سے جمشید پور جا کر مدرسہ فیض العلوم قائم فرمایا اور آپ کو وہاں بلا لامگر بروقت مدرسہ فیض العلوم میں مدرس کی ضرورت نہ تھی اس لئے آپ کو کتب میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا گیا تو چار ماہ بعد دل برداشتہ ہو کر حضرت علامہ کی اجازت سے آپ گھر چلے آئے۔

جمادی الاولی ۱۴۳۷ھ مطابق جنوری ۱۹۵۵ء میں شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمد یار علی صاحب قبلہ اور حضرت مولانا حشمت علی خاں صاحب قبلہ علیہما الرحمۃ والرضوان کے مشورہ سے آپ مدرسہ قادریہ رضویہ بھاؤ پور ضلع بیتی کے مدرس مقرر ہوئے۔ اسی درمیان حضرت شعیب الاولیاء قبلہ نے مکتب فیض الرسول کو دارالعلوم بنادیا تو آپ بھاؤ پور سے مستعفی ہو کر براویں شریف آگئے اور یکم ذوالحجہ ۱۴۳۷ھ مطابق ۱۰ جولائی ۱۹۵۶ء سے دارالعلوم فیض الرسول کے مدرس ہو گئے تو پھر فیض الرسول آپ کا اور آپ فیض الرسول کے ہو گئے۔

### فتاویٰ نویسی:

۲۲ صفر المظفر ۱۴۳۷ھ۔ ۱۹۵۷ء کو ۲۲ سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ پھر چھیس سال تک ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے ہزاروں فتاوے بڑی تحقیق سے لکھے جو قدر کی نگاہوں سے دیکھئے گئے گرائب دماغی کمزوری کے سبب فتویٰ نویسی سے مستعفی ہو کر فیض الرسول ہی میں صرف شعبہ تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

# نگاہِ اولین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُ تَعَالٰی نے مسلمانوں کو اس طرح دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اے اللّٰہ! ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان فرمایا۔ (سورہ فاتحہ ۲۷)

جن پر اللّٰهُ تَعَالٰی نے احسان فرمایا ان کا ذکر پانچوں پارہ میں یوں ہے۔ جو اللّٰہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گا کہ جن پر اللّٰهُ تَعَالٰی نے احسان فرمایا۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ (سورہ نساء ۹۶)

ان دونوں آئینوں کے ملانے سے صاف ظاہر ہے کہ انبیائے کرام و بزرگان دین ہی کا طریقہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ بزرگان دین کے عقیدے اور ان کے طریقے سے مسلمانوں کو بہکار ہے ہیں۔ اس لئے ہم نے آسان انداز میں چند مسائل پر بزرگوں کے عقیدے اس کتاب میں لکھ دیئے۔ تاکہ مسلمان ان کے عقیدے پر قائم رہیں اور کسی بہکانے والے کے فریب میں نہ آئیں۔

کتاب ہذا میں انبیائے کرام علیہم السلام کے بھی ایمان و عقیدے لکھے گئے ہیں۔ اس لئے کہ کسی چیز کو حق جان کر دل میں جائے ہوئے یقین کو ایمان و عقیدہ کہتے ہیں تو یہ حضرات جس طرح خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی نبوت پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بارے میں تصرف و اختیار علم غیر و سیلہ وغیرہ کا بھی ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے قول و فعل سے ان کی نشوواشاعت کرتے ہیں۔ اور اس کتاب میں چونکہ بزرگوں کو بہت سے مقامات پر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہے جس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس لئے غیر صحابہ کو رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کہنے اور لکھنے کا مفصل فتویٰ بھی کتاب کے آخر میں ضم کر دیا گیا ہے۔

دعا ہے کہ اللّٰہ و رسول جل جلال اللّٰہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہو اور مسلمانوں کے لئے مفید ہو۔ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور قیامت کے دن حضور پر نور شافع یوم المنشوٰ اللّٰہ کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین بحرمتہ النبی الکریم علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و اکمل التسلیم۔

جلال الدین احمد امجدی

۱۹۹۳ء ۱۴۱۳ھ ۱۳ اپریل ۱۹۹۳ء

بہار شریعت کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان فرمایا۔ اور حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے لکھے ہوئے بہار شریعت کے حصول کی افادیت کو بڑھانے کے لئے کسی نے آج تک اس پر کچھ کام نہ کیا صرف فقیرہ ملت قبلہ نے حصہ سوم پر تعليق اور حوالے کی کتابوں کا جلد و صفحہ ۱۳۰۱ھ میں تحریر فرمایا اور اسی وقت اس کی کتابت بھی ہوئی مگر نہ معلوم کس مصلحت نے دائرة المعارف الامجدیہ گھوئی نے آج تک نہ اسے چھپوایا اور نہ کسی دوسرے کو چھاپنے کیلئے دیا۔

### بیعت و خلافت:

حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے وصال فرمانے سے چند ماہ قبل آپ کو حضرت سے شرف بیعت حاصل ہوا مگر ابھی تک آپ نے بعض مصالح کے پیش نظر کسی سے خلافت نہیں لی تھی یہاں تک کہ حضور احسن العلماء قبلہ دامت برکاتہم القدیسہ نے مارہرہ مطہرہ میں عرس قاسی کے موقع پر ۱۳۱۲ھ میں آپ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ اور ۱۳۱۳ھ میں جب اسی عرس کے موقع پر حضرت فقیرہ ملت قبلہ مارہرہ مطہرہ حاضر ہوئے تو حضور احسن العلماء قبلہ نے خلافت کی ایک مخصوص مجلس میں آپ کی دستار بندی فرمائی۔

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر آپ کا وہ خلوص عمل اور جذبہ دل ہے جس نے اسلام و سینیت کی ترویج و اشتاعت کی خاطر آپ کو ہمیشہ فعال و تحرک رکھا۔  
دعا ہے کہ خداۓ عز و جل آپ کے سایہ عاطفت کو ہم لوگوں کے سروں پر تادیر قائم رکھے اور آپ کے فیوض و برکات سے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو مستفید فرماتا رہے۔  
امین بر حمّتک یا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

**انوار احمد قادری**

میجر و ناظم اعلیٰ مدرسہ امجدیہ ارشد العلوم

(انڈیا)

یعنی لفظ ماہ کے شروع میں جو حرف میم ہے اس کے عدد ہیں، چالیس اور ”سیاہ“ جس کے معنی ہیں، انگشت شہادت کا پہلا حرف سین ہے جس کے عدد ہیں سانچھا اور نون کے عدد ہیں پچاس، شعر کا خلاصہ یہ ہوا کہ مختار دو عالم ﷺ نے انگشت شہادت کے اشارہ سے چاند کی گولائی کو جو میم کے دائرہ کی طرح ہے دلکش فرمایا کہ ”دو“ نون کی شکل میں کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں۔

پنجہ اوپنجہ حق می شود  
ماہ ازا انگشت اوش می شود

حضور ﷺ علیہ وسلم کا پنجہ خدا تعالیٰ کا پنجہ ہو گیا کہ چاند ان کی انگلی مبارک سے دو دلکش ہو گیا۔

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضور سید عالم ﷺ کا یہ عقیدہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے چاند پر تصرف کی قوت بخشی ہے اسی لئے آپ نے اسے انگلی سے اشارہ فرمایا کہ دلکش کر دیا۔ اگر حضور ﷺ کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو اشارہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے آپ ایک لمحہ کے لئے اسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ایک آدمی جب پہاڑ کی بہت بڑی چٹان کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کو ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوچتا مگر وہی شخص جب چٹان کا چھوٹا دلکش دیکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں پتھر کے اس دلکش کے کو اٹھا سکتا ہوں تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پھر جب وہ پتھر کے دلکش کے کو اٹھا لپتا ہے تو واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس پتھر کے اٹھانے کی قوت اس کو عطا فرمائی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ

أُتْيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ  
فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَغِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ  
فُلُثُ لَأَنْسِ كُمْ كُتْتُمْ قَالَ ثَلَثُ مِائَةٍ أَوْ زُهْرَاءٌ ثَلَثُ مِائَةٍ.

ترجمہ: رسول ﷺ کی خدمت میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ زوراء کے مقام پر تھے۔ آپ نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے دسوکر لیا۔ حضرت قادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ جواب دیا تین سو یا تین سو کے

## تصرف

انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام علیہم الرحمۃ والرضوان کو خداۓ تعالیٰ عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ اور صحابہ کرام، محدثین عظام، فقہاء اسلام اور بزرگان دین کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

## انبیاء کرام کے عقیدے

### حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کا عقیدہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔

اَهُلَّ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيهِمُ آيَةً

فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شَقَقَيْنِ حَتَّى رَأُوا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا.

مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ سے کہا کہ آپ کوئی مجزہ دکھائیں تو سرکار اقدس نے چاند کے دو نکڑے فرمایا۔ یہاں تک کہ مکہ والوں نے حراء پہاڑ کو چاند کے دو نکڑوں کے درمیان دیکھا۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۲۶)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردوی ہے انہوں نے فرمایا۔

اَنْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِرْقَتَيْنِ. فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ دُونَهُ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کے زمانہ مبارکہ میں چاند دو نکڑے ہو گیا۔ ایک

نکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا نکڑا اس کے نیچے۔ (بخاری شریف ج ۲ ص ۲۱۲)

اور حضرت علامہ جامی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی مشہور کتاب یوسف زیخا میں تحریر فرماتے ہیں۔

دونوں شد دور میم از حلقة ماہ

چهل را ساخت ثبت او دو پنجاہ

چاند کے گھیرا کی میم کا دائرة دونوں ہو گیا

چالیس کو ان کے ساتھ نے دو پچاس بنا دیا دونوں

لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ حضرات کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی کافی ہوتا اس وقت تو ہماری تعداد پندرہ سو تھی۔ (بخاری شریف جلد اصغری ۵۰۵)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے انگلیوں کی گھائیوں سے دریا بہانے کی طاقت و قوت بخشی ہے۔

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

ندیاں چنگاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ میں یہ جہنڈا ضرور اس شخص کو دونگا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ لوگ تمام رات اس حسرت میں رہے کہ دیکھنے صبح کس خوش نصیب کو جہنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک یہ تمنا لئے ہوئے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جہنڈا اسے مرحمت ہو۔ آپ نے فرمایا

أَيَّنَ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالُوا يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَارْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتُونَىٰ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَالَهُ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْعٌ۔

ترجمہ: علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ! ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ پس انہیں آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور ان کیلئے دعا فرمائی۔ پس وہ اس طرح تندrst ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔

(بخاری شریف جلد اصغری ۵۲۵)

حضرت عتبہ بن فرقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت امِ عاصم فرماتی ہیں کہ عتبہ کے یہاں چار عورتیں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک عتبہ کی خاطر ایک دوسری سے زیادہ خوبصورت ہے کی کوشش کرتی۔ پھر بھی جو خوبصورتی کے جسم سے آتی وہ ہماری خوبصورتی بہت زیادہ اچھی ہوتی۔

وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا مَا شَمَمْنَا رِيحًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ عَتْبَةَ فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَخْدَنَى الشَّرَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لگ بجگ۔ (بخاری جلد اصفہ ۵۰۷)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ  
کئا نَعْدُ الْأَيَّاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعْدُونَهَا تَخْوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِيرٍ فَقَالَ الْمَاءُ فَقَالَ أُطْلُبُ أَفْضَلَةً مِنْ مَاءٍ  
فَجَاءَ وَا بَانَاءٌ فِيهِ مَاءٌ "قَلِيلٌ" فَادْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَسَنٌ عَلَى  
الظَّهُورِ الْمُبَارِكِ وَالْبُرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدْرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَغِي مِنْ بَيْنِ  
أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: ہم تو مجذبات کو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم ان کو تխیف کا  
باعث سمجھتے ہو ہم سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے پانی کم ہو گیا تو حضور  
نے فرمایا کہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی تلاش کر لاؤ تو لوگ ایک برتنا لائے جس میں  
تھوڑا سا پانی موجود تھا حضور نے اپنا مقدس ہاتھ برتنا میں ڈال دیا اس کے بعد  
فرمایا برکت والے پانی کے پاس آؤ اور برکت خداۓ تعالیٰ کی طرف سے  
ہے۔ پس میں نے قطعی طور پر دیکھا کہ حضور کی مقدس انگلیوں کی گھائیوں سے  
پانی اہل رہا تھا۔ (بخاری شریف جلد اصفہ ۵۰۵)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ  
عَطِيشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحَدِيَّةِ وَالْبَيْضَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ  
يَدِيَّهُ رَشْكَوَةً "فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، قَالَ مَالَكُمْ قَالُوا لَيْسَ  
عِنْدَنَا مَاءً" نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشَرِبُ الْأَمَابِينَ يَدِيَّكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي  
الرَّشْكَوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءَ يَفُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَامِنَالِ الْعُبُونِ فَشَرِبَنَا وَتَوَضَّأْنَا  
فُلْثَ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ الْفِ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

ترجمہ: صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور حضور ﷺ کے سامنے<sup>صلح حدیبیہ</sup>  
ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تو لوگ آپ کی جانب دوڑے حضور  
نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے  
کے لئے پانی نہیں ہے مگر یہی جو آپ کے سامنے ہے۔ تو حضور ﷺ نے اپنا  
دست مبارک اسی پیالہ میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشوں  
کی طرح پانی املنے لگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تم

اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا۔

یا غائشہ لَوْ شِفْتَ لَسَارَثْ مَعِیْ جَبَلُ الْذَّهَبِ

ترجمہ: اے عائشہ! اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ ہونے کے پہاڑ چلیں۔

(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۲۱)

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا۔

اُهْدِيْتُ لَنَا شَاهَةً فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاهَةً أُهْدِيْتُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَطَبَّخْتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ نَأَوْلَنِي الدِّرَاعُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَنَأَوْلَنَّهُ الدِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَأَوْلَنِي الدِّرَاعُ الْأَخْرَ فَنَأَوْلَنَّهُ الدِّرَاعَ الْأَخْرَ ثُمَّ قَالَ نَأَوْلَنِي الدِّرَاعُ الْأَخْرَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِلشَّاهَةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْكَ لَوْسَكَتْ لَنَا وَلَتَسْكُنْ ذِرَاعَانِ فَذَرَ اغْمَامَ سَكَّتْ.

ترجمہ: میرے پاس بکری ہدیٰ تھی جیسی کہ اسے ہاذی میں ڈالا پھر رسول اللہ ﷺ کی تشریف لائے۔ فرمایا ابو رافع! یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ بکری ہے جو ہمیں ہدیٰ تھی۔ پھر ہم نے اسے ہاذی میں پکالیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو رافع! ہم کو ایک دست دو۔ میں نے دست پیش کر دیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا دست بھی دو۔ میں نے دوسرا دست بھی پیش کر دیا۔ پھر فرمایا اے ابو رافع! اور دست لاو۔ عرض کیا یا رسول اللہ! بکری کے دو ہی دست ہوتے ہیں۔ تب ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم چپ رہتے تو ہم کو دست پر دست دیتے رہتے جب تک کہ چپ رہتے۔ (احمد دراٹی، مشکوٰۃ شریف صفحہ ۲۳۱)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ہمراہ حج سے فارغ ہو کر جب مقام روحاء میں پہنچ تو ایک عورت نے بھنی ہوئی بکری پیش کی۔ حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق ہم نے ایک کے بعد دوسرے دست کو پیش کیا۔ پھر جب آپ نے فرمایا کہ اور دست لاو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! دست تو دو ہی ہوتے ہیں جو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُوتْ ذِلْكَ إِلَيْهِ فَأَمْرَنِي أَنْ أَتَجَرَّدَ فَتَجَرَّدْتُ  
عَنْ ثُوْبِيْ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقِيَثُ ثُوْبِيْ عَلَى فَرْجِيْ فَنَفَثَ فِي يَدِهِ ثُمَّ  
وَضَعَ يَدِهِ عَلَى ظَهْرِيْ وَبَطْنِيْ فَعَبَقَ بِيْ هَذَا الْطَّيْبُ مِنْ يَوْمِيْدِ.

ترجمہ: اور جب وہ لوگوں کے پاس جاتا تو لوگ کہتے ہم نے کوئی ایسی خوشبو  
نہیں سوچی جو عقبہ کی خوشبو سے اچھی ہو۔ ایک دن ہم نے اس کے بارے  
میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ رسول ﷺ کے ظاہری زمانہ مبارکہ  
میں میرے بدن پر پھیاں تکل آئیں تو میں نے حضور کی خدمت میں اس  
بخاری کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اتار  
دیئے اور اپنا ستر چھپا کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن  
اپنے مبارک ہاتھ پر ڈال کر میرے پیٹ اور پیٹھ پر مل دیا تو میری بخاری دور  
ہو گئی اور اسی دن سے مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ (خاص انص کبریٰ ج ۲ ص ۸۲)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبد اللہ بن  
عیک رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو رافع یہودی کو (جو حضور ﷺ کا بہت بڑا دشمن تھا) قتل کرنے  
کے بعد اس کے اوپنے مکان سے اترنے لگے تو زینے سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ثوٹ  
گئی انہوں نے اسی وقت گرم گرم اپنے عمامہ سے باندھ لی اور حضور سید عالم ﷺ کی  
خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سارا ماجہہ بیان کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا۔

**أَبْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِيْ فَمَسَحَهَا فَكَانَمَا لَمْ أَشْتِكَهَا قَطُّ.**

ترجمہ: اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا تو حضور نے جب اس پر  
اپنا دست کرم پھیر دیا تو ایسا ہو گیا جیسے اس میں سرے سے کوئی تکلف ہوئی  
ہی نہ تھی۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۵۷)

ان واقعات سے حضور سرکار اقدس ﷺ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ  
نے مجھے تصرف کی وہ قوت مرحمت فرمائی ہے کہ میں اپنے لعاب دہن سے بیماریاں دور کر  
دیتا ہوں بلکہ چاہتا ہوں تو مریض کے جسم کو اسی لعاب دہن سے ہمیشہ کے لئے بہترین  
خوشبودار بنا دیتا ہوں اور پلاسٹر کے بغیر صرف اپنا ہاتھ پھیر کر فوراً ٹوٹی ہوئی ہدف صحیح کر  
دیتا ہوں اور بحمدہ تعالیٰ حضور ﷺ کے بارے میں ہم لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول

أَعْلَى الْفَقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتِهَا يُرِيدُ الْحَرَثَيْنِ أَهْلُ  
بَيْتِ الْفَقَرِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحِّكَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَثَ أَنْيَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلِكَ.

ترجمہ: یا رسول اللہ! کیا میں اسے دوں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ قسم خدا کی  
مذینہ کے دونوں سنگارخ میدانوں کے درمیان میرے اہل و عیال سے بڑھ کر کوئی  
محتاج نہیں۔ رسول ﷺ نہیں دیئے یہاں تک کہ سامنے کے دونوں دانت  
دکھائی دیئے۔ پھر فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو (بخاری شریف ج ۲۶۰)  
حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خالو حضرت ابو بردہ  
نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو رسول ﷺ نے ان سے فرمایا۔

شَاتُكَ شَاهَ لُحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي ذَاجِنًا جَذْعَةً مِنَ  
الْبَقَرِ قَالَ إِذْبُحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ.

ترجمہ: تمہاری وہ بکری گوشت کے لئے ہوئی انہوں نے عرض کیا یا رسول  
اللہ! میرے پاس ایک موٹا تازہ چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے فرمایا اسی کو ذبح کر دو  
اور تمہارے سوا کسی کے لئے ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۳۳)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے  
ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ پھر اعرابی نے گھوڑا کے فروخت کر دیئے جانے سے انکار کر  
دیا۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اے اعرابی میں  
گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا بیچ دیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے خزیمہ! تم کیسے  
گواہی دیتے ہو (جب کہ خریداری کے وقت میں تم موجود نہیں تھے) تو حضرت خزیمہ رضی  
اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا

أَنَا أَصَدِّقُكَ عَلَى خَبْرِ السَّمَاءِ الْأَاصَدِقُكَ عَلَى ذَا الْأَغْرَابِيِّ فَجَعَلَ  
النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ فِي  
الْإِسْلَامِ رَجُلٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ غَيْرُ خَرِيمَةُ بُنْ ثَابِتٍ.

ترجمہ: میں حضور کی تصدیق آسمانی خبروں پر کرتا ہوں تو اس اعرابی پر  
تصدیق کیوں نہ کروں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ان کی گواہی کو دو مردوں کی  
گواہی کے برابر کر دیا۔ اور حضرت خزیمہ کے علاوہ اسلام میں کسی مرد کے

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْسَكَثْ مَازِلَتْ تُنَاوِلُنِي ذِرَا عَامًا قُلْتُ لَكَ  
نَاوِلُنِي ذِرَاغًا.

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان  
ہے کہ اگر تم چپ رہتے تو جب تک میں دست مانگتا تھا دیتے رہتے۔

(ابو یعلیٰ، تبیق خصالص کبریٰ ص ۳۶)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ  
نے مجھے ایسے بلند مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے  
پہاڑ چلیں۔ ایک بکری میں اگرچہ دو ہی دست ہوتے ہیں لیکن میں طلب کرتا رہوں اور  
پیش کرنے والا دینے کا قصد کرتا رہے تو ایک ہی بکری کے گوشت سے ہزاروں دست  
نمودار ہوتے رہے گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحِجَّةَ فَقَامَ الْأَقْرَبُونَ حَابِسِينَ فَقَالَ  
إِنِّي كُلَّ عَامٍ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوْجَبَتْ وَلَوْجَبَتْ لَمْ  
تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِعُوْا.

ترجمہ: اے لوگو! خدا نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ اقرع بن حابس نے  
کھڑے ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا اگر میں  
ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے۔ اور اگر ہر سال فرض ہو جائے تو تم  
اے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (احمد، نسائی، داری، مشکوہة صفحہ ۲۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت  
میں بیٹھنے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے  
پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔  
آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا دو  
مہینے لگا تار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ بولا نہیں  
آپ نے کچھ دیر توقف فرمایا ہم بھی خاموش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوکرا  
کھجوروں کا لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر  
ہوں۔ فرمایا اسے لے جاؤ اور بانٹ دو۔ اس نے پوچھا۔

# صحابہ کرام کے عقیدے

## حضرت عمر فاروق اعظم کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال اقدس ۲۳ ہجری)

آپ کا نام نامی عمر ہے۔ کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام عتمہ ہے جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہیں۔ آٹھویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدس ﷺ کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیں برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جب کہ چالیس مرد اور گیارہ عورتیں ایمان لاچکی تھیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اتنا لیس مرد اور تینیں عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولوہ فیروز مجھی نے ۲۶ ذوالحجہ ۲۳ ہجری بدھ کے دن آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے تین دن بعد دس برس چھ ماہ چار دن امور خلافت کو انجام دے کر ۲۳ سال کی عمر میں وفات پائی۔

حضرت ابو الشخ کتاب الصصۃ میں حضرت قیس بن جحاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر کو فتح کیا تو اہل عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا یا ایسُهَا الامیرُ ان لَنِيَّلَنَاهُذَا سُنَّةُ لَا يَجْرِي إِلَّا بِهَا۔ یعنی اے حاکم! ہمارے اس دریائے نیل کے لئے ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے اور ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینہ کے چاند کی گیارہویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنوواری جوان لڑکی کو منتخب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں پھر اسے بہترین قسم کے زیورات

لئے جائز نہ ہوا کہ اس کی گواہی دو مردوں کی گواہی قرار دی گئی ہو۔

(خاص گھری جلد ۲۶۳ صفحہ ۲۶۳)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسالہ و علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے احکام شرعیہ پر بھی اختیار کلی عطا فرمایا ہے۔

مصطفیٰ آئینہ روئے خداست  
منکس در وے ہم خوئے خداست

(ڈاکٹر اقبال)

### حضرت عیسیٰ روح اللہ کا عقیدہ

(علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام)

سورة آل عمران میں ہے کہ آپ نے نبی اسرائیل سے فرمایا  
آئنیِ أَخْلُقْ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهِنَّةُ الطِّينِ فَانفَخْ فِيهِ فَيَكُونُ طِينًا يَأْذُنِ  
اللَّهُ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْيِي الْمَوْتَى يَأْذُنِ اللَّهُ.

میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور میں شفادیتا ہوں مادرزاداں ہے اور سفید داغ والے کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ (پارہ ۳ رکوع ۱۳)

اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ مٹی کی چیزیا بنا کر اسے زندگی بخش دینے، مادرزاداں ہے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے اور مردہ کو زندہ کر دینے کا خدا تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ چنانچہ نبی اسرائیل کی درخواست پر آپ نے مٹی سے چکانڈ کی صورت بنائی پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ اور کئی مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا اور بے شمار مادرزاداں ہے اور کوڑھیوں کو آپ نے شفا بخشی۔



ظاہر کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے بحروں دونوں پر حکومت عطا فرمائی ہے۔

حضرت خوب امیر خود کرملنی ظاہمی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نواح میں ایمیش بنا رہے تھے سورج کی تیز شعاعیں آپ کی پشت مبارک پر پڑ رہی تھیں۔ سورج کی گرمی نے آپ پر اثر کیا۔ آپ نے نہایت نشکلیں ہوئے سورج کی طرف دیکھا جس سے سورج کی تباہی جاتی رہی دنیا تاریک ہو گئی سارے مدینہ میں سورج کی روشنی اسے لٹادی۔ (سر الالویاء صفحہ ۲۵)

مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں زلزلہ آیا جس کی وجہ سے زمین بار بار دلتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ جل شانہ کی حمد و شنبیان کی اور زمین پر کوزا مار کر فرمایا کہ خبر جا کیا میں نے تجوہ پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ فرماتا تھا کہ زمین خبر گئی اور زلزلہ فوراً بند ہو گیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۳۵) برکات الصالحین حصہ اول صفحہ ۲۰) اور حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام رازی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں سورہ کہف کی شرح میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کسی گھر کو آگ لگ گئی جتاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیخترے پر لکھا اے آگ! حکم خداوندی سے بجھ جا۔ لوگوں نے وہ چیخڑا آگ میں ڈال دیا تو آگ فوراً بجھ گئی۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۳۵۳)

ان واقعات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے کائنات عالم میں تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

## حضرت انس کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ۹۱: بجزی)

آپ مالک بن نظر کے بیٹے ہیں۔ کنیت ابو جمزہ ہے۔ قبلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحاں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر دس سال تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بصرہ منتقل ہو گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ بصرہ کے صحابہ میں سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا آپ کی

اور کپڑے پہناتے ہیں اس کے بعد لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان هذَا لَا يَكُونُ أَبْدًا فِي الْإِسْلَامِ۔ یعنی اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں لفواور بے سر و پا ہیں اسلام اس قسم کی تمام باتوں کو مٹانے آیا ہے وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے حالات سے مطلع کیا آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت عمدہ جواب دیا یہیک اسلام اس قسم کے تمام لفواور بیہودہ باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رقد روائہ کر رہا ہوں تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔

جب وہ رقہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پوچھا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نِيلٍ مِضْرُ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قَبْلِكَ فَلَا تَجْرِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيْكَ فَاسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيْكَ.

ترجمہ: اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی رفت سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو۔ اور اگر خداۓ عز و جل تھکلو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرمادے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رقہ کورات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صح نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح جاری فرمایا ہے کہ سولہ ہاتھ پانی اور چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا۔ اور مصر والوں کی یہ جاہلناہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۷)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھ کر اپنا یہ عقیدہ

آدی تھے۔ (بخاری شریف جلد اصفہ ۵۰۵)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ عقیدہ ثابت کر دیا کہ رسول اکرم مختار دو عالمین کو خداۓ تعالیٰ نے تصرف کی وہ قوت بخشی تھی کہ آپ جب چاہتے اپنی انگلیوں کی گھائیوں سے دریا بہادیتے۔

نور کے چشمے لہرامیں دریا بہیں  
انگلیوں کی کرامت پ لامکھوں سلام

### حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال ۵۹ ہجری)

آپ کے نام میں اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور عبدالرحمٰن ہے۔ عبداللہ بھی کہا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبدالشمس یا عبد عمر و تھا۔ چھوٹی سی بلی پالنے کے سبب ابو ہریرہ کنیت کو آپ کے نام سے زیادہ شہرت حاصل ہو گئی اور کنیت کا استعمال نام پر غالب آگیا۔ آپ بلاد دوس سے ہیں۔ فتح خیر کے سال جو ہجرت کا ساتواں سال ہے اسلام لائے اور سرکار اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ آپ نے پوری استقامت کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور قناعت و کم کھانے کا طریقہ اختیار فرمایا۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ تھے۔ قوت حافظ، متانت، مستقل مزاجی، ذکاوت اور ضبط علم کی صفت میں اپنی مثال آپ تھے۔ روزہ دار، شب بیدار اور ذکر و تبیح و تہلیل والے تھے۔ (أشعة المفات)

آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں بھوک میں روئے زمین پر اپنے گجر پر اعتماد کرتا تھا اور میں بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں عام راستے پر بیٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس راستے سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے متعلق پوچھا۔ اور میں نے ان سے صرف اس لئے پوچھتا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں (اور کچھ کھلائیں) مگر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ اور ان سے بھی میں نے اسی لئے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں مگر وہ بھی چلے گئے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر ابوالقاسم حضور رحمت عالم ﷺ تشریف لائے تو آپ نے مجھے دیکھا اور میرے

عمر ایک سو تین سال ہوئی۔ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ ان کی ایک سو اولاد ہوئی اور بعض لوگوں نے کہا کہ اسی، جن میں اٹھڑا کے اور دولا کیا۔ (خطیب تبریزی)  
آپ تحریر فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ  
فَلَتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي ذَلِكَ الْأَنَاءِ يَدَهُ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ تَوَضَّنُوا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَغِي  
مِنْ تَحْتِ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عَنْدِ أَخْرِهِمْ.

ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگوں کو وضو کے لئے پانی کی ضرورت تھی مگر انہیں ملتا نہیں تھا۔ تو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں وضو کے لئے پانی پیش کیا گیا۔ رسول ﷺ نے اس برلن میں اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہوئے لوگوں کو حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ مبارک انگلیوں کے نیچے سے پانی املا رہا تھا۔ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب نے وضو کر لئے۔ (بخاری شریف جلد اصفہانی ۵۰۳)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں۔

حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مِنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقَى قَوْمًا  
فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضِبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ  
كَفَهُ فَصَغَرَ الْمِخْضِبُ أَنْ يَسْطُطَ فِيهِ كَفَهُ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي  
الْمِخْضِبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا قَلْتُ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

ترجمہ: نماز کا وقت ہو گیا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے وہ وضو کرنے چلے گئے اور بہت سے لوگ رہ گئے تو رسول ﷺ کی خدمت میں پتھر کا ایک برلن حاضر کیا گیا جس کے اندر پانی تھا۔ آپ نے اپنا مقدس ہاتھ پانی میں ڈال دیا، لیکن برلن چھوٹا ہونے کے سبب ہاتھ نہیں کھلتا تھا تو انگلیوں کو ملا کر برلن میں ڈالا تو سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا وہ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا اسی ۸۰

فَمَا زَالَ يَقُولُ إِشْرَبْ فَأَشْرِبْ حَتَّىٰ قُلْتَ لَا وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ  
مَا أَجْدُ مَسْلِكَ لَهُ فَاغْطَيْتُهُ الْقَدْحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمِيَ وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.

ترجمہ: پیالہ اٹھا اور ان لوگوں کو دو۔ تو میں نے پیالہ اٹھا کر ایک شخص کو دے دیا۔ اس نے پیا یہاں تک کہ شکم سیر ہو گیا۔ پھر اس نے پیالہ مجھے واپس کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے پیتے اور پلاتے ہوئے وہ پیالہ رسول اکرم ﷺ تک پہنچا۔ اور سب اصحاب صفة خوب سیر ہو چکے تھے۔ تو حضور ﷺ نے پیالہ اپنے مقدس ہاتھ پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا۔ اور فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ! فرمایا اب ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ تو میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو تو میں نے پھر پیا۔ آپ برا بریہی فرماتے رہے کہ اور پیو۔ تو میں اوپنیارہا یہاں تک کہ میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معموت فرمایا کہ اب دودھ گزرنے کی بھی راہ باقی نہیں رہی۔ اور وہ پیالہ حضور ﷺ کو پیش کر دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ پی لیا۔ (بخاری۔ خصائص کبریٰ ج ۲۸ ص ۳۸)

کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا جام شیر

جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ ایک لڑائی میں تھے کہ لشکریوں کو کھانے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، تو حضور نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ! تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا میرے تھیلے میں کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ تو میں تھیلے کو لے کر حاضر ہوا۔ فرمایا دستِ خوان لے آؤ۔ تو میں دستِ خان لے آیا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ نے کھجوریں نکالیں تو وہ ایکس دانے تھے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو اپنے مقدس ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سب دانے آپ کے دستِ مبارک میں آگئے۔ پھر آپ نے ان کو جمع کر کے فرمایا:

أَذْعُ فَلَانًا وَأَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبَّعُوا وَخَرَجُوا ثُمَّ قَالَ

أَذْعُ فَلَانًا وَأَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَشَبَّعُوا وَخَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَذْعُ فَلَانًا

وَأَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبَّعُوا وَخَرَجُوا وَفَضَلَ تَمَرٌ فَقَالَ لِي أَقْعُدْ

دل کی کیفیت جان کر مکرائے۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ! فرمایا میرے ساتھ چلو۔ اور آپ تشریف لے چلے تو مجھے پیچھے میں بھی چلنے لگا۔ جب آپ کا شانہ نبوت میں داخل ہو گئے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی اور میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا گیا فلاں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرمایا جاؤ اصحاب صفوہ کو میرے پاس بلا لاو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفوہ اسلام کے مہمان تھے نہ تو ان کے پاس گھر تھا اور نہ مال و دولت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقہ آتا تو آپ اسے ان کے پاس بھیج دیتے۔ اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجا تو آپ اسے قبول فرمائیتے اور اصحاب صفوہ کو بھی اس میں شریک کر لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر گراں گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اصحاب صفوہ کے لئے صرف ایک پیالہ دودھ کا کیا کام دے گا؟ اور میں چاہتا تھا کہ پورا دودھ مجھے ہی مل جاتا۔ تاکہ اسے پینے کے بعد میرے اندر کچھ طاقت پیدا ہو جاتی۔ اور چونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں لہذا جب وہ لوگ آئیں گے (جن کی تعداد ستر ہے) تو حضور مجھے حکم دیں گے کہ یہ پیالہ انہیں دے دوں۔ تو پھر شاید ہی مجھے اس دودھ کا کچھ حصہ مل سکے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے سوا میرے لئے کوئی چارہ کارنہ تھا تو مجھے اصحاب صفوہ کے پاس آتا پڑا۔ اور جب وہ لوگ آگئے اور سب اپنی اپنی جگہ پر گھر میں بیٹھ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ! فرمایا:

خُدْفَا عَطِيْهِمْ فَأَخَذْتُ الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى  
يَرْوَى ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى الْقَدْحِ أَعْطِيْهِ الْآخَرَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يُرَدُّ  
عَلَى الْقَدْحِ حَتَّى إِنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدْحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَبَسَمَ  
وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدْحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَبَسَمَ  
وَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَيْسَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ  
صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقْعُدُ فَأَشْرَبُ فَشَرِبْتَ فَقَالَ إِشْرَبْ فَشَرِبْتُ

تائینا (اندھے) ہو گئے بہت علاج کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ و زادہ تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہ و زاری اور دعاوں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی آنکھ صحیح کر دی۔ امام بخاری صحیح الحثے تو ان کی آنکھیں روشن تھیں اور ایسی روشن ہوئیں کہ چاند کی روشنی میں تاریخ کبر تصنیف فرمائی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی کی تحریر کے مطابق آپ نے کل ۲۲ کتابیں لکھی ہیں مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول بخاری شریف ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آب زم زم سے غسل فرماتے، مقام ابراہیم میں دور کعت غسل پڑھتے اس کے بعد حدیث کو قلمبند فرماتے۔ مسودہ مکمل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں روضہ انور اور ممبر شریف کے درمیان مبیضہ فرمایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو سولہ سال کی مدت میں مکمل کیا۔

خدا تعالیٰ نے آپ کو بے مثال قوت حافظ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو جھ لاکھ حدیثیں ان کے راویوں کے نام اور حالات کے ساتھ یاد تھیں۔ بخاری شریف میں کل سات ہزار دو سو پیکتر (۷۲۵) حدیثیں ہیں جن کی تعداد حلف مکڑ رات کے بعد چار ہزار ہے۔ عید کی چاندر رات ۲۵۲ھ میں ۱۳ دن کم ۶۲ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ سرفقد کے قریب فرنگ میں آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خلائق ہے۔

آپ فرماتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت کے موقع پر ہم اور رسول ﷺ ساری رات صحیح تک چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ ہمیں ایک بڑا سا پھر نظر آیا جس کا سایہ تھا اور وہاں دھوپ نہیں تھی۔ ہم نے اس کے سایہ میں اپنی پوتیں بچھا دی اور رسول ﷺ سے عرض کیا کہ آپ اس پر سو جائیے۔ تو حضور آرام فرمانے لگے اور میں پھرہ دیتا رہا۔ اسی درمیان ہم نے ایک بکری کا دودھ اس کے چروں سے اجازت لے کر دوہا اور جب رسول ﷺ بیدار ہوئے تو میں نے وہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے پی لیا اور بہت خوش ہوئے۔ اب ہم وہاں سے چل پڑے کیوں کہ دن ڈھل چکا تھا۔

وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةً بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أَتِينَا يَارَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَاهُ عَالَيْهِ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْتَمَتْ بِهِ فَرْسَةً إِلَى بَطْرِهَا

فَقَعْدُتْ فَأَكَلَ وَأَكَلْتْ وَفَضَلَ تَمَرٌ فَأَخَذَهُ وَأَدْخَلَهُ فِي الْمَزَوِّدِ وَقَالَ لِنِي إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَأَذْخُلْ يَدِكَ فَخُذْ وَلَا تُكْفِنَا فَمَا كُنْتُ أُرِيدُ تَمَرًا إِلَّا أَدْخَلْتُ يَدِي فَأَخَذَتْ مِنْهُ حَمْسِينَ وَسَقَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ مُعَلَّقًا خَلْفَ رُحْلِي فَوَقَعَ فِي زَمِنِ عُثْمَانَ فَذَهَبَ.

ترجمہ: فلاں اور انکے ساتھیوں کو بلاو۔ تو انہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ پیٹ بھر کر چلے گئے۔ پھر فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو لاو۔ تو وہ لوگ بھی پیٹ بھر کھا کے چلے گئے۔ پھر فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاو تو وہ سب بھی شکم سیر ہو کر کھا کے چلے گئے اور کھجوریں باقی رہیں تو حضور نے انہیں تھیلے میں ڈال دیا اور مجھ سے فرمایا جب تم نکالنا چاہو تو اپنا ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالتے رہنا مگر اسے اونہا نہ کرنا۔ تو میں ہاتھ ڈالتا اور جتنی کھجوریں چاہتا نکال لیتا۔ اور میں نے اس میں سے پچاس و سی کھجوریں خدا کی راہ میں دیں۔ وہ تھیلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں میری سواری کے پیچے لکھی ہوئی تھی۔ جاتی رہی۔ (یہقی ابو نعیم، خصائص کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۱۵)

ایک وسیع سانحہ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع تقریباً چار کلو کا تو پچاس و سی کھجوریں لگ بھگ بارہ ہزار کلو گرام ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کریمہ کو بیان فرمایا کہ اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو تصرف کی وہ قوت سخشنی تھی کہ جب آپ نے چاہا تو ایک پیالہ دودھ سے ستر بھوکوں کا پیٹ بھر دیا اور چند کھجوریں تھیلے میں ڈال دیں تو تین سو بیس من سے زیادہ کھجوریں اس میں سے برآمد ہوئیں۔

## محمد شین کے عقیدے

حضرت امام بخاری کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۲۵۶ ہجری)

آپ کا اصلی نام محمد ہے۔ آپ کے والد اسْعَمْلِی بن ابراہیم بن منیرہ تھے۔ منیرہ بھوی تھے جو حاکم یمان جھنی کے ہاتھ پر مشرف بالسلام ہوئے تھے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو پرورش کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنگھاں بچپن ہی میں آپ

جو تھے۔ اور ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا۔ پس میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور یوی نے جو پیس لئے۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں بنایا کر انہیں پانی میں ڈال دیا۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی خاطر جانے لگا تو یوی نے کہا کہیں مجھے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوانہ کرنا۔

میں نے حاضر خدمت ہو کر آہتہ سے عرض کیا کہ میں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے اور ہمارے پاس ایک صاع جو کا آتا ہے۔ لہذا آپ چند حضرات کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔ تو یعنی اکرم ﷺ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے خندق والو! جابر نے تمہارے لئے دعوت کا انتظام کیا ہے۔ لہذا آؤ چلو۔ پھر رسول ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے آنے تک ہائٹی نہ اتارنا اور روٹیاں نہ پکوانا۔ پس رسول ﷺ تشریف لے آئے اور آپ سب لوگوں کے آگے تھے۔ جب میں گھر گیا تو یوی نے گھبرا کر مجھ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ وہی بات کر دی جس کا اندر یشہ تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے عرض کر دیا تھا۔

فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتَا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَذْعُ  
خَابِزَةَ فَلَتَخْبِرْ مَعِيْ وَأَقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ فَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمُ الْفَقَيْسُمُ  
بِاللَّهِ لَا كَلُوْا حَتَّى تَرَكُوْهُ وَأَنْحَرَفُوا وَإِنَّا بُرْمَتَا لَتِغْطُ كَمَا هِيَ وَإِنَّ  
عَجِيْنَتَا لِيُخْبِرْ كَمَا هُوَ.

ترجمہ: پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئے میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا مانگی۔ پھر ہائٹی میں لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی اس کے بعد فرمایا کہ روٹی بنانے والی ایک اور بلا لوٹا کہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور تو اپنی ہائٹی سے گوشت نکال کر دیتی جائے اور فرمایا کہ ہائٹی کو نیچے نہ اتارنا۔ کھانے والوں کی تعداد ایک ہزار تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو کر چلے گئے اور کھانا بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ دیکھا گیا تو ہائٹی میں اتنا ہی گوشت موجود تھا۔ جتنا پکنے کے لئے رکھا تھا اور ہمارا آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ پکانے سے پہلے تھا۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۵۸۹)

فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَىٰ فَادْعُوْا اللَّهَ لِنِّي وَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أُرَدَّعَنُكُمَا  
الْطَّلَبُ فَدَعَاهُ اللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَعَلَ لَا يُلْقِي أَحَدًا  
إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هَنَا فَلَا يُلْقِي أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَقَى لَنَا.

ترجمہ: اسی اثنائیں ہمارا پیچھا کرتا ہوا سراقد بن مالک آگیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی ہمارے پیچھے آگیا ہے۔ فرمایا نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے اس کے لئے دعا کی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک سراقد سمیت زمین میں ڈھنس گیا۔ اس نے کہا میرے خیال میں آپ دونوں نے میری ہلاکت کے لئے دعا کی ہے۔ اب میری نجات کے لئے دعا کریں۔ خدا کی قسم میں آپ کی تلاش میں پھرنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والٹسلیم نے اس کے لئے دعا کی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ پس جو شخص بھی اس سے ملتا تو اس سے کہہ دینا کہ اوہر تو میں تلاش کر آیا ہوں۔ پس جو بھی ملتا وہ اسے واپس کر دیتا اور اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ (بخاری شریف جلد اصفہ ۵۱)

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ!

إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهَ قَالَ أَبْسُطْ رِدَاءَ كَ فَبَسَطَهُ  
فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ضَمَّهُ فَضَمَّمْتُ فَمَا نَسِيْثُ حَدِيْثًا بَعْدَهُ.

ترجمہ: میں نے آپ سے بہت سی حدیثیں سنیں لیکن وہ سب بھول گئیں۔ حضور نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی۔ تو آپ نے اپ پھر کراس میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا اسے سینے سے لگا لو۔ تو میں نے لگایا۔ پس میں اس کے بعد کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ (بخاری شریف جلد اصفہ ۵۱)

حضرت امام بخاری اور تحریر فرماتے ہیں۔ سعید بن میناء کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب خندق کھودی جاری ہی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بھوک لگی ہے۔ پس میں اپنی بیوی کے پاس آتھی تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ کو سخت بھوک لگی ہے۔ پس میں اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول ﷺ کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے بوری نکالی تو اس میں ایک صاع (چار کلو سے کچھ زائد)

کے بعد کا کوئی عالم و محدث آپؐ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکا۔ آپؐ کی وفات ۲۶۱ ہجری میں ہوئی، جس کا سبب عجیب و غریب ہے کہ آپؐ کو ایک حدیث کی تلاش تھی جسے اپنے مسودات میں آپؐ تلاش کر رہے تھے اور قریب ہی ایک نوکرہ بھجوڑ کا رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے بھجوڑیں نکال کر کھاتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سب بھجوڑیں ختم ہو گئیں اور اس وقت آپؐ کو اس کا احساس نہ ہوا، مگر بعد میں وہی بے اندازہ بھجوڑیں کھالیتا ہی آپؐ کی وفات کا سبب بنا۔

آپؐ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نبیؐ اکرم ﷺ مدینہ طیبہ میں مقام زوراء پر تھے کہ ایک پیالہ حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں کچھ پانی تھا، تو آپؐ نے اپنی مقدس ہتھیلی اس میں رکھ دی۔

فَجَعَلَ يَنْبُغُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْثُ كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْرَةَ قَالَ كَانُوا زُهَاءَ الْثَّلِثِ مَاهِيَةً.

ترجمہ: پس حضور ﷺ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلنے لگا تو سارے صحابہؓ نے وضو کر لیا۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے البوحزر آپؐ لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً تین سو۔

(مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۲۶)

اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے ایک شخص نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو حضور ﷺ نے فرمایا۔

كُلُّ بِيمِينِكَ قَالَ لَا أَسْتَطِعُ قَالَ لَا أَسْتَطِعُ مَا مَانَعَهُ إِلَّا الْكَبِيرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

ترجمہ: اپنے دائیں ہاتھ سے کھا! اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پاتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ ”اس نے تکبر کی وجہ سے جھوٹا عذر کیا تھا۔“ راوی نے کہا تو وہ اپنا دائیں ہاتھ منہ تک کبھی نہیں پہنچا سکا۔ (مسلم شریف بحوالہ مشکوہ صفحہ ۵۳۶)

اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيَأَفْتَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ

حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکو عرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر غزوہ نجیر کے دن اسی زبردست مارگلی کہ لوگوں کو آپ کے شہید ہونے کا گمان ہو گیا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں۔

**فَإِيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَّثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَّاثَاتٍ فَمَا أَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةَ.**

ترجمہ: میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تین بار اس پر تحکم تھا کیا پھر اس کے بعد پنڈلی میں کبھی درود نہ ہوا۔  
(بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۲۰۵)

حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ بالا حدیثوں کو تحریر فرمایا اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ ﷺ کو ایسے عظیم مرتبہ سے سرفراز فرمایا تھا کہ ان کے چاہنے سے گھوڑا اپنے سوار سیست پیٹ تک زمین میں ڈھنس گیا۔ پھر حضور ہی کے چاہنے سے زمین نے اس کو چھوڑا۔ اور قوت حافظہ جیسی چیز کو آپ نے چادر میں ڈال کر اسے دماغ تک پہنچا دیا اور آٹا و ہاغڑی میں تھوک ڈال دیا تو وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ گوشت کے ساتھ شوربے کا مسئلہ بھی بڑھ گیا۔ اور صرف تھوک دیا تو ہلاک کرنے والا زخم ہمیشہ کے لئے اچھا ہو گیا۔

## حضرت امام مسلم کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۲۶۱ ہجری)

آپ کا نام نای مسلم بن حجاج قشیری ہے۔ کنیت ابو الحسین اور لقب عساکر الدین ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی قشیر سے تھا۔ اس لئے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے۔ آپ ۲۰۲ ہجری میں پیدا ہوئے۔ وطن نیشاپور ہے جو ایران میں صوبہ خراسان کا مشہور شہر ہے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، لیکن ان تمام تصنیفیں صحیح مسلم سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک آپ کی صحیح مسلم صحت و ممتازت میں صحیح بخاری کے بعد دوسرا درجہ کی کتاب ہے، جسے آپ نے تین لاکھ احادیث سے چھانٹ کر تصنیف کیا ہے۔

بقول شیخ محقق علیہ الرحمۃ والرضوان آپ علمائے سلف میں ایسے مقتدا و پیشوائیں

حضور ﷺ اپنی اکلیوں کی گھائیوں سے پانی نکالتے اور ایک شخص کو کہہ دیا کہ تو دانے ہاتھ سے نہ کھا سکے تو پھر دیسا ہی ہوا اور حضور ﷺ درختوں کو اس طرح چلاتے، جیسے اونٹ چلاتے جاتے ہیں۔

## حضرت امام ترمذی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۲۷۹ ہجری)

آپ ﷺ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ اسلمی ہیں۔ آپ بلند پایہ علماء، رسول اکرم ﷺ کی احادیث کے حفاظ اور متفق علیہ ثقہ محدثین میں سے ہوئے ہیں۔ علم فقہ و حدیث میں پید طولی رکھتے تھے۔ آپ ﷺ کی کتاب ترمذی شریف صحابہ میں سے ایک ہے جو آپ ﷺ کی عظمتِ شان، وععتِ حفظ، کثرتِ مطالعہ اور حدیث کے فن میں آپ ﷺ کی غایت درجہ تحریر علمی پر دلالت کرتی ہے۔ علماء نے آپ ﷺ کی کتاب ترمذی شریف کی شان میں کہا ہے۔ **ہوَ كَافٍ لِلْمُجْتَهِدِ وَمُغْنٌ لِلْمُقْلِدِ**۔ یعنی یہ کتاب مجتهد کے لئے کافی و دافی اور مقلد کو بے نیاز کرنے والی ہے۔

آپ ﷺ نے ترمذی شریف تصنیف کرنے کے بعد جاز، عراق اور خراسان کے علماء کی خدمت میں پیش کی تو سب نے اسے پسند فرمایا اور اچھی کتاب قرار دیا۔ شماں النبی ﷺ بھی آپ ﷺ کی تصنیف ہے، جو شماں نبوی کے موضوع پر ایک بہترین کتاب ہے اور بہت خیر و برکت کی حامل ہے۔ حلِ المشكلات کے لئے اس کا پڑھنا مشانخ و اکابر کے تجربہ میں آچکا ہے۔ آپ ۲۰۹ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۲۷۹ ہجری میں وفات پائی۔ علیہ الرحمۃ والرضوان۔ (ما خوذ از اشعة المعمات)

حضور پید عالم ﷺ کے تصرف کے متعلق آپ ﷺ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا أَعْرَفُ أَنَّكَ نَبِيًّا قَالَ إِنِّي دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ تَشْهِدُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَأَسْلَمَ الْأَغْرَابِيُّ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کیسے یقین کروں کہ

فَلَمْ يَرَشِّيْنَا يَسْتَرِّبَهُ وَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ  
أَغْصَانِهَا فَقَالَ إِنْقَادِي عَلَى بِاِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْقَادَتْ مَعَهُ  
كَالْبَعْيِرُ الْمَخْشُوشُ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَةَ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى  
فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ إِنْقَادِي عَلَى بِاِذْنِ اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ  
كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمُنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ إِنْتِشِمَا عَلَى بِاِذْنِ  
اللَّهِ فَالْتِشِمَا فَجَلَسَتْ أَحَدَثُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِنْيَ لَفْتَةً فَإِذَا آتَا بِرَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ  
قَدِيفَتْ قَنَافِقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَاقِ.

ترجمہ: ہم حضور ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ بے آب و گیاہ وادی یعنی  
میدان میں اترے۔ حضور ﷺ قضاۓ حاجت کے لئے تشریف لے گئے، لیکن پردوہ کی  
کوئی جگہ آپ کونہ ملی۔ آپؐ کی نظر اس وادی کے کنارے دو درختوں پر پڑی۔  
حضور ﷺ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ کو کپڑ کر  
درخت سے فرمایا کہ بحکم خدا میرے ساتھ چل۔ وہ درخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا  
جس کی ناک میں نکیل بندھی رہتی ہے اور اپنے ساری بان کی فرمانبرداری کرتا رہتا ہے۔  
یہاں تک حضور ﷺ اس دوسرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ  
کپڑ کر فرمایا کہ اے درخت تو بھی بحکم الہی میرے ساتھ چل، تو وہ بھی پہلے درخت کی  
طرح حضور ﷺ کے ساتھ چل پڑا۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ جب ان درختوں کی درمیان  
کی جگہ میں پہنچ تو فرمایا کہ اے درخت! تم دونوں بحکم الہی آپؐ میں مل کر میرے لئے پردوہ  
بن جاؤ تو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور حضور ﷺ نے ان درختوں کی آڑ میں  
قضاۓ حاجت فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس عجیب واقعہ کو دیکھے  
کر میں بیخا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ اٹھی تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ تشریف  
لارہے ہیں اور دیکھا کہ دفتاراً وہ دونوں درخت جدا ہو کر چلے اور اپنے تنے پر کھڑے  
ہو گئے۔ (مسلم شریف بحوالہ مشکوٰۃ صفحہ ۵۳۳)

حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث مبارکہ کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ  
ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم ﷺ کو خداۓ تعالیٰ نے تصرف کا وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ

نے فرمایا کہ غزوہ ذی قرڈ میں حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک تیر لگا تو حضور ﷺ نے ان کو بلایا۔

**فَبَصَقَ عَلَى أَثْرِ سَهْمٍ فِي وَجْهِ أَبِيهِ قَتَادَةَ قَالَ فَمَا ضَرَبَ عَلَى وَلَاقَاهُ.**

ترجمہ: اور زخم پر تھوک دیا۔ فرماتے ہیں، اس وقت سے نہ تو مجھے درد

ہوا اور نہ زخم میں پیپ پڑی بلکہ اچھا ہو گیا۔ (شفا شریف جلد اصفہ ۲۱۲)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ جگ بدر میں ابو جہل نے حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔

**فَجَاءَ يَحْمِلُ يَدَهُ فَبَصَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفَّهَا فَلَصِقَتْ.**

ترجمہ: پس وہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے اس ہاتھ پر تھوک دیا اور اس کو جوڑ دیا تو وہ اسی وقت جو گیا۔

(شفا شریف جلد اصفہ ۲۱۳)

مزید تحریر فرمایا کہ جنگ بدر میں حضرت جیبیب بن یاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موذن ہے پر ایسی ضرب لگی کہ جس سے موذن ماکٹ کر لیک گیا۔

**فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفَقَ عَلَيْهِ حَتَّى صَحَّ.**

ترجمہ: پس رسول ﷺ نے اس موذن ہے کو اس جگہ پر رکھا اور اس

پر تھوک دیا تو وہ موذن ہابا کل ٹھیک ہو گیا۔ (شفا شریف صفحہ ۲۱۳ جلد ۱)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

**مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَ قَتَادَةَ بْنَ مِلْحَانَ فَكَانَ لَوْجُوهُ بَرِيقٌ حَتَّى كَانَ يَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ كَمَا يَنْظُرُ فِي الْمَرْأَةِ.**

ترجمہ: رحمت عالم ﷺ نے حضرت قادہ بن ملحان کے چہرے پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرا تو ان کے چہرے میں اتنی چمک پیدا ہو گئی کہ اس میں چیزوں کا عکس اسی طرح دیکھا جاتا، جیسے آئینہ میں۔ (شفا شریف جلد اصفہ ۲۲۰)

امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تحریر فرماتے ہیں۔

**مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ صَبِيٍّ بِهِ عَاهَةً فَبَرَأً وَاسْتَوَى رَأْسُهُ.**

آپ سچے نبی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کھجور کے اس خوشہ کو اگر میں بلاوں اور وہ میرے پاس آ کر اس بات کی گواہی دے کے میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، جب تھے یقین آ جائے گا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اس خوشہ کو بلا یا تو وہ کھجور کے درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور ﷺ کے قریب زمین پر آ کر گرا۔ پھر آپ نے فرمایا، واپس چلا جا! تو وہ خوشہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۰۳)

اس حدیث شریف کو لکھ کر حضرت امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے درخت کے چھلوٹ کو بھی حضور ﷺ کے زیر فرمان کر دیا تھا۔

## حضرت علامہ قاضی عیاض کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۲۲ھجری)

آپ کا نام نبی عیاض ہے اور باپ کا نام موسیٰ بن عیاض بن عمر بن موسیٰ بن عیاض مخصوصی سنتی غرناطی۔ آپ مالکی المذہب تھے۔ ۲۷۶ھجری میں پیدا ہوئے اور مرکاش میں جمعہ کے دن جمادی الاولی ۵۲۲ھجری میں وفات ہوئی۔ آپ کو تھوڑی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یمن کے مشہور قبیلہ بنی سہلب سے آپ کا تعلق تھا اور شہر سبہ میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کا وطن تھا۔ اس بنیاد پر آپ کو سنتی کہا جاتا ہے اور عرصہ دراز تک سبہ کے قاضی رہ کر ۳۲۵ھجری میں چونکہ آپ غرناط منتقل ہو گئے تھے۔ اس لئے آپ کو غرناطی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے آباء و اجداد انہیں (اپیں) کے رہنے والے تھے جو وہاں سے شہر فاس منتقل ہوئے۔ پھر سبت میں آ کر مستقل سکونت اختیار کی۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے آپ کو انہیں بھی لکھا ہے۔

آپ تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم عقلیہ کے امام و بہترین خطیب تھے۔ کل ۳۰ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول الشفاء جعروف حقوق المصطفیٰ ﷺ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شفاسُرِیف وہ متبرک کتاب ہے کہ جس مکان میں رہے اسے کوئی ضرر نہ پہنچ اور جس کثرتی میں رہے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے اور جو مریض اس کتاب کو پڑھے یا سنے وہ شفایا پائے۔

آپ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں

وَسَلَّمَ تَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنْ يَشْهُدْ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هَذِهِ السَّلْمَةُ فَدَعَا هَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَاقْبَلَ  
تَحْدُدُ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهَدَتْ أَنَّهُ كَمَا  
قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبِتِهَا . (رواه دارمي)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ جب وہ حضور ﷺ کے قریب پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا نے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے سوا اور کون گواہی دے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا یہ بول کا درخت گواہی دے گا۔ یہ فرمائ کر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی کے کنارے تھے۔ وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا چلا۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور ﷺ نے اس سے تین بار (خدا تعالیٰ کی واحدانیت اور اپنی رسالت پر) گواہی طلب فرمائی۔ اس درخت نے تینوں بار گواہی دی کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا، اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۲۱)

حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے حضور ﷺ کو تصرف کا وہ اختیار بخشنا تھا کہ آپ درخت کو بلا تے تو وہ زمین کے سینہ کو چیرتا ہوا حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور جس بات کی آپ اس سے گواہی طلب فرماتے، وہ اس بات کی گواہی دیتا۔

ترجمہ: ایک عورت اپنے ایسے لڑکے کو لے کر حاضرِ خدمت ہوئی جسے  
جنون (پاگل پن) تھا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا مقدس ہاتھ اس کے سینہ پر  
چھیرا تو اس نے قہقہ کی اور اس کے پیٹ سے کالے بلے جیسی ایک چیز نکلی  
جو دوڑتی پھرتی تھی۔ (شفا شریف ج ۱ صفحہ ۲۱۳)

حضرت امام قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان احادیث کریمہ کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ  
ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم ﷺ کو خدا تعالیٰ نے تصرف کی بے پناہ قوتِ رحمت فرمائی تھی۔  
ایک اعتراض اور اس کا جواب: اگر کوئی شخص کہے کہ جب حضور ﷺ کو یہ قدرت  
حاصل تھی کہ حضرت معاویہ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا ہاتھ آپ نے جوڑ دیا اور  
حضرت حبیب بن یافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹ کر لکھے ہوئے موٹھے کو آپ نے  
صحیح کر دیا تو پھر حضور ﷺ کی ظاہری زندگی میں لشکرِ اسلام کے کسی ایک سپاہی کو بھی زخمی  
ہو کر شہید نہیں ہونا چاہیئے تھا۔

تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ارشادِ خداوندی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا  
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یعنی جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساعت  
آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ (پارہ ۱۰ کو ۱۰)

مزید ارشاد فرمایا وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کی  
موت کو ہرگز موخر نہیں فرمائے گا، جب کہ اس کا وقت آجائے گا۔ (پارہ ۲۸ کو ۱۳)

تو جب رحمتِ عالم ﷺ جانتے کہ اس زخمی کی شہادت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے  
تو آپ اس کے بارے میں تصرف فرماتے اور جب جان لیتے کہ اس کی دنیوی زندگی ختم  
ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ نہ کرتے۔

**صاحب مشکوٰۃ علامہ خطیب تبریزی کا عقیدہ**  
(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۱۳۰۷ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَغْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

ترجمہ: تو لوگوں نے کہا پھر ہم کس طرح جانیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے ایک مٹھی کنکری زمین سے اٹھا کر فرمایا کہ یہ گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ حضور ﷺ کے مقدس ہاتھ میں کنکریوں نے تبع پڑھی۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے کہا ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (خاصیں کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۲۵)

بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور سید عالم ہدیۃ اللہ دلوں کی کیفیات پر مطلع تھے۔ لیکن اس موقع پر جو فرمایا کہ یہ کام کام ہے تو اس میں مصلحت یہ تھی کہ جب حضور ان کے دل کی بات بتا دیتے تو ہو سکتا تھا وہ کہتے کہ یہ تو کام بھی کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا حضور ﷺ نے اس کی بجائے کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوادیا۔ جو کام سے ممکن نہیں اور لکھتے ہیں کہ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدر کی لڑائی میں میری تکوار ثبوت گئی۔

فَاعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْذًا فَإِذَا  
هُوَ سَيِّفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ وَقَاتَلَتُ بِهِ حَتَّى هَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَزُلْ  
عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ.

ترجمہ: پس رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک لکڑی دی تو وہ سفید رنگ کی لمبی تکوار ہو گئی اور میں نے اس سے لڑائی کی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو خلکت دی۔ وہ تکوار حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہی۔ (بیہقی، ابن عساکر، خاصیں کبریٰ جلد اصفہ ۲۰۵)

فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسِيَّاً مِنْ نَخْلٍ فَرَجَعَ فِي يَدِ  
عَبْدِ اللَّهِ سَيِّفَا.

ترجمہ: تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو سمجھو کر ایک شاخ عطا فرمائی، جوان کے ہاتھ میں تکوار بن گئی۔ (بیہقی، خاصیں کبریٰ، جلد اصفہ ۲۱۷)

اور تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عمرہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک غزوہ میں حضور سید عالم ہدیۃ اللہ کے ہمراہ تھے تو ایک روز بہت پیاسے ہوئے۔ حضور ﷺ نے ایک چھاگل منگوائے اس کو اپنے سامنے رکھا اور تھوڑا سا

## علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۱۹ هجری)

آپ کا نام عبدالرحمن، لقب جلال الدین اور رکنیت ابوالفضل ہے۔ کیم جب ۸۲۹ ہجری میں شہر سیوط میں پیدا ہوئے جونواح مصر میں دریائے نیل کے مغربی جانب واقع ہے۔ آپ پانچ سال سات ماہ کے تھے کہ باپ کے سایے سے محروم ہو گئے۔ حب وصیت چند بزرگوں نے آپ کی سرپرستی کی، جن میں شیخ کمال الدین ابن الہام خفی تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف پوری توجہ کی تو آپ نے آٹھ سال سے کم عمر میں حفظ قرآن سے فارغ ہو کر کئی علمی کتابیں حفظ کر لیں۔

تحصیل علوم کے بعد ۸۷۲ ہجری میں فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا اور ۸۷۴ ہجری سے حدیث شریف کے لکھانے میں مشغول ہوئے اور پڑھانے کی اجازت تو آپ ۸۷۶ ہجری میں مل گئی تھی۔ آپ نے خود حسن الحاضرہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدیع اساتذہ علوم میں تبحر عطا فرمایا ہے۔۔۔ آپ اپنے زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ اگر مجھ کو اس سے زیادہ ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا۔ آپ نے کل تین سو کتابیں لکھی ہیں، جن میں تفسیر جلالیں کا نصف اول، تفسیر اقان، خصائص کبریٰ اور تاریخ اخلاق فاء بہت مشہور ہیں۔

چالیس سال کی عمر میں آپ نے درس و تدریس، افتاء و قضا اور تمام دنیوی تعلقات سے الگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ہمہ تن تصنیف و تالیف اور عبادت و ریاضت و رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے ۶۳ سال کی عمر پائی اور معمولی سے مرض ہاتھ کے ورم میں بنتا ہو کر ۹۱۱ ہجری میں استمسک باللہ کے عہد میں انتقال فرمایا۔

آپ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرموت کے چند زمیندار حضور سید عالم<sup>صلی اللہ علیہ وسَّلَمَ</sup> کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جن میں اشعث بن قیس بھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے؟ آپ<sup>صلی اللہ علیہ وسَّلَمَ</sup> نے فرمایا سبحان اللہ! یہ تو کاہن کا کام ہے اور کاہن و کہانت کا مقام دوزخ ہے۔

**فَقَالُوا كَيْفَ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَافًا مِنْ حَصْنِي فَقَالَ هَذَا يَشَهَدُ أَنَّنِي رَسُولُ اللَّهِ فَسَبَّحَ الْحَصْنَ فِي يَدِهِ قَالُوا نَشَهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ**

حکم فرمایا۔ آپ نے پھر اسی طرح ان پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا۔ بسم اللہ! کھاؤ! اب ہم دس آدمی تھے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر جب حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک ہٹایا تو بدستور سات کھجوریں موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا اے بالا!

لَوْلَا إِنِّي أَسْتَخْسِنُ مِنْ رَبِّنِي لَا كَلَّا مِنْ هَذِهِ التَّمَرَاتِ حَتَّى نُرُدُّ الْمَدِينَةَ عَنْ أَخْرِنَا وَأَعْطَاهُنَّ غَلَامًا فَوْلَى وَهُوَ يَلُو كَهْنَ.

ترجمہ: اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہ آئی تو مدینہ واپس ہونے تک ہم ان ہی سات کھجوروں سے کھاتے۔ پھر آپ نے وہ کھجوریں ایک لڑکے کو عطا فرمادیں۔ وہ انہیں کھاتا ہوا چلا گیا۔ (ابونعیم، ابن عساکر، خصائص کبریٰ جلد اصغریٰ ۲۷۵)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مذکورہ بالا حدیثوں کو خصائص کبریٰ میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ کھلم کھلا واضح کر دیا کہ حضور سید عالم ﷺ کو من جانب اللہ ہر قسم کے تصرفات عطا کئے گئے تھے۔

دیوبند کے مولانا محمد حنف گنگوہی لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص خادم محمد علی جبک کا بیان ہے کہ ایک روز آپ نے قیلوہ کے وقت فرمایا کہ اگر تم میرے مرنے سے پہلے اس راز کو افشا (ظاہر) نہ کرو تو آج عصر کی نماز کمہ معظمه میں پڑھوادوں۔ عرض کیا ضرور۔ فرمایا، آنکھیں بند کر لو اور ہاتھ پکڑ کر تقریباً ستائیں ۲۷ قدم چل کر فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ دیکھا تو ہم باب معلاۃ پر تھے۔ حرم پہنچ کر طاف کیا۔ زم زم پیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے تعجب مت کرو کہ ہمارے لئے طی ارض ہوا بلکہ زیادہ تعجب اس کا ہے کہ مصر کے بہت سے مجاورین حرم ہمارے جانے والے یہاں موجود ہیں، مگر ہمیں نہ پہچان سکے۔ پھر فرمایا چاہو تو ساتھ چلو۔ ورنہ حاجیوں کے ساتھ آ جانا۔ عرض کیا ساتھ ہی چلوں گا۔ باب معلاۃ تک گئے اور فرمایا، آنکھیں بند کر لو اور مجھے سات قدم دوڑایا۔ آنکھیں کھولیں تو ہم مصر میں تھے۔ (احوال امصنفین صفحہ ۳۶)

اس واقعہ سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ چند ساعت میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچنے بلکہ دوسرے کو پہنچانے کی بھی قوت خداۓ تعالیٰ نے مجھے مرحت فرمائی ہے۔

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامان اوست  
بُحْر و بُر در گوشہ دامان اوست

(ڈاکٹر اقبال)

پانی ڈال کر اس میں کلی کی اور جو کچھ اللہ نے چاہا۔ کلام پڑھا۔

ثُمَّ أَذْخَلَ خِنْصَرَةً فِيهَا فَاقِسْمٌ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَ أَصَابِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَجَّرُ بَيْنَ أَيْمَانِ الْمَاءِ ثُمَّ أَمْرَ النَّاسَ فَشَرِبُوا  
وَسَقُوا وَمَلَئُوا قِرَبَهُمْ وَأَوْاَوْيُهُمْ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَثَ نَوَاجِزَةً .

ترجمہ۔ پھر حضور ﷺ نے اپنی چھوٹی انگلی اس میں ڈال دی، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپؐ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بھوت پڑے۔ پھر آپؐ نے لوگوں کو حکم دیا تو لوگوں نے خود پیا اور اپنے جانوروں کو پلاپا اور مشکیں و ڈوچیاں بھر لیں۔ یہ دیکھ کر آپؐ مسکرائے، یہاں تک کہ آپؐ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ (ابو نعیم، خصائص کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۳۲)

انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں مزید تحریر فرماتے ہیں، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ غزوہ تبوك میں ایک رات حضور ﷺ نے حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلاں! کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور! آپؐ کے رب کی قسم ہمارے تو شہ دان خالی ہو چکے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا، اچھی طرح دیکھو! اور اپنے تو شہ دان جھاؤ۔ سب نے اپنے تو شہ دان جہاڑے تو کل سات کھجوریں ملیں۔ آپؐ نے ان کو ایک دستِ خوان پر رکھا، پھر ان پر اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ! کھاؤ! ہم تینوں حضور ﷺ کے دستِ مبارک کے نیچے سے ایک ایک اٹھا کر کھانے لگے۔ حضرت بلاں فرماتے ہیں کہ میں بائیں ہاتھ میں گھٹلیاں رکھتا جاتا تھا، پیٹ بھر کھانے کے بعد جب میں نے ان کو گنا تو وہ چون ۵۳ تھیں۔ اسی طرح ہمارے دونوں ساتھیوں نے بھی پیٹ بھر کھایا۔ جب ہم لوگ سیر ہو گئے تو حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ سات کھجوریں اسی طرح موجود تھیں۔

سرکار اقدس ﷺ نے فرمایا اے بلاں! ان کھجوروں کو سنبھال کر رکھو، ان میں سے کوئی نہ کھائے، پھر کام آئیں گی۔ حضرت بلاں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کھایا۔ پھر جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو آپؐ نے انہیں سات کھجوروں کو لانے کا

ترجمہ: آپ ان چار بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کو عراق کے مشائخ براءہ کہتے تھے۔ اس معنی سے کہ وہ حضرات مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کرتے تھے اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ علی بن ہبی، شیخ بقاء بن بطون اور شیخ ابو سعد قیلوی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

فَمَا أَخْبَرْنَا أَبُو الْفُتوحِ عَبْدُالْحَمِيدَ بْنُ مَعَالِيِ الصَّرْصَرِيِّ قَالَ أَخْبَرْنَا الشَّيْخَ عَلَى بْنَ الْجَبَازِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَيْنِ الْكِيمَانِيَّ وَالْبَزَازَ يَقُولُانِ أَدْرَكُنَا أَعْيَانَ الْمَشائِخِ مِنَ الصَّدِرِ الْأَوَّلِ يُسَمُّونَ الشَّيْخَ عَبْدَالْقَادِرَ وَالشَّيْخَ عَلَى بْنَ الْهِيْثَيْ وَالشَّيْخَ بَقَاءَ بْنَ بَطْوَ وَالشَّيْخَ أَبَا سَعْدِنَ الْقَلْيَوَى الْبَرَأَةَ يَعْنِي يَرْءَهُ وَنَالَ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ۔

ترجمہ: یہ وہ بات ہے جس کی ہم کو ابوالفتوح عبدالحمید بن معالی صرسری نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو شیخ علی بن خباز نے خبر دی۔ انہوں نے کہا میں نے دو عمر کیانی اور براز سے سنا۔ وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم نے پہلے زمانہ کے مخصوص مشائخ کو پایا کہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ علی بن ہبی، شیخ بقاء بن بطون اور شیخ ابو سعد قیلوی (علیہم الرحمۃ والرضوان) کو براءہ کہتے تھے۔ یعنی یہ مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کرتے تھے۔

(بہجت الاسرار صفحہ ۱۵۳)

حضرت علامہ شٹنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مذکورہ بالاعبارتوں میں اپنا یہ عقیدہ صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ چار مشائخ مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ پہلے زمانہ کے بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ رہا اور اپنا یہ عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ چار مشائخ اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔

حضرت علامہ شٹنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو شیخ ابو محمد عبدالجبار بن احمد بن علی قرشی مصری مودت نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کو شیخ امام ابو ریبع سلیمان بن احمد بن علی سعدی مقری مشہور بہ ابن مغزل نے انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ عارف ابوالعباس احمد بن برکات بن املیل سعدی مقری جو حضرت شیخ ابو

## زبدۃ العارفین حضرت علامہ شٹنونی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - متوفی ۱۳۷۱ھجری)

آپؐ کو علامہ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب طبقات المقری بن میں اور خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نے حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاهرة میں الامام الاوحد یعنی بن نظریر امام کہا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں۔

لَقَدْ أَذْرَكَتِ الْمَسَايِّخُ مِنْ صَلْوَرِ الْقَرْنِ الْمَاضِيِّ يَقُولُونَ أَرْبَعَةٌ هُمُ الَّذِينَ يَرِءُ وَنَ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِيرُ وَالشَّيْخُ بَقَاءُ بْنُ بَطْوَا وَالشَّيْخُ أَبُو سَعْدِينَ الْقَيْلَوَى وَالشَّيْخُ عَلَى بْنُ الْهِيْبَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ترجمہ: میں نے پہلے زمانہ کے مشائخ کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ چار بزرگ ایسے ہیں جو مادرزادے ہے اور کوڑی کو اچھا کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقارور جیلانی، شیخ بقاء بن بطوا، شیخ ابو سعد قیلوی اور شیخ علی بن ہبیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۲)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

لَقَدْ رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مِنَ الْمَسَايِّخِ يَتَصَرَّفُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَتَصَرُّفِ الْأَحْيَاءِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِيرُ وَالشَّيْخُ مَعْرُوفُ الْكَرْجَى وَالشَّيْخُ عَقِيلُ الْمُنْجَى وَالشَّيْخُ حَيَاءُ بْنُ قَيْسِ الْحَرَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ترجمہ: میں نے ایسے چار مشائخ کو دیکھا ہے جو اپنی قبوروں میں ایسے تصرف کرتے ہیں، جیسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقارور جیلانی، حضرت شیخ معروف کرنی، حضرت شیخ عقیل منجی اور حضرت شیخ حیاء بن قیس حرانی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۳)

او حضرت شیخ علی بن ہبیتی علیہ الرحمۃ والرضوان کے تعارف میں تحریر فرماتے ہیں۔

هُوَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَسَايِّخَ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُمُ الْبَرَّةُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ يَرِءُ وَنَ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَهُمُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِيرُ الْجِيلِيُّ وَالشَّيْخُ عَلَى بْنُ الْهِيْبَى وَالشَّيْخُ بَقَاءُ بْنُ بَطْوَا وَالشَّيْخُ أَبُو سَعْدِينَ الْقَيْلَوَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نادہ کہتے کہ حضرت شیخ حیات  
حرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال ج کیا۔ جب ایک منزل پر سب قافلہ اترات تو حضرت  
اور ان کے ساتھی ایک بول کے درخت کے نیچے بیٹھے۔ ان کے خادم نے عرض کیا۔ اے  
میرے سردار! میں تازہ کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا هُنْزِ هُنْدِ الشَّجَرَةِ۔ یعنی اس  
درخت کو ہلا۔ اس نے عرض کیا اے میرے سردار! یہ تو بول کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا  
اے کو ہلا۔ جب اس نے ہلا یا تو اس پر سے تازہ کھجور میں گریں اور ان کو سب نے کھایا۔  
یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور پھر وہاں سے چل دیئے۔ (بجھے الاسرار صفحہ ۱۸۲)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو شیخ ابوالمعالی عبد الرحیم بن مظفر بن مہذب قرشی  
نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ناجو حضرت شیخ علی  
بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے  
علاقے میں ایک ایسا حاکم آیا جس نے ہم لوگوں پر بہت ظلم اور زیادتی کی۔ میں حضرت شیخ  
علی بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس یعقوبہ کے مقام  
پر نظر ہرا رہا، مگر ان کے رعب و بد بہ اور بیبت کی وجہ سے حاکم کے بارے میں ان سے کچھ  
عرض نہ کر سکا۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی اور حضرت مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے اور تمام  
مریدوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے ایک مرید کے ہاتھ میں تیر اور  
کمان دیکھ کر فرمایا کہ یہ مجھے دے دے۔ اس نے آپ کو دے دیا۔ پھر شیخ نے تیر کو کمان  
کے جگہ پر رکھ مجھے فرمایا کیا میں تیر چلا دوں؟ میں نے عرض کیا اے میرے سردار! اگر آپ  
چاہیں تو چلا دیں۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے انہیں زمین پر رکھ دیا تیسرا بار پھر انہیں انہا  
کر فرمایا کیا میں تیر چلا دوں؟ میں نے عرض کیا اے میرے سردار! جیسی آپ کی مرضی ہو۔

تب آپ نے تیر پھینکا تو وہ ایک درخت میں لگا جو آپ کے سامنے تھا۔ آپ  
میں اور اس درخت میں چار پانچ گز کا فاصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیر چلا دیا اور  
اس ظالم حاکم کی گردن پر لگا۔ تو ہم نے اور تمام حاضرین نے نظرہ تکمیر لگایا اور تیر و کمان  
کے مالک نے کھڑے ہو کر ان کو لے لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم کو خبر ملی کہ حاکم اپنے مکان

عمر و عثمان بن مرزوقي رضي اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے۔ ان سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت کے ساتھ ملک شام تک تجربید کے قدم پر سفر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی تیرا ہمارے ساتھ نہ تھا۔ تین دن گزر گئے کہ مجھے کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ملی۔ قریب تھا کہ میں زمین پر گر پڑوں۔ جب حضرت نے مجھے اس حال میں دیکھا تو ریت کے نیلے پر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ریت بھر لی۔ فَنَأَوْلَنِيَهُ سَوْيَقَا مَشْوُنَا فَأَكْلَثَ مِنْهُ حَتَّى شَبَعَتْ یعنی تو مجھ کو بھنا ہوا ستوجس میں شکر پڑی ہوئی تھی دیا تو میں نے اس کو کھایا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ پھر نیلے پر ایک ہاتھ مارا تو اس میں سے ایک میٹھا چشمہ نکل آیا جو کہ دنیا کے میٹھے چشموں سے بہتر تھا۔ میں نے اس سے پانی پا یہاں کہ آسودہ ہو گیا۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۱۷۵)

حضرت علامہ شفطونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو ابو محمد مالک بن شیخ ابو الفتح منجی نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کو شیخ عارف فقیہ فاضل ابوالفرح عبید بن منبع بن کامل عصعصی مقری نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کو شیخ عارف ابویتھی زکریا بن شیخ ابو زکریا مسکنی بن شیخ بزرگ ابو حفص عمر بن مسکنی مشہور حدیثی نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے شیخ عارف ہوشیار ابوالثنا احمد بن عبد الحمید سنجاری زرعی سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک سال میں نے شیخ سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم تجیری پر جو کیا۔ جب ہم جنگل میں پہنچ تو پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا اور ہم کو سخت پیاس لگی۔ یہاں تک کہ ہم قریب المرگ ہو گئے۔ حضرت نے راست سے تھوڑا ہٹ کر دور کعت نماز پڑھی اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ وہاں ایک پھر تھا جس پر آپ نے اپنا ہاتھ مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهَا عَيْنُ شَدِيدَةُ الْحَلَاوةُ۔ یعنی تو اس میں سے ایک نہایت میٹھا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ہم نے خوب پانی پا یہاں تک کہ سیر ہو گئے اور حضرت نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کر مجھے پلایا تو میں نے پانی اور ستوبیا۔ پھر ایک چلو بھرا اور پیا۔ پھر اس پر اپنا ہاتھ پھرا تو وہ پہلے کی طرح سخت پھر بن گیا، جس پر تری کا کچھ نام و نشان نہ تھا۔ فَاسْتَغْنِيْتُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ سَبْعَةً اَيَّامٍ یعنی پھر مجھے سات روز تک کھانے پینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۱۷۹)

حضرت علامہ شفطونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو ہمارے شیخ نبی الدین عبداللطیف بن شیخ نجم الدین عبدالمنعم بن علی بن میقل حرائی نے۔

آپ کی کل تصنیفات سانچھے ۲۰ ہیں، جن میں لمحات شرح مخلوٰۃ - عربی، اونچہ اللمحات، شرح مخلوٰۃ فارسی، مدارج الدبوٰۃ، شرح سفر السعادت، شرح فتوح الغیب، جذب القلوب، اخبار الاخیار، زبدۃ الٹاٹا اور مثبت بالنتیٰ وغیرہ بہت زیادہ مشہور و مقبول ہیں۔

سرکارِ اقدس ﷺ کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضور ﷺ نے چار بار آپ کو خواب میں اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ ۱۰۵۲ انہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ شہرِ دہلی کے مشہور محلہ مہروی شریف میں حوضِ ششی کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ آج جس کی ویرانی دیکھ کر محبت والے کا دل خون کے آنسو بھاتا ہے کہ عوام تو عوام علمائے اہلسنت حضرت قطب صاحب کے یہاں تو بڑے شوق سے جاتے ہیں، مگر اسی محلہ میں حضرت شیخ کے آستانہ پر حاضری نہیں دیتے جبکہ ان کے احسانات سے وہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

حضرت شیخ، حضور سید عالم ﷺ کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

وازاں جملہ آنست کہ دادہ شد آنحضرت ﷺ رامفاتخ خزانَ و سپردہ شد ہوئے۔ وظاہر ش آنست کہ خزانَ ملوک فارس و روم ہمہ بدستہ صحابہ افتادہ و باطن، آں کہ مراد خزانَ اجتناس عالم ست کہ رزق ہمہ درکف افتدار وے پردا۔ وقت تربیت ظاہر و باطن ہمہ بودے۔ (مدارج الدبوٰۃ جلد اصغر ۱۳۰)

حضور ﷺ کو خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اور خزانے ان کے سپرد کر دیئے گئے۔ اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ شاہانِ فارس و روم کے سارے خزانے صحابہ کے ہاتھ میں آئے اور باطن یہ ہے کہ اجتناس عالم کے خزانے مراد ہیں کہ سب کے رزق ان کے دستِ قدرت و اختیار میں دے دیئے گئے اور انہیں ظاہر و باطن سب کی تربیت کی قوت حاصل تھی۔

(مقدمہ انشعاع اللمحات اردو صفحہ ۱۰۶)

مخلوٰۃ شریف صفحہ ۸۲ پر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت ربعیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا سُلَّنَ یعنی مَأْنَگ۔ تو میں نے عرض کیا میں جنت میں حضور ﷺ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور؟ میں نے عرض کیا میری مراد تو بُلَیْ بھی ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں۔

میں مغرب کے بعد گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا کہ اس کو ایک غیبی تیر پہنچا جونہ معلوم کہاں سے آیا ہوا تھا۔ اس کی گردان میں لگا جس سے وہ ذبح ہو کر مر گیا۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۳۰)

حضرت علامہ فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا واقعات کو لکھ کر بھی اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اولیائے کرام کو کائنات میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

## حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال ۹۵۸ ہجری)

آپ کا نام عبد الحق۔ والد گرامی کا نام سیف الدین بن سعد اللہ ترک دہلوی بخاری۔ ابوالمحجد کنیت تھی۔ آپ کے آباء اجداد بخارہ کے رہنے والے تھے جو دہلی میں آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ آپ ماہ محرم ۹۵۸ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد سے دو تین مہینے میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا اور ایک ماہ کی قلیل مدت میں لکھتا سیکھ لیا۔ اس کے بعد میزان یاد کی۔ گلستان، بوستان، دیوان حافظ اور مصباح و کافیہ بھی اپنے والد سے پڑھی۔ بارہ سال کی عمر میں شرح شمسیہ و شرح عقائد اور پندرہ سال کی عمر میں مختصر و مطول پڑھی اور ابد الی زمانہ ہی میں ایک سال کچھ مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ساتھ آٹھ سال تک فقہائے ماوراء النہر کے درس میں رہے، جنہوں نے رخصت ہوتے وقت آپ سے یہ کہا کہ ہم نے تم سے فائدہ اٹھایا تم پر ہمارا کوئی احسان نہیں۔

بائیس سال کی عمر میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر مند مدرس پر جلوہ افروز ہوئے، مگر پھر عمر کے اڑتیسوسیں سال میں مکہ معظمہ چلے گئے۔ وہاں کے محدثین سے بخاری اور مسلم کا درس لیا۔ ماہ رمضان ۹۹۶ ہجری میں حضرت شیخ عبدالوهاب مقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت با برکت میں حاضر ہوئے اور مخلوٰۃ شریف پڑھنا شروع کی۔ درمیان میں تقریباً تین ماہ مدینہ طیبہ سرکار اقدس ﷺ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ پھر کہ مuttle و اپس آ کر حضرت شیخ عبدالوهاب سے مخلوٰۃ شریف کا درس مکمل کیا۔ حقیقت میں حدیث، تصوف اور فقہ کی اعلیٰ تعلیم آپ نے اسی برگزیدہ ہستی سے حاصل کی۔ آپ کی ذات پر ہندوستان کو فخر ہے کہ مکہ معظمہ سے ۹۹۹ ہجری میں وہاں آ کر بس سے پہلے علم حدیث سے ہندوستان کو آپ ہی نے منور کیا اور اپنی تصنیفات سے علم حدیث کو اس ملک کے ہر گوشے میں پہنچا دیا۔

قَالَ الشَّيْخُ عَلَىٰ بْنُ الْقَرْشِىِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مِنَ الْمَشَايخَ يَتَصَرَّفُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَصَرْفِ الْأَحْيَاءِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرُ وَالشَّيْخُ مَعْرُوفُ بِالْكَرْخِيِّ وَالشَّيْخُ عَقِيلُ بِالْمُنْجِيِّ وَالشَّيْخُ حَيَاتُ بْنُ قَيْسٍ بِالْجَرَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

ترجمہ: حضرت شیخ علی قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چار ایسے مشائخ کو دیکھا جو اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقدیر جیلانی، حضرت شیخ معروف کرنی، حضرت شیخ عقیل مجی اور شیخ حیات بن قیس حرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم (زبدۃ الاسرار صفحہ ۹) اسی کے مثل آپ نے اشد المعنات جلد اصفہان ۱۵۷ میں بھی تحریر فرمایا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے مذکورہ بالاحریروں سے اپنا یہ واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے تمام عالم کو حضور ﷺ کے تصرف میں کر دیا ہے اور اولیاء اللہ بھی اپنی ظاہری زندگی اور بعد وصال دونوں حالتوں میں تصرف کرتے ہیں۔

## حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ متوفی ۶۷۱ھجری)

آپ ”لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفہ ابوالقاسم اکبر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفرِ حج میں جہاز کے اپنے ساتھیوں کو مقامات اور کرامات اولیاء سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ اولیاء کے پانی پر چلنے اور دور دراز مقامات کو آنا فاناً طے کرنے کی بات چل پڑی تو جہاز کے کپتان نے ان کرامات سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ایسے جھوٹ کے تومار بہت سنن میں آتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر آپ کی غیرتِ ایمانی جاگ اٹھی اور سمندر میں چھلانگ لگادی۔

یہ دیکھ کر لوگوں نے کپتان کو طامت کی اور وہ خود بھی اس بات پر نادم ہوا کہ میرے جھوٹ نے کی وجہ سے فقیر ہلاک ہوا اور خلیفہ کے ساتھی حضرت کی جدائی کے تصور سے عملکرنے ہونے لگے۔ عین اسی وقت حضرت خلیفہ نے بلند آواز سے کہا کہ رنجیدہ نہ ہوں میں خیر و عافیت سے پانی کے اوپر چل رہا ہوں۔ یہ سن کر تمام اہل جہاز اور کپتان نے

وازا اطلاق سوال کہ فرمودسل بخواہ و تخصیص نہ کر دبمطبو بے خاص معلومی شود کہ کاہر ہم  
مر بdest ہمت و کرامت اوست ﷺ ہرچہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدہ فیان من  
جُوْدَكَ اللَّهُنَّا وَضَرَّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ الْلُّوحِ وَالْقَلْمَ . اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو  
داری۔ بدرگاہش بیاد ہرچہ می خواہی تمنا کن۔

ترجمہ: ماگ سوال کو مطلق فرمانے کی خاص چیز سے مقید نہ فرمانے سے معلوم ہوتا ہے  
کہ سارا معاملہ حضور ﷺ کے مقدس ہاتھوں میں ہے جو کچھ چاہیں، جس کے لئے چاہیں  
اپنے رب کے حکم سے عطا فرمادیں۔ اس لئے کہ دنیا اور اس کی شادابی آپ ہی کی سخاوت  
سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو  
ان کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جو چاہو ماگ لو۔ (افتح الملمعات جلد اصفہ ۳۹۶)

حضور سید عالم ﷺ کے اختیارِ کلی کے متعلق واضح لفظوں میں مزید تحریر فرماتے ہیں۔  
ملک و ملکوت جن و انس و تمام عوالم تقدیر و تصرف الہی عز و جل درجیۃ قدرت و  
تصرف و نے بود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (افتح الملمعات جلد اصفہ ۳۲۷ مطبع کلکتہ)

ترجمہ: جن و انس کے تمام ملک و حکومت اور سارے جہان خداوند قدوس کی عطا  
سے حضور ﷺ کے قدرت و تصرف میں ہیں۔ (مقدمہ افتح الملمعات اردو جلد اصفہ ۱۰)

حضرت شیخ، بزرگوں کے تصرف کے بارے میں مزید تحریر فرماتے ہیں۔

الشیخ علی بن الهیتی اَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَشَائِخَ الْعِرَاقِ  
يُسَمُّونَهُمُ الْبُرُؤَةُ عَلَى أَنَّهُمْ يُبَرُّؤُونَ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَهُمُ الشَّیْخُ  
عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِیْلَیُ وَالشیخ علی بن الهیتی والشیخ بقاء بن بطوط  
وَالشیخ ابو سعد بن القیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم.

ترجمہ: حضرت شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چار مشائخ میں  
سے ہیں، جنہیں بُرُؤَة ہیعنی شفا کہتے تھے۔ اس لئے کہ وہ مادرزادہ ہے  
اور برص کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ  
علی بن ہیتی، شیخ بقاء بن بطوط اور شیخ ابو سعد قیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم  
(زبدۃ الاسرار اصفہ ۹)

بعد وصال اولیاء اللہ کے تصرف کرنے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

عبد الرحمن نخلی قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کے یہاں اولاد نزینہ زندہ نہیں رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے۔ جب شیخ احمد پیدا ہوئے تو ان کے لئے اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کی اور ان سے استمداد و روحانی توجہ کے طالب ہوئے۔ وہ ہر جمعہ کے دن شیخ احمد نخلی کو حضرت شیخ تاج سنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے شیخ تاج سنبلی نے قدرے تأمل کے بعد شیخ احمد کو لانے والے خادم کے ذریعے کہلا بھیجا کہ یہ بچہ آپ کی طرح کا نہیں ہے بلکہ آپ سے بڑھ کر صاحبِ فضل اور سعادت مند ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی عمر کم ہے۔

جب خادم اپنے مالک کے پاس پہنچا اور انہیں شیخ تاج سنبلی کا پیغام سنایا تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے فوراً واپس بھیجا کہ میری طرف سے حضرت شیخ تاج سنبلی کی خدمت میں التماں کرو کہ آقائے من! میں نے اپنی عمر اس بچہ کو دے دی ہے اور اس بارے میں آپ سے سفارش کا طالب ہوں۔ جب حضرت شیخ نے یہ پیغام سنایا تو فوراً توجہ کی اور چند منٹ کے بعد اس خادم سے کہا اپنے مالک سے کہہ دو کہ ان کا مدعا پورا ہو گیا ہے اور اپنی طرف سے انہیں (یعنی شیخ احمد نخلی کے والد کو) تین ماہ کی مہلت فری آختر کی تیاری کے لئے عطا کی۔ چنانچہ احمد نخلی کے والد اسی مدت میں اس عالمِ فانی سے رخصت ہو گئے اور شیخ احمد نخلی نے نوے ۹۰ سال کی عمر پائی۔ (انفاس العارفین صفحہ ۳۹۳)

مذکورہ بالواقعات کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا یہ عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کائناتِ عالم میں تصرف کرنے کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیک وقت نگاہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کر دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور لوگوں کی عمریں گھٹانے بڑھانے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ اگر حضرت شاہ صاحب کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ ان واقعات کو اپنی کتاب میں ہرگز نہ لکھتے، بلکہ آپ اولیاء اللہ کے تصرفات کو بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ

آئندہ فقیروں کے ساتھ گستاخی کرنے سے توبہ کی اور حلقہ نیازمنداں میں شامل ہو گئے۔ ان کے رجوع و توبہ کے بعد حضرت خلیفہ صحیح دسالم جہاڑ پر چڑھ آئے۔  
(انفاس العارفین صفحہ ۷۷)

مزید لکھتے ہیں کہ رحمت اللہ کفش دوز نے بیان کیا کہ ایک موقع پر حضرت شیخ ابوالرضاء محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت باہیزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض اوقات کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو قوت جذب اور شیخ کی گرمی نگاہ سے اس کی جان نکل جاتی تھی۔ آج کل ہم مشائخ کا شورستہ ہیں، مگر کسی کی قوت باطنی میں یہ تاثیر نہیں دیکھی۔ یہ سن کر حضرت شیخ نے جوش میں فرمایا کہ باہیزید روحیں تو نکال لیتے تھے، مگر جسم میں واپس نہیں لوٹاتے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے میرے دل کو اپنے قلب اطہر کے زیر سایہ ایسی تربیت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جب چاہوں کسی کی روح کھینچ لوں اور جب چاہوں اسے واپس لوٹا دوں۔

عین اسی وقت شیخ نے مجھ پر نظر کر کے میری روح کھینچ لی اور میں زمین پر گر کر مر گیا اور مجھے اس دنیا کا کوئی شعور نہیں رہا، سوائے اس کے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے دریا میں ڈوبا ہوا پایا۔ آپ نے اعتراض کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اسے دیکھو! مردہ ہے یا زندہ؟ اس نے سوچ کر کہا کہ مردہ ہے۔ فرمایا اگر تو چاہے تو اسے مردہ چھوڑ دوں اور اگر پسند کرے تو اسے زندہ کروں۔ کہنے لگا اگر زندہ ہو جائے تو یہ انتہائی مہربانی ہو گی۔ آپ نے مجھ پر دوبارہ توجہ ڈالی تو میں زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام حاضرین مجلس حضرت شیخ کی قوت حال سے بہت متعجب ہوئے۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۰)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار سید برهان بخاری قونخ کے درد میں بتلا ہو گئے اور شدید بے چینی محسوس کرنے لگے۔ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا گیا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سرمانے بیٹھ کر ان کے مرض کو اس طرح کھینچ لیا کہ انہیں فوراً شفا کے کاملہ ہو گئی۔ البتہ کبھی کبھی قونخ کا یہ عارضہ حضرت شیخ کو ہو جاتا تھا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۳۶)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد نخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند حضرت شیخ

ذہن پر زور دیا لیکن یاد نہ آیا۔ اس تار کے ٹوٹنے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور بے ذوقی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اچانک ایک فقیر منش، طبع چہرہ، دراز زلف پیر مرد نمودار ہوا اور اس نے مجھے بتایا

علیٰ کہ رہ حق نہ نہایہ جہالت ست

میں نے کہا جزاک اللہ خیر الجراء۔ آپ نے مجھے کتنی پریشانی سے نجات دلائی اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ پان پیش کئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ یہ بھولا ہوا مصروعہ یاد دلانے کی مزدوری ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، یہ تو بطورِ ہدیہ اور شکریہ پیش کر رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا میں پان استعمال نہیں کیا کرتا۔ میں نے عرض کیا پان کے استعمال میں کوئی شرعی پابندی ہے یا طریقت کی رکاوٹ؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں بھی اس سے احتراز کروں۔ انہوں نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ میں پان کھایا نہیں کرتا۔ پھر فرمانے لگے مجھے جلدی جانا چاہیے۔ میں نے کہا میں جلدی چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں بہت جلد جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدم اٹھایا اور گلی کے آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کسی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر ہے۔ میں نے آواز دی، اپنے نام سے تو اطلاع کرتے جائیے تاکہ میں فاتح تو پڑھ لیا کروں۔ فرمایا فقیر کو سعدی کہتے ہیں۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۱۲)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کیا کہ اللہ والے بعد وصال بھی تصرف کی وہ قوت رکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں دور دراز مقامات پر بھی پہنچ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پریشانیوں سے چھکارا دلاتے ہیں۔

## زبدۃ العرفاء حضرت علامہ نبہانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۳۵۰ھجری)

(آپ کا مختصر تعارف اسی کتاب کے بیان حاضر و ناظر میں ملاحظہ ہو۔ انوار احمد قادری) آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت شیبان رائی علیہ الرحمۃ والرضوان سفرِ حج کے لئے نکلے۔ راستے میں ایک چکہ ایک شیر ہمارے سامنے آگیا۔ میں نے حضرت شیبان سے کہا دیکھئے! یہ کتنا ہمارے

وَلِلنُّقْشَبِنِيَّةِ تَصْرُفَاتٌ عَجِيبَةٌ مِنْ جَمْعِ الْهِمَةِ عَلَى مُرَادٍ فَيُكُونُ عَلَى  
وَفِقِ الْهِمَةِ وَالثَّاثِيرِ فِي الطَّالِبِ وَذَفْعِ الْمَرْضِ عَنِ الْمَرِيضِ وَأَفَاضَةِ  
الْتُّوبَةِ عَنِ الْعَاصِيِّ وَالْتَّصْرُفِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ حَتَّى يُحْبُوا وَيُعَظِّمُوا  
وَفِي مَدَارِكِهِمْ حَتَّى تَسْتَمَلَ فِيهَا وَاقْعَاتٌ عَظِيمَةٌ وَالْإِطْلَاعُ عَلَى نِسْبَةِ  
أَهْلِ اللَّهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَأَهْلِ الْقُبُورِ وَالْأَشْرَافِ عَلَى خَوَاطِرِ النَّاسِ وَمَا  
يَخْتَلِفُ فِي الصُّدُورِ وَكَشْفُ الْوَقَائِعِ الْمُسْتَقْبَلِ وَذَفْعُ الْبَلِيلَةِ النَّازِلَةِ  
وَغَيْرِهَا وَنَحْنُ نَنْهَا عَلَى نَمُوذَجٍ مِنْهَا. (القول الجميل صفحہ ۱۰۳)

ترجمہ: اور نقشبندیوں کے لئے عجائب تصرفات ہیں۔ ہمت باندھنا  
اکسی مراد پر۔ پس ہوتی ہے۔ وہ مراد ہمت کے موافق اور طالب میں تاثیر  
کرتا اور بیماری کو میریض سے دفع کرتا اور عاصی پر توبہ کا افاضہ کرتا اور لوگوں  
کے دلوں میں تصرفات کرتا تاکہ وہ محبوب اور معظم ہو جائیں یا ان کے خیالات  
میں تصرف کرتا تاکہ ان میں واقعات عظیمه متمثلاً ہوں اور آگاہ ہو جانا اللہ  
کی نسبت پر زندہ ہوں یا اہل قبور اور لوگوں کے خطرات قلبی پر اور جوان کے  
سینوں میں خلجان کر رہا ہے اس پر مطلع ہونا اور واقعات آئندہ کا مکشف ہونا  
اور بلائے نازل کو دفع کر دینا اور سوائے ان کے اور بھی تصرفات ہیں اور ہم  
تجھ کو اے کتاب کے دیکھنے والے! ان میں سے بعض تصرفات پر آگاہ کرتے  
ہیں۔ بطریق نمونے کے۔ (شفاء العلیل ترجمہ القول الجميل)

مزید لکھتے ہیں۔ والد ماجد نے فرمایا کہ اکبر آباد میں مرتضیٰ محمد زاہد سے تعلیم کے  
دوران ایک دفعہ سبق سے واپسی پر ایک لمبی گلی سے گزر ہوا۔ اس وقت میں خوب ذوق  
میں حضرت سعدی شیرازی کے یہ اشعار گلستان رہا تھا۔

جزیا د دوست ہرچہ کنی عمر ضائع ست جز سر عشق ہرچہ بخوانی بطلات ست  
سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق علیے کہ رو حق نہ نماید جہالت ست

ترجمہ: محبوب کی یاد کے علاوہ جو کچھ تو کرے عمر ضائع ہے۔ عشق کے رمز کے  
سواتو جو کچھ پڑھے سب باطل ہے۔ اے سعدی! ایسا نقش جو حق کے علاوہ ہو  
اس سے دل کی تختی دھو ڈال، جو علم کہ رواحق نہ دکھائے جہالت ہے)۔

والد ماجد نے فرمایا اتفاق کی بات چوتھا مصروع میرے ذہن سے اتر گیا۔ ہر چند

بلوڑ تمسخر آپ کے پاس دو برتن شراب سے بھر کر ہدیہ بھیجے۔ حضرت شیخ نے برتن دیکھ کر اہلاؤ سہلاً فرمائ کر فقیروں کو برتنوں کا منہ کھولنے کا حکم فرمایا۔ بادشاہ کا ایچی کہنے لگا حضورت! یہ آستانہ خراب ہو جائے گا (یعنی شراب سے گندہ ہو جائے گا) آپ نے فرمایا کھول دو کوئی حرج نہیں۔ فقیروں نے برتن کا منہ کھول دیا مگر کوئی چیز باہر نہ نکلی۔ فرمایا ذرا جھکاؤ اور دباو! جب برتن جھکایا تو ایک سے شہد اور دوسرے سے بہترین قسم کا گھنی نکلا۔ بادشاہ کا ایچی یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت شیخ نے فقیروں کے ہاتھ اس میں سے تھوڑا سا بادشاہ زاہر کو تبر کا بھیجا۔ اس نے توبہ کی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ (ایضاً صفحہ ۵۶۰)

مزید لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ صالح و عابد محمد بن ناصر شہیدی کہتے ہیں کہ میں حضرت مرشد محمد بن عمر ابو بکر بن قوام علیہ الرحمۃ والرضوان المتوفی ۶۵۸ ہجری کے پاس تھا۔ آپ نے اسی مسجد میں نمازِ عصر پڑھی، جہاں عموماً پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑے ہجوم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حاضرین میں سے ایک شخص عرض کرنے لگا! حضور! مردِ کامل کی نشانی کیا ہے، جسے تصرف حاصل ہو؟ مسجد کا کھمباسا منے تھا، فرمایا مردِ متمکن و متصرف کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کھبے کی طرف اشارہ کرے تو کھمبادشی سے جگلانے لگے۔ لوگوں نے کھبے کو دیکھا تو وہ آپ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہاتھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۶۷)

مزید آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن قوام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا معمود کی عزت کی قسم مجھے وہ حال عطا ہوا ہے کہ اگر بغداد کو کہوں کہ مرکاش کی جگہ چلا جا۔ یا مرکاش کو کہوں، بغداد بن جا تو ایسا ہی ہو۔ آپ نے ایک جماعت کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ میں اسی طرح عرش کا پایہ دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے چہرے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ (ایضاً صفحہ ۵۷۹)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ محمد بن عیسیٰ زیلیعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جوان لڑکا تھا۔ دیہاتی عربوں کی عادت کے مطابق ایک دعوت میں تکوار ہاتھ میں لئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھیل کوڈ میں مشغول تھا۔ اتفاق سے تکوار ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی اور اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔ حضرت کو علم ہوا تو اسے بلایا۔ آنکھ کو پھر اس کی جگہ پر کھا اور اس پر تھوکا آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اپنے گاؤں والی مسجد کی آپ تعمیر کر رہے تھے کہ ایک آدمی اوپر سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اسے آپ کی خدمت میں اٹھالائے۔ آپ نے ہاتھ پھیر کر اس پر تھوک لگا دیا تو اس کی گردن سیدھی ہو گئی اور

راتے میں حائل ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے سفیان! خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیرنے حضرت کے الفاظ نے تو دم ہلانے لگا، جس طرح پالتو کا دم ہلاتا ہے۔ حضرت شیبان اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے کان پکڑ کر مروڑے۔ میں نے کہا یہ تو شہرت طلبی ہوئی۔ فرمانے لگے ٹوری! اس میں کون سی شہرت طلبی ہے۔ میں تو شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر مجھے شہرت پسند ہوتی تو میں مکہ شریف تک اپنا سامان اس کی پشت پر لاد کر لے جاتا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۳۷۳)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت محمد بن احمد حمدویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمان ہوئے، آپ ان کے پاس تواضع کے لئے میدہ کی روٹیاں اور بھوتا ہوا گوشت لائے۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ تو ہمارا کھانا نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، آپ لوگوں کا کھانا کیا ہے؟ کہنے لگے بس سبزی ہی ہے۔ آپ نے انہیں سبزی پیش کر دی اور خود گوشت تناول فرمایا۔ وہ لوگ رات بھر عبادت میں مصروف رہے اور حضرت پوری رات پیٹھ کے مل سوتے رہے۔ صحیح کی نماز ان کے ساتھ پڑھی۔ پھر فرمایا حضرت! آئیے ذرا سیر و تفریق کر آئیں۔ سب ایک تالاب پر پہنچے۔ آپ نے اپنی چادر پانی پر بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر چادر اٹھائی اسے پانی نہیں لگا تھا۔ پھر فرمایا یہ تو گوشت کا عمل ہے۔ بتائیے! سبزی کا عمل کہاں تک ہے؟ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۳۸۱)

مزید لکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر سمندر کی طرف گئی۔ جب شیکشی میں سوا ہو کر وہاں آئے، بچے کو پکڑ کر اپنی کشتنی میں بٹھایا اور سمندر میں کشتنی لے کر چل دیئے۔ حضرت شیخ محمد بن یوسف بوراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عبادت خانہ سے باہر تشریف لارہے تھے کہ وہ عورت آپ کے دامن سے چھٹ گئی اور کہنے لگی، جب شیکشی کر چلتے ہیں اور اب وہ اس کشتنی میں ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمندر کی طرف پڑھے اور فرمایا اے ہوا! حکم جا! اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوارک گئی۔ پھر آپ نے کشتنی والوں کو پکارا کہ بچہ اس کی ماں کو دے دو، لیکن وہ نہ مانے اور آگے پڑھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے کشتنی تھہر جا۔ کشتنی کھڑی ہو گئی۔ آپ پانی پر چل کر گئے اور بچے کو کشتنی سے لے کر ماں کے پاس پہنچا دیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۳۸۵)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ملک زاہر کے پاس اولیاء اللہ کے دشمن گروہ کے کچھ

اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہاں کہ جب وہ چاہتے ہیں، درخت کے پتے کو سونے کا سکہ بنا لیتے ہیں اور عصا (لائھی) کو آدمی بنا لیتے ہیں۔ اگر حضرت علامہ نہمانی کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ اس قسم کے واقعات کو اپنی کتاب میں ہرگز نہ لکھتے۔

## صاحب قلائد الجواہر علامہ تادفی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - متوفی)

آپ حضرت شیخ محبی الدین ابوالعباس سید احمد رفائلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۷۸ ہجری) کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان چار ہستیوں میں سے ہیں جو حکمِ الہی انہوں کو بینا، کوڑھیوں کو تدرست اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۸۹)

مزید حضرت شیخ علی بن ہبیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۶۳ ہجری) کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ ان شیوخ میں ایک ہیں جو انہوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔

(قلائد الجواہر صفحہ ۳۱۳)

مزید حضرت شیخ ابو نعہم مسلمہ بن نعہم سرودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۶۶ ہجری) کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے تصرف میں اللہ تعالیٰ تکوئی نظام دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۲۳)

مزید حضرت شیخ رُسَّلان دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کا تصرف سب پر نافذ تھا۔

مزید حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبدالمبرری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۸۰ ہجری) جو عراق کے عارفین و مقریبین میں بہت بلند مقام پر فائز تھے ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے عالم تکوئی کے نظام میں تصرف کا فرض تفویض کر دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۲۹)

مزید حضرت شیخ ابو الحسن جو سیرۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک تھے جن کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے لئے ظاہر فرمائیں اور جو مخلوق میں تصرف کا حق ادا کر دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۵۷)

مزید حضرت شیخ عبدالرحمن طفونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت شیخ عبدال قادر

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر وہ اسی وقت اٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔

(جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۲۰)

علامہ نبہانی مزید لکھتے ہیں کہ ابو بکر مقدس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فقیر محمد بن علی یوسف اشکل یعنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھئے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آگے بڑھا کر پھیلانے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سے آگ نکل رہی تھی اور دوسری سے پانی اُمل رہا تھا۔ فرمانے لگے ابو بکر تم نے کرامت دیکھی؟ میں نے کہا جی ہاں! بقول شرجی، پھر آپ نے انگلیاں بند کر لیں۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۵۵)

علامہ نبہانی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد شربینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحزادے حضرت احمد فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی لاہی کو حکم دیا کرتے تھے کہ ایک بہادر انسان کی شکل دھار لے۔ وہ اسی وقت انسانی شکل میں آ جاتی۔ آپ اسے حاجتیں پوری کرنے کے لئے بھیج دیتے۔ اس کے بعد میں وہ پھر لاہی بن جاتی۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۳۷)

مزید لکھتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آپ کا لڑکا احمد شدت مرض سے کمزور ہو گیا، موت کے دروازہ پر پہنچا اور حضرت عزرا تیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آگئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس کی موت کا معاملہ منسوخ ہو گیا ہے۔ آپ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں۔ حضرت عزرا تیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور احمد اس بیماری کے بعد تین سال تک زندہ رہے۔ (ایضاً صفحہ ۲۳۷)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن ابو الحسن بکری مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ (متوفی ۹۹۳ ہجری) ایک دن سیر کے لئے نکلے۔ ساتھیوں میں سے ایک کو فرمایا جاؤ اور ہمارے لئے کھانا خرید لاؤ۔ اس نے کہا حضور جس شخص کے پاس رہم ہے وہ ابھی نہیں آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمارا خرچ اللہ جل جمدہ کے علاوہ کسی کے ذمہ نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ بڑھا کر درخت کا ایک پتہ توڑا اور اس آدمی کو پکڑا دیا۔ اس نے دیکھا تو وہ دینار تھا۔ فرمایا جاؤ اور ہمارا کھانا خرید لاؤ۔ حاضرین یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔

(بحوال اللہ وکب الدّری جامع کرامات اولیاء صفحہ ۷۸۳)

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ واضح کیا ہے: ادا کر ادا کر ادا کر کائنات میں طرح طرح کے تصرف کا

عنه جن کے بے حد مدعاہ تھے، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی خلوق پر تصرفِ تام عطا فرمادیتا ہے۔ (فَلَمَّا دَبَّ الْجُوَافُ صَفَرَ ۖ ۲۰۰)

اور حضرت شیخ حیات بن قیس حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۸۱ ھجری) کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ موجودات میں تصرف کا حق عطا فرماتا ہے۔ (فَلَمَّا دَبَّ الْجُوَافُ صَفَرَ ۖ ۲۰۳)

اور حضرت شیخ فضیب البیان موصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۵۰ ھجری) کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کا شمار ان بزرگ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ قبولیتِ تام عطا کر دیتا ہے اور تکونی نظام ان کے پرداز کر دیتا ہے۔ (فَلَمَّا دَبَّ الْجُوَافُ صَفَرَ ۖ ۳۱۲)

اور حضرت شیخ ادريس بن مکارم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے مشہور مشائخ اور عارفین کے سربرا آورده بزرگوں میں سے تھے، ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے جن کو اللہ رب العالمین عالم میں تصرفات کے اختیار عطا کر دیتا ہے۔ (فَلَمَّا دَبَّ الْجُوَافُ صَفَرَ ۖ ۳۲۲)

اور حضرت شیخ صالح ابو عبد اللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۹۹ ھجری) جو مصر کے مشہور مشائخ میں سے ہوئے ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ موجودات میں تصرف کا حق عطا فرمادیتا ہے۔ (فَلَمَّا دَبَّ الْجُوَافُ صَفَرَ ۖ ۳۳۲)

اور حضرت شیخ ابو الحسن بن علی المعرف بے اعراب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۰۹ ھجری) جو عراق میں بطائیح کے مشائخ میں بہت بڑے محقق اور عارف ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ عالم ظاہری تکونی نظام تفویض فرمادیتا ہے۔ (فَلَمَّا دَبَّ الْجُوَافُ صَفَرَ ۖ ۳۳۱)

اور حضرت شیخ ابو الحسن علی بن حمید المعرف بے صباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۱۲ ھجری) جو مصر کے مشہور مشائخ اور محققین و عارفین میں سے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کی شخصیت کو عالم میں تصرف کا حق عطا کیا گیا تھا۔ (فَلَمَّا دَبَّ الْجُوَافُ صَفَرَ ۖ ۳۵۳)

حضرت علامہ محمد سعیؒ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مذکورہ بالاعبارتوں سے روزِ روشن کی طرح ان کا یہ عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ خدا تعالیٰ بہت سے اولیائے کرام کو کائنات میں پورا تصرف عطا فرمادیتا ہے۔

جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے مشہور مشائخ میں سے تھے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ جو بات بھی کہہ دیتے، وہ ضرور پوری ہوتی، خواہ برسوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ (فلامنڈ الجواہر صفحہ ۳۶۲)

مزید حضرت شیخ بقاء بن بطور حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے صاحبِ کرامت بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ ان چار ہستیوں میں سے ایک ہیں جو حکمِ الہی انہوں اور کوڑھیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ (فلامنڈ الجواہر صفحہ ۳۶۹)

اور حضرت شیخ مطر بازرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے جلیل القدر اور صاحبِ کرامت شیوخ میں سے ہوئے ہیں، ان کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے تصرفات اظہر من الشمس تھے۔ (فلامنڈ الجواہر صفحہ ۳۷۲)

اور حضرت شیخ ابو مدین شعیب مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کو تصرفات میں پیدا طولی اور احکاماتِ ولایت میں پیدا حاصل تھا اور آپ ان ہستیوں میں سے ایک تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کی قوت عطا فرمائی تھی اور جن کے دستِ تصرف میں مملکتِ باطنی کی عنان تھی۔ (فلامنڈ الجواہر صفحہ ۳۸۸)

اور حضرت شیخ ابوالفاخر عدی بن ابوالبرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عراق کے سربرا آورده مشائخ میں سے تھے، ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو تصرف میں پیدا طولی اور احکامِ ولایت میں پیدا حاصل تھا۔ (فلامنڈ الجواہر صفحہ ۳۸۷)

اور حضرت شیخ جاکیر کروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عراق کے مشہور مشائخ میں سے ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کے تصرف میں لوگوں کے قلوب دے دیتے جاتے ہیں۔ (فلامنڈ الجواہر صفحہ ۳۹۲)

اور حضرت شیخ عثمان بن مزروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۶۳ ھجری) جو مصر کے سربرا آورده بزرگوں میں سے تھے، ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ تصرفات کی طاقت عطا فرمادیتا ہے۔ (فلامنڈ الجواہر صفحہ ۳۹۷)

اور حضرت شیخ سوید سخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشائخِ مشرق کے سردار اور فرمدقیقین کے اکابر میں سے تھے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ

کہ میں اس وقت قسطنطینیہ میں قید تھا۔ اچاک ایک شخص جس سے میں واقف نہیں، آیا اور مجھ کو اٹھا کر پلک جھکنے میں یہاں پہنچا دیا۔ پھر جب اس کی ماں نے اس واقعہ کی اطلاع شیخ کو دی تو آپ نے فرمایا کہ ”تمہیں اللہ کے امور میں حیرت کیوں ہے؟ وہ اپنے مخلص اور باعمل بندوں کو تصرفات عطا کرتا ہے اور ان کا ہر ارادہ پورا ہو جاتا ہے۔ (فلائد الجواہر صفحہ ۳۹۰)

حضرت علامہ تادنی علیہ الرحمہ نے ان واقعات کو فلائد الجواہر میں درج فرمائے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن الیوب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف زبان ہلا کر کسی کی زندگی کا چراغ بجھانے کی قدرت خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور امور تکوئی میں ان کو تصرف کا اختیار بخشتا تھا۔ اگر علامہ تادنی کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ ان واقعات کو اپنی کتاب میں درج نہ فرماتے اور ساتھ ہی حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن الیوب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ان کے اس فرمان سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور باعمل بندوں کو تصرفات عطا کرتا ہے اور ان کا ہر ارادہ پورا ہو جاتا ہے۔

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللطیف بن احمد قرشی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سات شکاری حضرت شیخ ابو عمر و عثمان بطائحی علیہ الرحمۃ والرضوان کے وطن بطیحہ میں پہنچ گئے اور بہت سے پرندوں کا شکار کیا، لیکن جو چڑیا بھی زمیں پر گرتی وہ مری ہوئی ہوتی۔ ان لوگوں سے شیخ نے فرمایا ”ان پرندوں کا کھانا تمہارے لئے حرام ہے۔ کیونکہ یہ سب مردہ ہیں۔“ ان شکاریوں نے استہزا کے طور پر کہا کہ پھر آپ ہی ان کو زندہ کر دیں، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کہا۔ یا مُحْى الْمَوْتَى وَ یَا مُمْحَى الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ (اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے) یہ پڑھتے ہی تمام پرندے زندہ ہو کر ہوا میں پرواز کر کے نظر وہ سے اوچھل ہو گئے اور شکاری دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور سب تائب ہو کر آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔

ایک مرتبہ بطائح کے دو افراد جن میں ایک نابینا تھا اور دوسرا کوڑھی۔ آپ کی خدمت میں دعا کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بھلا چنگا شخص مل گیا اور جب دونوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تو اس نے کہا کہ کیا شیخ عثمان، عیسیٰ بن مریم ہیں؟ جو اندھوں اور کوڑھیوں کو تدرست کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص بھی ان دونوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا اے اندھے اور کوڑھی! اپنا مرض اس شخص کے اندر منتقل کر دو، یہ کہتے ہی وہ دونوں تدرست ہو گئے اور وہ شخص اسی وقت اندھا اور کوڑھی

اور تحریر فرماتے ہیں کہ مغرب (یعنی مرکش کے علاقہ) کا ایک شخص عبدالرحمن نامی حضرت شیخ علی بن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک چاندی کا مکڑا آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس کو میں نے فقراء کے لئے تیار کیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے حاضرین میں سے ایک شخص سے فرمایا۔ ”تمہارے اور دوسروں کے پاس تابے کے جتنے برتن ہوں لے آؤ!“ جب لوگ بہت سے برتن لے آئے تو شیخ نے برتوں کو ٹھیک خانقاہ میں رکھ کر ان پر چلنہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے بعض نے سونے کی شکل اختیار کر لی اور بعض نے چاندی کی۔ پھر شیخ نے برتن لانے والوں سے فرمایا کہ یہ سب لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے وہ سب سونا چاندی اٹھالیا۔ پھر آپ نے چاندی کا مکडرا پیش کرنے والے سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عبدالرحمن! خدا نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن میں نے اس لئے چھوڑ دیا کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ لہذا اپنا چاندی کا مکڈرا اٹھالو۔“

عبدالرحمن نے ان برتوں کی مختلف شکل اختیار کرنے کا سبب پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ”جو شخص بلا کسی غرض کے تابا لایا تھا، وہ تو سونا بن گیا اور جس کی کوئی ذاتی غرض وابستہ تھی، اس نے چاندی کی شکل اختیار کر لی۔“ (فلاائد الجواہر صفحہ ۳۲۵)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا تھا۔

نے حضرت شیخ علی بن وہب علیہ الرحمۃ والرضوان کو قلب ماہیت کا اختیار عطا فرمایا تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ شیخ علی جوفی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۳۵ ہجری) کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ لوگوں کو نصیحتیں فرمائے تھے، لیکن حاضرین میں دونوں عالموں نے آپ کو بدندہ ہب کہہ کر خاموش ہونے کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا ”تم دونوں خاموش رہو، خدا تمہیں زندہ نہ رکھے، تو وہ دونوں اسی مجلس میں فوت ہو گئے۔“ (فلاائد الجواہر صفحہ ۳۸۸)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی عورت نے حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے لڑکے کو فرنگیوں نے قید کر لیا ہے۔ میں صبر کی دعا کرتی ہوں، لیکن اپنی محبت کی وجہ سے جذبات پر قابو نہیں یاتی ہوں۔ آپ میرا لوگا ملنے کے لئے دعا فرمائیں۔ جب عورت نے بہت اصرار کیا تو شیخ نے فرمایا کہ ”جاو! انشاء اللہ اپنے لڑکے کو گھر میں پاؤ گی۔“ چنانچہ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو واقعی اس کا لڑکا میں موجود تھا۔ مال نے جب حیرت زدہ ہو کر اس سے کیفیت پوچھی تو اس نے بتایا

لکھیں۔ ان کے علاوہ کتاب تاویلات القرآن آپ کی ایسی تصنیف ہے جو اپنا نظر نہیں رکھتی۔ آپ کا مزار مبارک سر قند میں ہے جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

صاحب حدائق الحفیہ مولانا فقیر محمد جہلمی ثم لاہوری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو منصور ماتریدی (علیہ الرحمۃ والرضوان) کے زمانہ میں ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا کہ لوگ اس سے ننگ آچکے تھے۔ یہاں تک کہ زمینداروں کا ایک گروہ اس کے ہاتھ سے ننگ آ کر شکایت کرنے کے لئے آپ کے پاس آیا۔ آپ اس وقت گھر میں نہ تھے۔ آپ کی بیوی نہایت بدخلت تھی، وہ زمینداروں کو مہمان سمجھ کر بہت سختی سے پیش آئی۔ زمیندار یہ معلوم کر کے کہ آپ باغ میں ہیں باغ میں پہنچے۔ دیکھا کہ آپ باغ کی زمین درست کر رہے ہیں۔

آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ شاید آپ کو ہمارے گھر کے کتنے کاثا ہوگا۔ پھر آپ باغ میں گئے اور وہاں سے زردآلوا کا طبق بھر لائے اور زمینداروں کے سامنے رکھ دیا۔ چونکہ جاڑے کا موسم تھا زمیندار غیر موسم میں زردآلود یکھ کر جیران ہو گئے اور آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اس لئے جو چیز میں اس کے ذریعے سے چاہتا ہوں وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے گھاس سے کمان اور تنکے سے تیر بنا کر اس ظالم بادشاہ کی طرف پھینکا۔ زمینداروں نے وہ تارخ لکھ لی اور چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ اسی روز قتل ہو گیا۔ (حدائق الحفیہ صفحہ ۱۶۸)

غیر موسم میں باغ سے زردآلوا کریے فرمانا کہ میں ان ہاتھوں کے ذریعے جو چیز چاہتا ہوں، حاصل ہو جاتی ہے اور پھر تنکا و گھاس کے تیر و کمان سے دُور دراز مقام پر موجود ظالم بادشاہ کو قتل فرمایا کہ حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے عالم میں تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

## حضرت علامہ امام فخر الدین رازی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - متوفی ۶۰۶ ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

الْعَبْدُ إِذَا وَاظَّبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمَقَامَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا. فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَإِذَا صَارَ ذِلْكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا

ہو گیا۔ شیخ نے اس سے فرمایا۔ ”اب خواہ تصدیق کریا تکنذیب“۔ پھر یہ تینوں آپ کے پاس سے واپس آ کر زندگی بھرا پی اپنی حالت پر قائم رہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ (فلاائد الجواہر صفحہ ۳۲۲)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ شریف محمد بن خضر حسینی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ موصل کے قاضی یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ قصیب البان (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی مبالغہ آمیز کرامات و مکاشفات کی وجہ سے مجھ کو ان سے بظنی ہو گئی تھی اور میں نے بادشاہ سے شکایت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو موصل سے نکال دیا جائے، لیکن میرے اس ارادے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔

ایک دن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ شیخ قصیب البان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے آگئے۔ اس وقت گلی میں ہم دنوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس وقت یہاں کوئی دوسرا مرد وہ ہوتا تو میں ان کی گرفتاری کا حکم دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی چند قدم چلنے کے بعد دیکھا تو شیخ قصیب البان نے کردیوں جیسی شکل اختیار کر لی تھی۔ پھر چند قدم چل کر بدیوں جیسی صورت تبدیل کر لی۔ پھر چند قدم چل کر فقیہوں جیسی صورت ہو گئی۔ اس کے بعد اپنی اصلی شکل اختیار کر کے پوچھا کہ ”اے قاضی! ان چار صورتوں میں سے قصیب البان کی کون سی صورت ہے، جس کو شہر بدر کرنے کے لئے بادشاہ سے کہنا چاہتے ہو؟“ قاضی صاحب کا بیان ہے کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے ادب کے ساتھ جھک کر شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اللہ سے اپنے سوئے ظن پر استغفار کیا۔ (فلاائد الجواہر صفحہ ۳۱۸)

اویائے کرام کے اختیارات و تصرفات کے بارے میں حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ فلاائد الجواہر کے مذکورہ بالا واقعات سے بھی روی روشن کی طرح ظاہر ہے۔

## آئمہ عظام کے عقیدے

### حضرت امام ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ

(رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۳۳۳ ہجری)

آپ مشائیخ کبار میں سے بہت بڑے محقق و مدقق اور متكلمین کے امام ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد کی آپ نے صحیح فرمائی اور باطل عقیدہ والوں کے رد میں کتاب مایا۔ آنے والے اوقایاں اور کتاب الرد قرآنطیہ وغیرہ کئی کتابیں

حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ بیان کرنے والے شیخ شہاب الدین ابن نحال نے مجھے بتایا کہ حضرت محمد غمری علیہ الرحمۃ والرضوان نے تمن گدھے منگائے اور فرمایا ان پر سوار ہو جاؤ۔ ہم حضرت شیخ کے ساتھ سوار ہو کر قاہرہ پہنچے۔ حضرت شیخ سلطان حسن کے قبر کے نیچے چند منٹ بیٹھے۔ لیکا یک دیکھا کہ ابن عمر کو لوگ بیڑیاں پہنائے ہوئے قلعہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت نے ابن نحال (راوی واقعہ) کو فرمایا۔ اس آدمی (یعنی ابن عمر) کے پیچھے پیچھے جا۔ جب تو دیکھے کہ سلطان اس کے ساتھ بختی کر رہا ہے اور اسے ہلاک کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اپنی شہادت کی انگلی اپنے انگوٹھے پر رکھ کر دبانا۔ اس محفل میں سب لوگوں کی جانوں پر بن آئے گی اور سلطان سمیت سب کے گلے بند ہونے لگیں گے۔

جب ابن نحال پیچھے گئے تو دیکھا کہ سلطان نے ابن عمر برختی کرنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے حضرت کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ سلطان چلا یا، اسے چھوڑ دو! اسے خلعت پہناؤ! ان کے ساتھیوں پر زعفران ڈالو! (یہ خوشی اور رضامندی کی علامت تھی) ابن نحال واپس آئے اور حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ! واپس چلیں کام ہو گیا۔ ابن عمر کو اس واقعہ کی کوئی اطلاع نہ تھی اور نہ حضرت کی آمد کا اسے پتہ تھا۔ آپ محلہ میں واپس تشریف لائے اور فرمایا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ میری موت سے پہلے یہ واقعہ بیان کرے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ابن نحال نے مجھے بتایا کہ آپ سے پہلے میں نے کسی سے یہ واقعہ ذکر نہیں کیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۶۸۲)

حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن محمد وفا سکندری علیہ الرحمۃ والرضوان کو وفا اس لئے کہتے ہیں کہ دریائے نیل کا بہاؤ رک گیا اور حضرت محمد بن محمد وفا کے دور تک یہی حال رہا۔ مصر والے ملک چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ آپ دریا پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ کے حکم سے بڑھ جا۔ اسی دن سترہ گز پانی دریا میں چڑھ آیا اور دریا نے آپ کی بات پوری کر دی۔ اس لئے لوگ آپ کو وفا کہنے لگے۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۶۱۵)

حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ تجویں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد خنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر سے روپہ تک اپنے ساتھیوں سمیت پانی پر چلتے

صَارَ ذِلْكَ التُّورُّ يَدَا لَهُ قَدْرًا عَلَى تَصْرُّفٍ فِي السُّهْلِ وَالضُّعْبِ  
وَالقَرِيبِ وَالبَعِيدِ.

ترجمہ: جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمچلی اختیار کرتا ہے تو وہ اس بلند مقام  
تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سُنْثَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فرمایا  
ہے (یعنی حدیث قدسی میں دیکھئے بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۲۶۳۔ انوار احمد  
 قادری) تو جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور و  
نزو دیک کی آواز کو سن لیتا ہے اور جب وہی نور اس کی بصر ہو جاتا ہے تو وہ دور و  
نزو دیک کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جاتا  
ہے تو وہ بندہ آسان و مشکل اور نزو دیک و دور کی چیزوں میں تصرف کرنے پر  
 قادر ہو جاتا ہے۔ (تفیریک بیر جلد ۵ صفحہ ۲۸۰)

حضرت علامہ امام رازی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس عبارت سے اپنا عقیدہ صاف  
لفظوں میں بیان فرمادیا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے جلال کا نور اس کا  
ہاتھ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ آسان و سخت ہر پریشانی میں اور نزو دیک و دور ہر جگہ کی چیزوں  
میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے اور الحمد للہ ہم اہلسنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

## عارف باللہ حضرت عبدالوہاب امام شعرانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال)

حضرت علامہ نبہانی نے لکھا ہے کہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر  
فرماتے ہیں کہ جب سلطان حسن نے ایک فوجی جماعت کو امیر مصر ابن عمر کی گرفتاری کے  
لئے بھیجا، تو ان لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا اور لوہے کی بیڑیاں پہننا کرائے لے چلے۔  
راستہ میں حضرت محمد بن عمر واطی غمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۴۹ ہجری) کے ایک  
غلام جو مولیاں بیچا کرتا تھا اس کا گدھا چھل گیا۔ اس نے پکارا اے میرے آقا محمد غمری!  
ابن عمر نے جب یہ سنا تو اس سے پوچھا کہ یہ محمد غمری جنہیں تم بلا رہے ہو کون ہیں؟ اس  
نے کہا یہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ این عمر کہنے لگا، اب میں انہیں مدد کے لئے پکارتا ہوں  
اور کہتا ہوں، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھیں۔ حضرت محمد غمری نے اپنے  
 محلہ میں یہ پکارن لی۔

## اولیائے کرام کے عقیدے

### غوثِ اعظم حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۵۶۱ھجری)

حضرت علامہ شٹنونی رحمۃ اللہ علیہ محدثانہ اسانید کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت غوثِ اعظم شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک لڑکا لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے اس بچے کو آپ سے قلبی اگاؤ ہے، اس لئے میں اس کے حق سے دست بردار ہو کر اس کو اللہ کی اور پھر آپ کی سپردگی میں دیتی ہوں۔ حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عرض قبول فرمایا اور اس بچے کو بزرگوں کے طریقے پر مجاہدات اور ریاضتیں کرنے کا حکم فرمایا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ماں اپنے بچے کو ملنے کے لئے آئی دیکھا کہ اس کا بچہ بہت لاغر اور زرد ہو گیا ہے اور دیکھا کہ جو کی روئی کا نکلا کھا رہا ہے۔ پھر جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے برتن میں پوری مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، جس کو آپ تناول فرمائے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے سردار! آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روئی کھلاتے ہیں۔ اس وقت حضرت نے ان ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا۔ قُومِیْ بادُنَ اللَّهُ الَّذِی يُخْبِیْ الْعَظَامَ وَهِیْ رَمِیْمَ۔ یعنی اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہوجا، جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ آپ کے اس حکم پر فوراً وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چلائی۔ پھر آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ إِذَا صَارَ إِبْنُكَ هَنَّكَذَا فَلْيَأْكُلْ مَهْمَأْ شَاءَ۔ یعنی جب تیرا بیٹا اس درجہ کو پہنچ جائے گا تو پھر جو جی چاہے کھائے گا۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۵)

اس واقعہ سے حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھائی ہوئی مرغی کو دوبارہ زندہ کر دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

حضرت علامہ شٹنونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ کئی معتبر راویوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی مجلس کے اوپر سے ایک چیل چلاتی اڑتی ہوئی گزری، جس سے مجلس کے

جاتے تھے اور آپ لوگوں کے دلوں کے بھیوں پر مطلع ہوتے تھے۔

(جامع کرامات اولیاء اردو صفحہ ۲۲۳)

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے ان بیانات سے اولیائے کرام کے تصریفات کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

### حضرت علامہ ابن عابدین شامی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - متوفی ۱۲۵۳ھجری)

صاحب حدائق الحفیہ آپ کے تذکرہ کی ابتداء اس طرح کرتے ہیں۔ سید محمد امین بن عمر الشہیر یا بن العابدین۔ اپنے زمانے کے علامہ، فہامہ، فقیہ، محدث، محقق، مدقق اور جامع علوم عقلیہ و نقلیہ تھے۔ انکی کلامۃ۔

آپ نے کئی اہم کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں روالختار حاشیہ درختار جو شامی کے نام سے مشہور ہے۔ ایسی مقبول عام ہوئی کہ پانچ ضخیم جلدیوں میں ہونے کے باوجود تھوڑے ہی زمانہ میں کئی بار چھپ کر ساری دنیا کے حلقہ دار الافتاء کی زینت بن گئی کہ وہ فقہ کی بے شمار جزئیات پر مشتمل ہے اور مفتیانِ کرام کے لئے عظیم سرمایہ ہے۔

آپ اپنی اسی ماہی ناز تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ خَتَمُ دَائِرَةِ الْوَلَايَةِ قُطْبُ الْوُجُودِ سَيِّدُ الْمُحَمَّدِ الشَّاذِلِيُّ  
الْبُكْرِيُّ الشَّهِيرُ بِالْحَنْفِيِّ الْفَقِيهُ الْوَاعِظُ أَحَدُ مَنْ صَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى  
فِي الْكَوْنِ وَمَكَنَّهُ مِنَ الْأَخْوَالِ وَنَطَقَ بِالْمَغَبِيَّاتِ.

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیعین میں سے ختم ولایت قطب الوجود سیدی محمد شاذلی بکری حنفی فقیہ واعظ۔ آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف، حالات پر قدرت اور غیب کی باتوں کے بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔

(روالختار جلد اول صفحہ ۳۱)

حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ذکورہ بالاعبارت میں اپنا یہ عقیدہ کھلم کھلا واخیح کر دیا کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندے اولیاء اللہ کو کائناتِ عالم میں

اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔

حضرت علامہ شطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ محمد بن شیخ ابوالعباس خضر بن عبد اللہ بن سعی موصیٰ نے مجھ سے قاہرہ میں بیان کیا کہ ۶۲۳ ہجری میں مجھ کو میرے باپ نے شہر موصل میں خبر دی کہ ہم ایک رات اپنے شیخ حضرت محبی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے بغداد میں تھے کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ مستجد باللہ ابو مظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے سلام عرض کیا اور فیصلت طلب کرتے ہوئے آپ کے سامنے دس تھیلیاں رکھ دیں، جنہیں دس غلام اٹھا کر لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی حاجت نہیں اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بڑی عاجزی کی تو آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں لی اور دوسری دائیں ہاتھ میں لی اور دونوں کو ہاتھ میں دبایا تو وہ خون ہو کر بہہ گئی۔

آپ نے فرمایا اے ابوالمظفر! کیا تم خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون چوستے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو۔ بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وَعَزَّةُ الْمَعْبُودِ لَوْلَا حُرْمَةً إِتْصَالِهِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَرْكُثُ الدَّمَ يَجْرِي إِلَى مَنْزِلِهِ۔ یعنی معبد کی عزت کی قسم۔ اگر رسول اللہ ﷺ سے اس کے رشتہ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو ضرور چھوڑتا کہ وہ اس کے مکان تک بہتا۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۱)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں تصرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میں چاندی اور سونے کے سکے درہم و دینار کو خون بنا کر اسے ڈور تک بہا سکتا ہوں۔

حضرت علامہ شطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو عبد اللہ محمد بن شیخ ابوالعباس خضر بن عبد اللہ بن سعی موصیٰ نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ میں نے خلیفہ مستجد باللہ ابوالمظفر یوسف کو حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیکھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں اور پورے ملک عراق میں وہ زمانہ سیب کا نہیں تھا۔

حضرت نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو دو سیب آپ کے ہاتھ میں آگئے۔ تو ایک سیب آپ نے خلیفہ کو دیا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ کے سیب کو کانا تو نہایت سفید خوبصوردار تھا،

لوگوں کو الجھن ہوتی۔ آپ نے فرمایا۔ یارِیُّخ خُلَدِی رَأَسَ هَذِهِ الْجِدَادِ۔ یعنی اے ہوا! اس چیل کا سرکاٹ لے۔ یہ کہتے ہی، چیل مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ایک طرف اس کا سر اور دوسری طرف اس کا دھڑکیا۔ آپ نے کرسی سے اتر کر اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسری ہاتھ اس پر پھیرا اور بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ پڑھی، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور سب لوگ دیکھتے رہے۔ (بہجت الاسرار صفحہ ۲۵)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ہوا پر حکومت بخشی ہے، اسی لئے انہوں نے ہوا کو حکم دے کر چیل کا سرکٹوادیا۔ حضرت علامہ فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ابو الحسن علی بن ابو بکر ابہری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے قاضی القضاۃ ابو صالح نصر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ عبدالرازاق سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میرے والدِ گرامی یعنی حضرت شیخ محی الدین عبدال قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ کی نماز کے لئے نکلے، میں اور میرے دو بھائی عبد الوہاب اور عیسیٰ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ہم کو شراب کے تین ملکے ملے جو بادشاہ کے تھے اور جن کی بو بہت تیز تھی۔ ان کے ساتھ کوتوال اور کچھری کے کچھ دوسرے لوگ تھے۔ حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا کہ شہر جاؤ! وہ نہیں شہرے اور جانوروں کے چلانے میں انہوں نے جلدی کی تو حضرت نے جانوروں سے فرمایا قبیحی شہر جاؤ فَوَقَفَتْ كَانَهَا جَمَادَاتْ تو وہ ایسے شہر گئے کویا کہ وہ جمادات ہیں۔ یعنی بے جان چیزیں پتھر اور پہاڑ وغیرہ کی طرح اپنی جگہ پر شہر گئے۔ وہ لوگ جانوروں کو بہت سارے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ملتے تھے اور ان لوگوں کو قونچ کا درد شروع ہو گیا اور سخت درد کی وجہ سے سب کے سب دامیں بائیں زمین پر لوٹنے لگے۔ پھر وہ لوگ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے لگے اور اعلانیہ توبہ واستغفار کرنے لگے، تو ان کا درد جاتا رہا اور شراب کی بوسر کہ سے بدلت گئی۔ انہوں نے برتنوں کو کھولا تو دیکھا وہ سب سرکہ ہو گیا تھا۔ (بہجت الاسرار صفحہ ۳۱)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ چلتے ہوئے جانوروں کو صرف زبان سے حکم دے کر جمادات کی طرح شہرا

کیا اور کھانے کی اجازت بھی مرحت نہیں فرمائی۔ چنانچہ کسی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا۔ اہل مجلس پر آپ کی ہبیت اس طرح طاری تھی، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں (یعنی بے حس و حرکت تمام حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے تھے) پھر آپ نے مجھے اور شیخ علی ہتھی کو اشارہ کیا کہ اس توکرے کو اٹھا کر یہاں لاو! چنانچہ وہ توکرا ہم نے اٹھا کر شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ توکرا بہت وزنی تھا، شیخ نے ہمیں حکم دیا کہ اس توکرے کو کھولو! جب ہم نے اس کو کھولا تو اس میں اس امیر کا فرزند تھا جو لنجا، مادرزاد انہا اور مغلوب تھا، جذامی بھی تھا۔ شیخ نے اس کو دیکھ کر فرمایا قُمِ بِإِذْنِ اللَّهِ (اللہ کے حکم سے تدرست ہو کر کھڑا ہو جا) شیخ کے یہ فرماتے ہی وہ لڑکا تدرست شخص کی طرح کھڑا ہو گیا اور کوئی بیماری اس میں موجود نہیں تھی۔ حاضرینِ مجلس میں ایک جوش پیدا ہوا اور نظرے لگانے لگے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کھائے پیئے اس ہجوم میں سے انھ کر باہر آگئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ہم شیخ ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گئے اور ان کو یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا الشیخُ عَبْدُ الْفَقَادِرِ يُبَرِّئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيَنْحِيُ الْمُوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (ہاں شیخ عبدالقادر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد انہوں اور برس والوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ (ہجۃ الاسرار صفحہ ۶۳)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ ایک شخص جو لنجا، مادرزاد انہا، فانچ زدہ اور جذامی (کوڑھی) ہو اسے بھی بیک زبان تدرست کرنے کا خدا تعالیٰ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے۔

حضرت ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۵۵ھجری) کے تعارف میں حضرت علامہ تادفی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ بڑے صاحبِ حال و کرامت بزرگ ہوئے ہیں آپ کا شمار ان چار ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی دعا میں ہمیشہ قبول ہوئی ہیں۔ اگر کسی مریض کے لئے دعا کرتے تو وہ تدرست ہو جاتا۔ آپ معتبر فقہاء و مفتیان شرع میں سے تھے آپ کی صحبت سے اکابر اولیاء و علماء فیض یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ نے قیلویہ کی بستی میں ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اذان پڑھی تو وہ پھٹ کر پانچ حصوں میں تقسیم ہو گئی اور زمین بھی پہت بکیر سے پھٹ گئی۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے قضاۓ حاجت کے لئے آپ کے ہاتھ سے لوٹا لیا لیکن وہ اتفاق سے گر کر ٹوٹ گیا اور جب آپ نے اس لوٹے کو ہاتھ لگایا تو وہ صحیح و سالم ہو گیا اور اس میں پہلے کی طرح پانی بھرا ہوا تھا۔ (فلاہم الجواہر صفحہ ۲۷۱)

جس سے مشک کی خوبیوں آرہی تھی اور خلیفہ مستجد نے اپنے ہاتھ کا سیب کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ اس نے ارزاؤ تجب کہا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابوالمنظر لِمَسْتَهَا يَدُ الظُّلْمِ فَدَوَّدَثُ۔ یعنی تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑے گئے۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۱)

حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ ظاہر فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں جس موسم میں بھی چاہوں، بغیر ظاہری اسباب کے صرف ہاتھ بڑھا کر سیب حاصل کر سکتا ہوں۔

حضرت علامہ شٹپنو فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ۱۷۶ھ میں ابو محمد رجب بن ابو منصور داری ابو زید عبدالرحمن بن سالم قرشی اور ابو عبد اللہ محمد بن عبادہ انصاری نے قاہرہ میں ہم سے بیان کیا کہ ان لوگوں سے برگزیدہ شیخ حضرت ابو الحسن قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاسیون پہاڑ پر ۲۱۶ھ میں بیان کیا کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن ہبیت علیہ الرحمۃ والرضوان ۵۳۹ھ میں حضرت شیخ حجی الدین عبدال قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے مدرسہ میں جو کہ ازج کے دروازہ میں تھا موجود تھے کہ حضرت کے پاس سوداگر ابو غالب فضل اللہ بن املیل بغدادی از جی حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یا سیدی  
قالَ جَدُّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَيَجِبُ وَهَا آتَا قَدْدَعْوَتُكَ إِلَى مَنْزِلِيِّ۔ (اے حضرت! آپ کے محترم و مکرم نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی دعوت کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے اور میں آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لئے ظاہر ہوا ہوں۔) آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ملی تو آؤں گا۔ آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا اور فرمایا کہ اچھا میں آؤں گا۔ مقررہ وقت پر آپ سوار ہوئے۔ شیخ ہبیت نے آپ کی دامیں رکاب پکڑی اور میں نے باً میں رکاب تھامی۔ اس طرح اس شخص کے مکان پر پہنچے وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت سے علماء مشائخ اور اعیان موجود تھے۔

آپ کے پہنچنے کے بعد دستر خوان لگایا گیا۔ اور بہت قسم کے کھانے دستر خوان پر رکھے گئے۔ اس کے بعد دو شخصیں ایک بہت بڑاٹوکرا اٹھا کر لائے جس کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ یہ تو کرا دستر خوان کے ایک طرف لا کر رکھ دیا گیا۔ میزبان نے شیخ سے عرض کیا کہ اجازت ہے کھانا شروع کیا جائے۔ شیخ نے کچھ نہیں فرمایا اپنا سر جھکائے رہے۔ نہ خود کھانا شروع

کے لئے نہر پر گئے تو یہ وہی نہ تھی، جہاں قضاۓ حاجت کے بعد اس روز خصوصی کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اس درخت کو بھی پہچان لیا۔ ان کی سمجھیوں کا کچھا اسی طرح درخت کی شاخ سے لکھا ہوا تھا۔ ابوالمعال کہتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف واپس آیا تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ بیان کیا۔ شیخ نے میرا کان پکڑ کر فرمایا اے ابوالمعال! جب تک ہم زندہ ہیں، یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ (نفحات الانس صفحہ ۷۶)

حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جنہیں سن کر انسانی عقل حیران ہو جائے۔

حضرت علامہ محمد سعید تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں ایسا سیلا ب آیا کہ پانی بغداد شریف کی آبادی تک پہنچ گیا اور تمام لوگوں کو اپنے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا، تو وہ لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لئے درخواست کی۔ آپ اپنا عصاء مبارک لے کر دریائے دجلہ پر پہنچ گئے اور عصاء کو دریا کی اصل حد پر نصب (گاڑ) کر فرمایا کہ ”اسی جگہ شہر جا“، چنانچہ فوراً ہی پانی گھٹنا شروع ہوا اور اپنی اصل حد پر آگیا۔ (فلامد الجواہر صفحہ ۹۲) اس واقعہ سے حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے دریا کے پانی پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو صالح عباس بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصورا کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور وہاں سے اپنے مدرسہ کی طرف واپس ہوئے تو اپنے چہرے پر سے رومال ہٹایا اور ایک بچھوپیشانی پر سے ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر پھینک دیا اور جب وہ بھاگنے لگا تو فرمایا کہ ”خدا کے حکم سے مر جا“۔ چنانچہ اسی وقت وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے جامع مسجد سے لے کر یہاں تک مجھے ساٹھ مرتبہ ذمک مارا ہے۔ (فلامد الجواہر صفحہ ۱۱۱)

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ معمر جرادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوا تو آپ کچھ تحریر فمارہ ہے تھے۔ اچاہک چھت میں سے تین مرتبہ منی گری اور

ایسے بلند پایہ بزرگ کا عقیدہ بھی تصرف کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقدار اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد انہوں اور بریوس والوں کو اچھا کرتے اور مُردوں کو زندہ کرتے ہیں۔

حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز ابوالمعال نامی درویش حضرت غوثِ اعظم شیخ عبدالقدار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ مجلس کے دوران ان کو پاخانہ کی حاجت ہوئی جس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ یہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بالکل بے طاقت ہو گئے۔ انہوں نے شیخ کی طرف استغاش کے طور پر دیکھا۔ حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے ایک زینہ نیچے اتر آئے۔ اس وقت پہلے زینہ پر آدمی کے سر کی طرح ایک سر نظاہر ہوا۔ جب دوسری سینہ پر حضرت اترے تو اس سر کے دوسرے اعضاء کنہا اور سینہ ظاہر ہوئے۔ اس طرح حضرت زینہ بہ زینہ اترے تھے اور وہ شکل انسانی مکمل ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ حضرت کی شکل میں متخلک ہو گئے اور آواز بھی بالکل حضرت جیسی اس شکل سے آتی تھی۔ کلام بھی بالکل حضرت کے کلام کی طرح تھا۔ اس شکل کو سوائے اس حاجت مند کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت حضرت اس شخص کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی آستین اس شخص کے سر پر ڈال دی۔

آستین کا پڑنا تھا کہ ابوالمعال نے اپنے آپ کو ایک لق و دق میدان میں پایا، جہاں ایک نہر جاری تھی اور نہر کے کنارے ایک گھنا درخت تھا، ابوالمعال نے اپنی سنجیوں کا چکھا اس درخت کی شاخ سے لٹکا دیا اور قضاۓ حاجت میں مشغول ہو گئے۔ فراغت کے بعد تھا کہ اس درخت کی شاخ سے اٹکا دیا اور قضاۓ حاجت میں مشغول ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ نہر سے وضو کیا اور دور رکعت نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آستین اس کے سر سے اٹھائی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھرا سی مجلس میں موجود پایا۔ ابوالمعال کے اعضا و ضوابط تک پانی سے تر تھے اور پاخانہ کی حاجت رفع ہو چکی تھی اور حضرت اسی طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے۔ گویا نیچے تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ ابوالمعال بھی خاموش بیٹھے رہے اور کسی سے کچھ نہ کہا، لیکن جب سنجیوں کا چکھا اپنے پاس موجود نہیں پایا تو سخت پریشان ہوا۔

ایک مدت دراز کے بعد ابوالمعال کو سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ بغداد شریف سے چودہ دن کا راستہ تھا۔ اثنائے سفر ایک میدان سے گزرے، جہاں نہر جاری تھی۔ ابوالمعال وضو کرنے

مونچھ والا بنا سکتا ہوں۔ آپ خود تحریر فرماتے ہیں۔

رَهِيَ حَالَهُ الْفَنَاءِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ أَحْوَالِ الْأُولَىءِ وَالْأَبْدَالِ ثُمَّ قَدْ يُرَدُ  
إِلَيْهِ التُّكَوِينُ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ  
وَعَلَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا إِنَّا أَقُولُ لِلشَّيْءِ  
إِنْ كُنْ فَيَكُونُ أَطْغَى نَجْعَلُكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ إِنْ كُنْ فَيَكُونُ.

ترجمہ: اور یہی فنا کی حالت ہے جو اولیاء و ابدال کی حالتوں کی انتہا ہے۔ پھر ان کو تکوین (یعنی گن کہنا) عطا کیا جاتا ہے تو پھر ان کو جس چیز کی بھی حاجت ہوتی ہے وہ سب کچھ باذن اللہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق سجائنا، جل و علا کا ارشاد اس کی بعض کتابوں میں ہے کہ اے ابن آدم! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبد نہیں ہے۔ میں وہ ہوں کہ کسی چیز کو کہتا ہوں، ہو جا! تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو بھی میری اطاعت کر میں تجھے بھی ایسا کروں گا کہ تو بھی کسی چیز کو کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ (فتح الغیب مع بہجۃ الاسرار صفحہ ۱۰۹)

اس عبارت سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصرف کے بارے میں اپنا عقیدہ خود ہی واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں کو مرتبہ تکوین عطا فرمادیتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

وَوَلَانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمِيعًا	فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ
فَلَوْ الْقِيَثِ سِرِّي فِي بَحَارِ	لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ
وَلَوْ الْقِيَثِ سِرِّي فِي جِبَالِ	لَدُكُثُّ وَاحْتَفَثُ بَيْنَ الرِّمَانِ
وَلَوْ الْقِيَثِ سِرِّي فَوْقَ نَارِ	لَحَمَدَثُ وَانْطَفَثُ مِنْ سِرَّ حَالِ
وَلَوْ الْقِيَثِ سِرِّي فَوْقَ مَيْتِ	لَقَامُ بِقُدْرَةِ الْمُولَى تَعَالَى
بِلَادُ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي	وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَالِي

ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام قطبوں پر والی و حاکم بنا دیا، تو میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے۔ تو اگر میں اپنی محبت کا بھید دریاؤں پر ظاہر کر دوں تو ان کا کل پانی زمین کی تہ میں ڈنس جائے۔ یعنی سارے دریا خشک ہو جائیں۔ اور اگر میں اپنی محبت کا راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں مچھپ جائیں۔ اور اگر میں اپنی محبت کی حقیقت آگ پر

آپ نے اس کو جھاڑ دیا، لیکن چوچی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک چوہا مٹی گرا رہا تھا، آپ نے فرمایا ”تیرا سر اڑ جائے“۔ یہ کہتے ہی اس کا جسم ایک جانب گرا اور سر دوسری جانب۔ یہ دیکھے حضرت شیخ لکھنا چھوڑ کر رونے لگے اور جب میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا ”مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں میرے دل کو تکلیف پہنچانے کے سبب سے کسی مسلمان کو اسی طرح کی تکلیف نہ پہنچ جائے، جیسی کہ چوہے کو پہنچنی ہے۔“

شیخ عمر بن مسعود بہزاد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ میں وضو فرمائی ہے تھے کہ اچاک ایک چیزیا نے آپ کے کپڑوں پر بیٹ کر دی اور جب آپ نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو چیزیا مُردہ ہو کر نیچے گر پڑی۔

(فلاائد الجواہر صفحہ ۱۲۸)

مذکورہ بالا واقعات اور اپنے کلمات سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جو میری زبان سے نکل جائے گا یا جو میں دل سے چاہوں گا، وہی ہو جائے گا۔

حضرت علامہ تادفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن طاعب القواس (جن کی صداقت مشہورِ زمانہ ہے) فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ اس جماعت نے اپنے حالات کے مطابق دعا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہماری اس بڑی جماعت میں ایک بغیرِ داڑھی موجود کا نو عمر لڑکا بھی شامل تھا، جس کے بارے میں ہم سب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کی عادتی بہت بڑی ہیں، کیونکہ وہ نہ تو پیشتاب، پاخانہ کر کے استنجا کرتا تھا اور نہ غسلِ جنابت کرتا تھا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اپنی حاجتیں بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ سے دعا کے لئے درخواست کی اور جب میں نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو پوری جماعت بوسہ دینے کے لئے ٹوٹ پڑی، مگر جب وہ نو عمر لڑکا کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو پوری جماعت بوسہ دینے کے لئے ٹوٹ پڑی، مگر جب وہ نو عمر لڑکا بڑھا، تو آپ نے اپنا دست مبارک کھینچ کر آستین میں چھپا لیا اور اس لڑکے پر ایسی نظر ڈالی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی داڑھی اور موجود ہمین نکل آئی تھیں۔

(بہجتِ الاسرار صفحہ ۱۱۸)

اس کے بعد اس نے تو بہ کی اور پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے تصرف پر مجھے ایسی قدرت بخشی ہے کہ میں بیک نگاہ نو عمر لڑکے کو داڑھی

آخر۔ یعنی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی پیشانی میں نبی اکرم ﷺ کی متابعت کا نور کچھ اور ہی چیز ہے۔ (نحوات الانس صفحہ ۱۳۷-۱۳۸)

حضرت علامہ محمد سعید تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ عراق کے ان بزرگوں میں سے ہیں جن پر حکومت باطنی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ عالم و فاضل تھے اور بہت فصح و بلغ کلام فرماتے تھے۔ نہ صرف آپ کو علم لدنی حاصل تھا بلکہ آپ غیب کے حالات بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اکثر خارق عادات و کرامات کا آپ سے ظہور ہوتا رہتا تھا۔ کتاب و سنت پر خدات کے ساتھ عمل پیرا تھے اور شریعت و طریقت میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔

آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کے پاس حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقدار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاتِ خود تشریف لائے اور فرمایا کہ ”اے شہاب الدین! تم مشاہرین کے آخری فرد ہو۔ (فلائد الجواہر صفحہ ۳۹۱)

اولیائے کرام کے تصریفات و اختیارات کے بارے میں ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ حضرت علامہ جامی قدس سرہ السالی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں مجھے علم کلام سے شغف ہو گیا اور میں نے علم کلام کی چند کتابیں حفظ کر دیں۔ میرے چچا (حضرت شیخ ابوالجیب عبدالقاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) مجھے اس بات سے روکتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لئے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ چچا نے مجھ سے فرمایا کہ حضور قلب کا خیال رکھنا کہ تم ایک ایسے بزرگ کے پاس چل رہے ہو جن کا قلب مبارک اللہ تعالیٰ سے خبر دیتا ہے۔ (قلب وے از حق تعالیٰ خبرے دہد) اور اس کی برکات کا منتظر رہنا۔

جب ہم وہاں حاضر ہوئے تو چچا نے عرض کیا اے سیدی! میرا یہ بھتیجا عمر علم کلام سے بڑی دچپی رکھتا ہے۔ میں ہر چند اس کو روکتا ہوں، لیکن باز نہیں آتا۔ شیخ نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے عمر! تم نے کون کون سی کتاب حفظ کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں کتاب۔ تب شیخ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا۔ خدا کی قسم اسی وقت ان کتابوں سے ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں رہا (سب بھول گیا) اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسائل کو میرے دل سے بھلا دیا (لیکن ان کے دست مبارک کی برکت سے) میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا۔ جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو آپ نے بڑی ملاحظت

ظاہر کر دوں تو وہ بجھ جائے اور اپنی روشنی سے محروم ہو جائے۔ اور اگر میں اپنی  
محبت کا راز کسی سُرداہ پر ظاہر کر دوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر  
کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے شہر میرا ملک اور میرے حکم کے تحت ہیں اور میرا  
وقت میری جان سے پہلے میرے لئے صاف ہو چکا ہے۔  
ان اشعار سے بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کھلماً ظاہر ہے۔

## قدوة السالکین حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۲۳۲ ہجری)

حضرت علامہ جامی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام یافعی رحمۃ  
اللہ تعالیٰ علیہ ان القاب کے ساتھ آپ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔

استاد زمانہ، فرید یگانہ، مطلع الانوار، منبع الاسرار، دلیل طریقت، ترجمان الحقيقة،  
استاذ الشیوخ الاكابر، الجامع بین علم الباطن والظاهر، قدوة العارفین، عمدة السالکین، العالم  
الزبانی شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد البکری سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان)۔

آپ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں  
سے ہیں۔ تھوڑے میں آپ کی نسبت آپ کے عم محترم حضرت شیخ البیک عبد القادر  
سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفی ۵۶۳ ہجری) سے ہے۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر  
جیلانی قدس سرہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ ان دو حضرات کے علاوہ اور بہت سے  
مشاخ کے ساتھ آپ کی صحبت رہی ہے۔

آپ اپنے وقت میں بغداد کے شیخ الشیوخ تھے۔ اہل طریقت ڈوروزدیک کے  
شہروں سے مسائل دریافت کرنے کے لئے آپ کے پاس آتے اور آپ ان کو حل فرمایا  
کرتے۔ رسالہ اقبالیہ میں مذکور ہے کہ شیخ رکن الدین علاء الدولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے  
ہیں کہ لوگوں نے حضرت شیخ سعد الدین عمومی علیہ الرحمۃ والرضوان سے دریافت کیا کہ آپ  
نے حضرت شیخ محی الدین بن عربی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب میں  
کہا بَحْرَمَوَاجْ لَانِهَايَةَ یعنی وہ ایک اتحاہ موجزان سمندر ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ حضرت شیخ  
شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں  
نے فرمایا نُورُ مُتَابَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَبِينِ السُّهْرُورَدِیِّ شَنِیءٌ

## حضرت شیخ علی بن ہبیتی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۶۳ھجری)

آپ وہ بزرگ ہیں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اقدس کے بعد قطب ہوئے اور بقول علامہ شطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان شیوخ میں سے ایک ہیں، جو مادرزادوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ (ہجۃ الاسرار صفحہ ۱۵۳)

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقدار جیلانی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ کی بہت تعریف کرتے اور نہایت محبت و احترام کے ساتھ پیش آتے اور اکثر فرمایا کرتے کہ ”بغداد میں جو اولیائے کرام داخل ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی مہمان ہوتے ہیں، لیکن ہم شیخ علی بن ہبیتی کے مہمان رہتے ہیں۔“ (فلائد الجواہر صفحہ ۳۱۳)

اب تصرف و اختیار کے بارے میں ایسی برگزیدہ ہستی کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ حضرت علامہ شطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو محمد حسن بن یحییٰ بن نجیم حورانی اور ابو حفص عمر بن مزاحم دینسری نے ہم کو خبر دی ان لوگوں نے کہا کہ میں نے شیخ علی بن ادریس یعقوبی سے سنا اور ابو محمد سالم بن علی دمیاتی صوفی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے شیخ عارف ابو حفصی عمر زیدی سے سنا وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم حضرت شیخ علی بن ہبیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ نہر الملک کے دیہات میں گئے تو ہم نے دوستی والوں کو دیکھا کہ تواریں نکالے ہوئے لٹانے کو تیار ہیں اور ان کے درمیان ایک قتل کیا ہوا آدمی مردہ پڑا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے پر قتل کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ شیخ کچھ دیر مقتول کے سرہانے کھڑے رہے، پھر اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کہنے لگے من قتلک یا عبد اللہ۔ یعنی اے اللہ کے بندے! مجھ کو کس نے قتل کیا؟ آپ کے اتنا فرماتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو کر بیٹھ گیا اور آنکھیں کھول دیں اور صاف لفظوں میں کہنے لگا، جس کو تمام حاضرین نے سن لیا کہ مجھ کو فلاں بن فلاں نے قتل کیا گیا ہے۔ پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا، جیسا کہ پہلے تھا۔ (ہجۃ الاسرار صفحہ ۱۵۳)

اس واقعہ سے حضرت شیخ علی بن ہبیتی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مردہ کو زندہ کر دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

اور شیریں بیانی کے ساتھ فرمایا یا عمر! انت آخر المشهورین بالعراق۔ یعنی اے عمر!  
تم عراق کے آخری مشاہیر میں سے ہو۔ (ترجمہ فتحات الانس صفحہ ۲۵)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس واقعہ کو بیان فرمائے  
اپنا یہ عقیدہ روزِ روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ  
عنه کو کسی کے دل پر تصرف کر کے اس کے علم کو سلب کر لینے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے،  
بلکہ آپ نے اپنے اس عقیدہ کو واضح لفظوں میں بھی بیان فرمادیا ہے جیسا کہ حضرت علامہ  
نور الدین خطño فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان الشیخ عبدالقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان  
الطريق والتصرف فی الوجود علی التحقیق۔ یعنی بے شک حضرت شیخ عبدالقدار  
جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کے اور وجود میں تصرف کرنے کے بادشاہ تھے۔

(ہدیۃ الاسرار صفحہ ۳۳)

حضرت علامہ تادی فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حزیر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب  
الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مصاحب شیخ شجم الدین نقطی فرماتے ہیں کہ میں  
حضرت شیخ سہروردی کے مجرمہ عبادت میں داخل ہوا۔ وہ ان کے چلے کا آخری دن تھا۔  
اس دن میں نے دیکھا کہ شیخ ایک بہت بلند پہاڑ پر ہیں اور آپ کے سامنے جواہرات کا  
انبار لگا ہوا ہے اور آپ مٹھیاں بھر بھر کر لوگوں کی جانب پھینکتے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ  
کر اخخار ہے ہیں۔ جب موئی کم ہوتے تو وہ خود بخود بڑھ جاتے۔

جب آپ چلے سے باہر آگئے تو میں اس واقعہ سے ذہن کو یکسر خالی کر کے سو گیا۔  
دوسرے دن جب میں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہی تو  
آپ نے میرے کچھ کہنے سے قبل ہی فرمایا کہ ”صاجزادے تم نے جو کچھ دیکھا وہ  
درست ہے اور یہ سب کچھ حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اور ان  
کی تعلیم کا نتیجہ۔ (ترجمہ قلائد الجواہر صفحہ ۳۹۱)

اس واقعہ سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ  
ثابت کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی قدرت عطا فرمائی ہے۔

میں نے اپنے شیخ امام عالم تقی الدین علی بن مبارک بن حسن بن احمد بن ناسوب و اسٹلی سے سناؤہ کہتے تھے کہ میرے سردار حضرت شیخ احمد رفای رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے مریدین آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ”آج بھنی ہوئی مچھلی کھانا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کا یہ کلام پورا بھی نہ ہوا تھا کہ دریا کا کنارا طرح طرح کی مچھلیوں سے بھر گیا اور ان میں سے بہت سی مچھلیاں خشکی کی طرف کوڈ پڑیں اور امم عبیدہ کے کنارے اس قدر مچھلیاں جمع ہوئیں کہ کبھی اتنی دیکھی نہ گئی تھیں۔

شیخ نے فرمایا یہ تمام مچھلیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حق کی قسم ہے کہ ہم میں سے آپ کھائیں۔ تب آپ کے مریدوں نے ان میں سے بہت سی مچھلیوں کو پکڑ کر بھونا اور ایک بڑا دستِ خوان شیخ کے سامنے بچھا کر اس کے پورے حصے پر مچھلیوں کو رکھ دیا۔ پھر سب نے کھایا۔ یہاں تک کہ آسودہ ہو گئے اور دستِ خوان پر بھنی ہوئی مچھلیوں میں سے کسی کا سر اور کسی کی دُم وغیرہ باقی رہ گئی۔

پھر ایک مرید نے شیخ سے عرض کیا کہ اے میرے سردار! جو شخص کہ متمن ک اور قادر ہو اس کی صفت کیا ہے؟ فرمایا یُعْطَى التَّصْرِيفُ الْعَامُ فِي جَمِيعِ الْخَلَقِ۔ یعنی تمام مخلوق میں اس کو تصرف عام دیا جاتا ہے۔ مریدوں نے کہا اس کی علامت کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ۔ ”اگر ان مچھلیوں کے باقی حصوں سے کہے کہ تم اٹھ کر دوڑنے لگو۔ تو وہ دوڑنے لگیں۔ پھر شیخ نے ان بھنی ہوئی مچھلیوں کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور فرمایا۔ اَيُّهَا الْأَسْمَاكَ الَّتِي فِي هَذِهِ الطَّوَاجِنِ قُوْمٌ وَاسْعِنِي بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یعنی اے بھنی ہوئی مچھلیوں! جو اس دستِ خوان پر ہو خداۓ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر چلنے لگو۔ ابھی آپ کا یہ کلام پورا بھی نہ ہوا تھا کہ وہ باقی حصے زندہ مچھلیاں ہو گئیں۔ اور صحیح سالم ہو کر دریا میں کوڈ پڑی۔ اور جہاں سے آئی تھیں وہیں چل گئیں۔ (بہجت الاسرار صفحہ ۲۲۷)

حضرت سید احمد کبیر رفای رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ان واقعات و کلمات سے یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خداۓ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات میں تصرف تمام عطا فرمایا ہے۔

حضرت علامہ شطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو القاسم محمد بن عبادہ انصاری طبی نے خبر دی کہ میں نے شیخ عارف ابو الحسن ابراہیم بن محمود بعلبکی مقری سے سناؤہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ امام ابو عبد اللہ بطاطی سے سنا کہ میں سیدی شیخ

## سید الاولیاء حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۷۸۵ھجری)

آپ عراق کے مشہور مشارک میں سے ہیں اور بقول علامہ تادفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان چار ہستیوں میں سے ہیں جو حکمِ الہی انہوں کو بینا، کوڑھیوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۸۹)

تصریف و اختیار کے بارے میں اس بزرگ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ حضرت کے بھانجے ابو الفرج عبدالرحمن بن علی رفاعی فرماتے ہیں کہ ایک دن جب شیخ تھا بیٹھے تھے تو میں آپ کے ملفوظات سننے کی نیت سے قریب بیٹھ گیا تو اسی وقت ایک شخص آسمان سے اتر کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ نے مر جا کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے میں روز سے کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی خواہش کے مطابق کھاؤں پیوں۔ شیخ نے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف نکاح اٹھائی تو دیکھا کہ پانچ مرغابیاں اڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا اے کاش! ان میں سے ایک بھنی ہوئی مجھے مل جاتی جس کے ساتھ گیہوں کی روٹیاں مٹھنڈے پانی کا ایک کوزہ بھی ہوتا۔ شیخ نے یہ سن کر فرمایا۔ ”یہ مرغابیاں تو تیرے ہی لئے ہیں۔“ پھر آپ نے اڑتی ہوئی مرغابیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا عجلی بشهودة الرَّجُل۔ یعنی اس شخص کی خواہش جلد پوری کر دو۔ ابھی آپ کا یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ان مرغابیوں میں سے ایک باعث میں ہوتے آپ کے سامنے آ کر گری اور آپ نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے دو پتھروں کو اپنے ہاتھ سے کھینچا تو وہ بہترین قسم کی گیہوں کی گرم روٹیوں میں بدل گئے۔ پھر جب آپ نے اپنا ہاتھ فضامیں بلند کیا تو ایک سرخ رنگ کا کوزہ آپ کے ہاتھ میں آگیا، جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ جب وہ شخص کھا لی کر ہوا میں اڑ گیا تو شیخ نے مرغابی کی ہڈیوں کو باعث میں لے کر اس پر اپنا دہنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ”اے ہڈیو اور پھٹو! خدا کے حکم سے آپس میں جو جاؤ۔ پھر آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھی تو وہ مرغابی زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑتی ہوئی نظرؤں سے او جھل ہو گئی۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۹۱)

حضرت علامہ فطحونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدثانہ اسانید کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو شیخ ابو یوسف یعقوب بن بدران بن منصور انصاری نے۔ انہوں نے کہا کہ

مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے درخت! ہر روز خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک دن میٹھا انار اور ایک دن کھٹا انار اس کو دے دیا کرتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس درخت کے انار دنیا کے بہترین اناروں میں سے تھے۔ (فتحات الانس صفحہ ۸۲)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ ابو اسرائیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیخ عدی سے عبادان کی طرف سفر کرنے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ”اگر تمہیں راستے میں شیرمل جائے یا اور کوئی مصیبت درپیش ہو اور تم خوف زدہ ہو جاؤ تو اس سے کہنا کہ عدی بن سافر کا حکم ہے کہ تو میرے لئے مصیبت کا سبب نہ ہو۔“ چنانچہ جب میں سفر پر روانہ ہوا تو دریا میں زبردست طوفان آ گیا۔ اس وقت میں نے کہا۔ اے موجود! ٹھہر جاؤ! کیونکہ شیخ عدی نے تمہیں ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ یہ کہتے ہی طوفان ختم ہو گیا۔ پھر جب مجھے سانپوں اور درندوں نے گھیر لیا تو میں نے ان سے بھی وہی جملہ کہا اور وہ میرا جملہ سن کر بھاگ گئے۔ پھر جب میں دریائے بصرہ سے گزرنے لگا تو اتنی تیز ہوا میں چلے لگیں کہ موجودوں کے تپھیرڑوں نے مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا تو پھر میں نے کہا۔ اے ہواو! رُک جاؤ! چنانچہ ہوارک گئی اور دریا کا پالی ٹھہر گیا۔ (فلائد الجواہر ۲۹۹)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ قلعہ جرامیہ کا قلعہ دار امیر ابراہیم نامی تمام درویشوں سے عموماً اور شیخ عدی سے خصوصی محبت رکھتا تھا اور اس امیر کے پاس جتنے صوفیاء آتے، وہ ان سے شیخ عدی کی بے حد تعریفیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان صوفیاء نے کہا کہ چلو ہم بھی حاضر ہو کر بطور امتحان ان سے کچھ مسائل دریافت کریں گے، چنانچہ جب سب لوگ سلام کر کے شیخ کے پاس بیٹھ گئے تو ان میں ایک نے آپ سے گفتگو شروع کی، لیکن آپ خاموش رہے، جس کو اس درویش نے آپ کی عاجزی پر مجبول کیا، لیکن شیخ نے اپنی روحانیت سے اس کے خدشات کو محسوس کر کے جماعت سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے بھی پیدا کئے ہیں جو اگر دو پہاڑوں سے کہہ دیں کہ باہم مل جاؤ تو وہ آپس میں مل جائیں۔“

ادھر شیخ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، ادھر جب صوفیاء کی نظر دونوں پہاڑوں پر پڑی تو دیکھا کہ وہ آپس میں مل چکے تھے۔ جن لوگوں نے یہ کرامت دیکھی، وہ آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دونوں پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں پھر اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے۔ جس کو دیکھ کر صوفیاء کرام بہت خوش ہوئے

عبدال قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی (ظاہری) زندگی میں اُم عبیدہ کی طرف گیا اور شیخ احمد رفای رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں چندر روز تھرا۔ ایک دن شیخ احمد رفای نے مجھ سے فرمایا کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ میں نے کچھ بیان کیا۔ اثناء گفتگو میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اس کو چھوڑ۔ ہمارے پاس ان مناقب کے علاوہ اور مناقب بیان کر۔ اور اشارہ شیخ احمد رفای کے مناقب کا کیا۔ اس وقت شیخ نے اس کی طرف غصہ سے دیکھا وہ شخص اسی وقت شیخ کے سامنے گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ (بہجت الاصرار صفحہ ۲۳۸)

اس واقعہ سے حضرت سید احمد کبیر رفای رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ خداوند قدوس نے مجھے بیک نگاہ زندہ کو مردہ کر دینے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔

## حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضاوan۔ متوفی ۵۵۵ھجری)

آپ بلاڈِ مغرب کے مشائخ میں عظیم المرتبت شخصیت کے حامل ہوئے۔ آپ علمائے اہل طریقت کے ان سرداروں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی سے مجاہدات میں بڑی صعبوتوں پر برداشت کی ہیں۔ ہمارے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا ذکر احترام کے ساتھ کیا کرتے تھے اور آپ کے سلطان الاولیاء ہونے کی گواہی دیتے اور یہ فرماتے تو کَانَتِ النُّبُوَّةُ تُنَالُ بِالْمُجَاهِدَةِ لَا لَهَا الشَّيْخُ عَدِيُّ بْنُ مُسَافِرٍ۔ یعنی اگر مجاہدہ کے ذریعے نبوت حاصل ہوتی تو وہ عدی بن مسافر کو ضرور حاصل ہو جاتی۔ (بہجت الاصرار صفحہ ۱۵۰)

تھریف کے بارے میں ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام یافعی اپنی تاریخ میں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگوں سے قطع تعلق کر کے رہا جائے۔ اس نے شیخ عدی سے درخواست کی کہ اے شیخ! میں چاہتا ہوں کہ میں الگ تھلگ اس جنگل میں رہوں۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہاں جنگل میں پانی اور کچھ کھانے کو بھی مل جایا کرتا تاکہ میرے جسم کی توانائی باقی رہے۔ شیخ اٹھے اور وہاں جو دو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، ان میں ایک پر اپنا پاؤں مارا، اسی دم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر دوسرے پر پاؤں مارا تو امار کا درخت نمودار ہو گیا۔ آپ نے درخت سے

رکعت نماز ادا کی، پھر مجھ سے فرمایا کہ ”جب میں دعا کروں تو میری دعا پر آمین کہنا۔“  
 چنانچہ جب آپ نے دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کوڑھی پر پھیر کر فرمایا ”اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔“ یہ کہتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور خوشی میں اس طرح دوڑنے لگا، جیسے اس کو کوئی مرض ہی نہیں تھا اور اپنے گاؤں والوں سے جا کر کہا کہ میرے پاس دو آدمی آئے۔ ان میں سے ایک نے میرے اوپر ہاتھ پھیرا جس کے بعد میں بالکل تند رست ہو گیا۔ یہ سن کر گاؤں والے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے مجھے اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ پھر صرف تھوڑی دور چل کر آپ اپنی خانقاہ پر پہنچ گئے۔ (فائدہ الجواہر صفحہ ۳۰۳)

مزید علامہ شٹنونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ عدی بن مسافر علیہ الرحمۃ والرضوان کے خادم کا بیان ہے کہ ایک دن میں وضو کر رہا تھا کہ حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس لئے کہ مجھے اس میں سے علاوہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے اور کوئی سورت یاد نہیں۔ اس کا زبانی یاد کرنا مجھ پر بہت مشکل ہے۔ میرے اس طرح عرض کرنے پر شیخ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا تو اسی وقت مجھے پورا قرآن مجید حفظ ہو گیا اور میں ان کے پاس سے نکلا تو اس کو پورا پڑھتا تھا۔ میں اس کی کسی آیت میں بھولتا نہیں تھا اور اب بھی میں اس کے پڑھنے میں دوسرے لوگوں سے عمدہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے زیادہ قادر ہوں۔ (بہجت الاسرار صفحہ ۱۵۰)

حضرت شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ بالا واقعات و کلمات سے اپنا یہ عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ کائنات کو اولیاء کے زیر فرمان کر دیتا ہے۔ اس کے حکم سے وہ لوگ اس میں پورا تصرف کرتے ہیں۔

### حضرت شیخ ماجد کردی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۶۲ھجری)

آپ عراق کے مشہور بزرگ گزرے ہیں، جو حضور سیدنا شیخ عبدالقدار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادھین میں سے ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم بھی آپ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ اولیائے کرام کے تصرف و اختیار کے بارے میں اب اس عظیم المرتبت شخصیت کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

اور توبہ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر واپس ہوئے۔ (فلاائد الجواہر ۳۰)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ عمر کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت شیخ عدی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت میں حاضر تھا کہ بزرگانِ دین کا مذکورہ چھڑ گیا۔ اس پر حضرت شیخ عدی نے فرمایا کہ ”یہاں ایک ایسا مسافر بھی موجود ہے جو انہوں، کوڑھیوں کو اچھا کر دینے کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔“ تو آپ کا یہ قول مجھے ناگوار محسوس ہوا اور میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا آیا۔ پھر چند دنوں کے بعد حاضر ہوا تو اس وقت بھی میرے دل پر اس قول کا اثر تھا اور میرے سلام کرنے پر آپ نے فرمایا۔

اے عمر! تم میرے ساتھ اس شرط پر کہ کسی سلسلہ میں مجھ سے بات نہیں کرو گے، میرے ساتھ چلو!“ میں نے آپ کی شرط منظور کر لی اور ہم ایک مقام کی طرف چل پڑے۔ میں آپ کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم ایک بہت گھنے جنگل میں پہنچ گئے اور اس وقت مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ لہذا میں آپ سے الگ ہو گیا تو آپ نے میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ ”تم مجھ سے الگ ہو کر رک کیوں گئے؟

میں نے جواب دیا کہ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر آپ نے زمین پر سے ایک گھاس اٹھائی جو بول کی طرح خشک تھی اور اس کو میرے منہ میں رکھ دیا اور جب میں نے اس کو چبایا تو وہ کھجور کی طرح میٹھی تھی۔ وہ میری طاقت کے لئے کافی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پھر چل پڑے اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال کر کے کہ یہ قوت مجھے اس گھاس سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا پھر میں نے وہی گھاس زمین سے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی، لیکن اب کی مرتبہ اس کی کڑاہت سے میرے منہ کا مزہ خراب ہو گیا اور میں نے منہ سے نکال کر اسے پھینک دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے عمر! میں نے کہا جی ہاں!

پھر ہم بہت دیر تک چلنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچ گئے جس کے قریب ایک چشمہ تھا اور وہاں بہت مدت سے ایک کوڑھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے شیخ کا قول یاد آگیا اور میں نے سوچا کہ اگر آپ کی بات صحی تھی تو یہ کوڑھی ضرور اچھا ہو جائے گا۔ اسی وقت شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا خیال آیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیخ عقیل منجی اور شیخ مسلم کے دیلے سے میں نے دعا کی ہے کہ اس نوجوان کو تندرست کر دے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے عمر! کسی پر ہمارا بھید ظاہرنہ کرنا اور جب میں نے بھید ظاہرنہ کرنے کی قسم کھائی، تو آپ نے چشمہ پر پہنچ کر وضو کیا اور قبلہ رو ہو کر دو

ہے۔ ایک دن مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ اے سلیمان! فلاں پہاڑی کے آخری حصے کی طرف چلے جاؤ! وہاں پر تین شخص ہیں، ان سے میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ جو آپ لوگ خواہش کریں، وہی ملے گا۔ میں نے ان کے پاس آ کر اپنے والد کا پیغام پہنچایا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں انار چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا سب اور تیسرا نے کہا میں انگور چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے والد کی خدمت میں آ کر ہر ایک کی خواہشوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم فلاں درخت کی طرف چلے جاؤ اور اس میں سے جو وہ مانگتے ہیں تو ڈلو۔ میں اس درخت کو پہنچاتا تھا کہ بہت دنوں سے خشک تھا اور ہم سے تحوزہ ہی دوری پر تھا، مگر میں نے ان کا کلام رد نہ کیا اور جب میں اس درخت کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ سر بزر اور خوش نما ہے۔ مجھ کو اس میں انار، سب اور انگور تینوں ملے اور ایسے عمدہ خوشبودار کہ کبھی دیکھنے میں نہ آئے تھے۔ میں ان سب کو توڑ کر والد کے پاس لایا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ان تینوں کی طرف لے جاؤ! جب میں ان لوگوں کی طرف آیا تو انار والے نے انار اور انگور والے انگور کھالیا، مگر سب والے نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ سب میں تم کو دیتا ہوں۔ پھر وہ تحوزہ دور چلے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ہوا پر اڑنے لگے، لیکن سب والا ایک بالشت بھی اوپر نہ چڑھ سکا تو اس کے ساتھی ہوا سے نیچے اتر آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے شخص! یہ بات اس لئے ہوئی کہ تم نے سب کے لینے سے انکار کیا۔ پھر وہ تینوں نگے سر ہو کر میرے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا یَا بُنَّىٰ مَامْنَعَكَ مِنْ قَبُولٍ كَرَامَتِي مُوَافِقَةً صَاحِبِيَكَ۔ یعنی اے میرے بیٹے! تم کو کس چیز نے میرا عطا یہ لینے اور اپنے ساتھیوں کی موافقت کرنے سے روکا؟ تو وہ کچھ جواب دینے کی بجائے میرے والد کے قدموں پر گر کر انہیں چومنے لگا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا اے سلیمان! وہ سب کہاں ہے؟ میں نے اسے پیش کیا۔ آپ نے اس کے نکڑے کئے۔ ان میں سے ایک نکڑا آپ نے خود کھایا اور ایک نکڑا مجھے کھلایا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک نکڑا دیا۔ پھر اس شخص کے کندھوں میں اپنے ہاتھ سے دھکا دیا تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیر کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔ میں نے اپنے والد سے ان کی بابت پوچھا تو فرمایا کہ یہ رجال الغیب ہیں، جو چلتے رہتے ہیں۔ (بہجت الاسرار صفحہ ۱۶۷)

حضرت ماجد کردی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کائنات میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے شیخ سلیمان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں تھا اپنے والد کے پاس تھا اور اس وقت ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی دوران میں مہمان آگئے۔ اس وقت والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ گھر میں جا کر کھانا لے آؤ تو مجھ میں یہ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس وقت کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں۔ میں صرف آپ کے حکم کی تتمیل کی خاطر باورچی خانہ میں گیا تو وہاں قسم قسم کے کھانے موجود تھے۔ چنانچہ میں کل کھانا اٹھا کر لے آیا اور مطبخ میں کچھ نہیں چھوڑا۔ ابھی سب لوگ کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ تمیں مہمان اور آگئے۔ انہیں دیکھ کر والد صاحب نے پھر کھانا لانے کا حکم دیا۔ حب سابق جب میں باورچی خانے میں پہنچا تو وہاں کھانا موجود تھا۔ اس وقت آپ نے دو خادموں پر اس انداز سے نظر ڈالی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ نے انہیں لکڑی کی طرح انہوں کا باہر کروادیا۔ ان کے گھر والے آکر انہیں لے گئے۔ پھر جب مہینہ بعد وہ دونوں توبہ کرتے ہوئے اور عرض کیا کہ واقعی ہمارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ جادوگری ہے۔ (فلاکہ الجواہر ۲۷)

مزید علامہ فطنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ راوی کا بیان ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص حضرت شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو جح کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے شیخ سے عرض کیا کہ میں نے تجربید اور وحدت کے قدم پر جح کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی نہ میں نے تو شہ لیا ہے اور نہ کسی شخص کو اپنے ہمراہ لیا ہے، تو حضرت شیخ ماجد نے ایک چھوٹی کشتی (ڈونگا) دی اور فرمایا اگر تو وضو کا ارادہ کرے گا تو اس میں پانی پائے گا۔ اگر مجھے پیاس لگے گی تو اس میں دودھ پائے گا اور اگر مجھے بھوک معلوم ہوگی تو اس میں ستوا پائے گا۔

اس شخص کا حال یہ تھا کہ حمدین پہاڑ سے لے کر مکہ معظمه تک کے سفر میں اور جتنا زمانہ کہ وہ عرب میں رہا اور حجاز سے عراق تک لوٹنے کے وقت تک وہ جب بھی وضو کا ارادہ کرتا تو اسی ڈونگا کے عمدہ پانی سے وضو کر لیتا اور جب پانی پینے کا ارادہ کرتا تو اسی میں کبھی فرات سے عمدہ پانی پاتا اور خواہش کے مطابق اس میں بھی دودھ اور شہد ہوتا جو دنیا کے دودھ اور شہد سے کہیں عمدہ ہوتا اور جب کھانے کا ارادہ کرتا تو اس میں شکر ملا ہوا بہترین ستوا پاتیتا۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۱۶۷)

علامہ فطنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے کا بیان

پر اس آگ کا بالکل اثر نہیں ہوا۔ میں نے فلسفی سے کہا اپنا ہاتھ اس میں ڈالو۔ جب وہ اپنا ہاتھ اس آگ کے قریب لے گیا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ تب میں نے اس سے کہا اب تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آگ کا جلاتا یا نہ جلاتا خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے نہ یہ کہ اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ فلسفی نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ (ترجمہ فتحات الانہ صفحہ ۸۱۰)

حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمۃ والرضوان نے فتوحاتِ مکہ میں اس واقعہ کو تحریر فرمایا کہ اپنا یہ عقیدہ ساری دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آگ بھی ہمارے قابو میں ہے۔

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ فتوحاتِ مکہ میں شیخ ابن العربي نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے ایک ماہوں تلمیز کے باڈشاہ تھے۔ ان کا نام یحیٰ تھا۔ ان کے زمانہ میں ایک شیخ ابو عبد اللہ سے ملاقات ہوئی۔ لشکریوں نے ان کو بتایا کہ یہ شیخ ابو عبد اللہ تونی ہیں۔ انہوں نے اپنا گھوڑا لوٹایا اور ان کو سلام کیا اور شیخ سے کہا ان کپڑوں میں کہ جنہیں میں پہنے ہوئے ہوں، نماز جائز ہے یا نہیں؟ (یحیٰ اس وقت لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھے) شیخ یہ سوال سن کر ہنسنے لگے۔ یحیٰ نے کہا یہ ہنسنے کا کیا موقع ہے؟

شیخ ابو عبد اللہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری سادگی اور بے عقلی پر ہنس رہا ہوں، کیونکہ تمہاری حالت اس سخت کی مانند ہے کہ پڑے مردار سے پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ سر سے پاؤں تک نجاست میں غرق ہے، لیکن جب پیشتاب کرتا ہے تو ناگہ اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس پر پیشتاب کا چھینٹا نہ پڑ جائے۔ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کی گردنوں پر تمہارے بے شمار مظالم ہیں اور اب تم پوچھتے ہو کہ ان کپڑوں میں نماز جائز ہے یا نہیں؟

یحیٰ یہ بات سن کر رونے لگے، گھوڑے سے اتر آئے اور اسی وقت سلطنت چھوڑ دی اور شیخ کے خادموں میں شامل ہو گئے۔ جب یحیٰ کو ان کے پاس رہتے ہوئے تین دن گزر گئے تو شیخ ایک رسی لائے اور فرمایا کہ مہماں کی مدت پوری ہو چکی۔ اٹھو! لکڑیاں لاو اور نیچو! انہوں نے رسی لی اور لکڑیوں کا گھٹھ باندھ لائے اور بیچنے لگے۔ ان کی رعایا نے سلطنت و حکمرانی کے بعد جب ان کو اس حال میں دیکھا تو رونے لگے یہ لکڑیوں کو بیچتے تھے اور اپنے کھانے کی قیمت نکال کر باقی صدقہ کر دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ہی شہر میں رہے۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ (ترجمہ فتحات الانہ صفحہ ۸۱۲)

شیخ اکبر حضرت محبی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس واقعہ کو فتوحاتِ مکہ

## حضرت شیخ اکبر محتی الدین ابن عربی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۶۳۸ ھجری)

آپ کے خرقہ کی نسبت ایک واسطہ سے حضور سیدنا شیخ عبدالقدیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ ڈھانی سو سے زائد آپ کی تصنیفات ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہوَ بَحْرُ الْحَقَائِقِ۔ یعنی وہ حقائق کے سمندر ہیں۔ (ترجمہ تحقیقات الانس صفحہ ۸۰)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فتوحاتِ مکہ میں شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ ۵۳۶ھ کا سال تھا ہماری مجلس میں ایک عالم آیا جو فلاسفہ کے مسلک کا پیرو  
تھا اور نبوت کا اثبات جس طرح مسلمان کرتے ہیں وہ نہیں کرتا تھا۔ خوارق عادات اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا منکر تھا۔ اتفاقاً وہ جائزے کا موسم تھا اور ہماری مجلس میں انگلیٹھی جل رہی تھی۔ آگ کو دیکھ کر اس فلسفی نے کہا عوام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ مگر وہ جلنے سے محفوظ رہے۔ لیکن یہ ایک امر محال ہے کیونکہ آگ کا کام بالطبع جلانا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو جلا دے جن میں جلنے کی صلاحیت موجود ہو۔ پھر بطور تاویل کہنے لگا کہ قرآن پاک میں جو آگ مذکور ہے اس سے مراد نہرو دی آتش غصب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے وہی غصب کی آگ مراد ہے جو نہرو نے ان پر غصب و غصہ کیا اور ان کے نہ جلنے سے مقصود یہ ہے کہ اس غصب کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دلیل و جدت سے اس پر غالب آگئے تھے۔

جب فلسفی یہ تقریر کر کے خاموش ہوا تو مجلس کے بعض حاضرین نے خیال کیا کہ میں (شیخ اکبر) اس سے ضرور کچھ کہوں گا۔ چنانچہ یہ سن کر میں نے اس فلسفی سے کہا کہ تم اس قرآنی قصہ کا انکار کرتے ہو۔ میں تم کو دکھاتا ہوں اور اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ معجزہ کا انکار ختم کرا دیا جائے نہ کہ میں اپنی بزرگی دکھاؤں۔ اس نے کہا اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر میں نے کہا اس انگلیٹھی میں وہی آگ ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ بالطبع جلانے والی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی آگ ہے۔ بس میں نے اس انگلیٹھی کو اٹھا کر اس کے دامن میں انت دیا اور ایک عرصہ تک اسی طرح اس کے دامن میں رہنے دی اور اس کے دامن میں اس کو اپنے ہاتھ میں اٹ پلٹ کر تارہ، مگر اس کے کپڑے

مجھے کائنات عالم میں تصرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جسے سن کر عقل حیران ہو جائے۔

حضرت علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شعراءؑ علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ مجھے برادرم شیخ صالح الحاج احمد طبی قدس سرہ نے بتایا کہ ان کا گھر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے مزارِ اقدس کے بالکل قریب تھا اور مزارِ شریف سامنے نظر آتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص آگ لے کر حضور کے مزار کے تابوت کو جلانے کے لئے نکلا۔ ابھی وہ قبر سے آٹھ نو میٹر دوڑی تھا کہ زمین میں دھنے لگا یہاں تک کہ وہ میری نگاہوں کے سامنے زمین میں غائب ہو گیا۔ رات کو جب وہ اپنے گھر والوں کو نہ ملاتا تو وہ اسے تلاش کرنے لگے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ لوگ اس کے دھنے کی جگہ پر آئے اور جب زمین کھودی تو اس کا سر ظاہر ہوا، مگر وہ جتنا کھودتے جاتے اتنا ہی وہ نیچے دھنستا جاتا۔ آخر تھک ہار کر ان لوگوں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ (ترجمہ جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۳۶)

اس واقعہ سے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ ثابت کر دیا کہ وصال کے بعد بھی میرا تصرف جاری ہے۔

## غوث وقت قطب السالکین حضرت سیدی عبدالعزیز دیبا غ کاعقیدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال)

آپ اولیائے کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لَهُمُ التَّصْرِيفُ فِي الْعَوَالِمِ كُلِّهَا السَّفَلِيَّةُ وَالْعُلُوَيَّةُ وَحَتَّىٰ فِي  
الْحُجُبِ السَّبْعِينَ وَحَتَّىٰ فِي الْعَالِمِ الرَّقَاءِ بِالرَّأْءِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ  
وَهُوَ مَافُوقُ الْحُجُبِ السَّبْعِينَ فَهُمُ الَّذِينَ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ وَفِي أَهْلِهِ  
وَفِي خَوَاطِرِهِمْ وَمَاتَهُجُسُّ بِهِ ضَمَائِرُهُمْ فَلَا يَهُجُسُ فِي خَاطِرِ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِ التَّصْرِيفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعُينَ.

ترجمہ: انہیں سارے جہان سفلی اور علوی میں تصرف حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ستر جگابات اور ان کے اوپر بھی۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہیں عالم، اہل عالم اور ان کے خیالات میں تصرف حاصل ہوتا ہے اور جو کسی کے دل میں خیال گزرتا ہے تو وہ اہل تصرف کی اجازت ہی سے گزرتا

میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی زبان میں تصرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بادشاہ کو لکڑا ہارا بنا دیتے ہیں۔

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ سراج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعہ شیخ صالح حیدر بن ابو الحسین بن حیدر ہمیری بغدادی نے بتایا۔ انہیں سید زین الدین حسینی بغدادی نے اور انہیں سید زین الدین رشید طبی نے اور انہیں شیخ عز الدین دامغانی خراسانی نے بتایا جو عالم باعمل اور بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں، خراسان میں ایک شخص تھا جو حضرت ابن عربی (علیہ الرحمۃ والرضوان) کی برائی کیا کرتا تھا۔ وہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی کو بھی ایذا دیتا اور اس معاملے میں ساری حدیں توڑ دیتا۔ لوگوں نے حضرت شیخ کے سامنے اس کی ڈکائیتیں رکھیں۔ آخر کار کہنے لگے حضور! اب تو صبر بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اب وہ مرحلہ آگیا کہ اس کی قضا و قدر کے نفاذ کا مسئلہ شیخ کے حوالے ہو گیا۔

آپ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ ایسا اور ایسا خیبر آپ مجھے لا دیں۔ حالانکہ ایسے خیبر کا اسے علم نہ تھا (جب وہ خیبر لایا) تو آپ نے ایک کاغذ لیا جو شکل انسانی کے مطابق کٹا ہوا تھا۔ اس کا گذ کے پتلے کو خیبر سے ذبح کر دیا اور فرمایا اے ساتھیو! میں نے ابھی ابھی اس خراسانی کو ذبح کر دیا جو ہم پر زیادتیاں کیا کرتا تھا اور میں نے اس کے گھر کی چھت کے نیچے ایک دیوار سے بھاری پل اٹھا کر خیبر اس کے نیچے رکھ دیا ہے۔ وہ بوجھ میں سے کم آدمی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا سکتے ہیں اور میں نے خیبر پر اس کے خون سے لکھ دیا ہے کہ اسے شیخ محی الدین ابن عربی نے ذبح کیا ہے۔

حاضرین میں جن لوگوں کو شک تھا وہ خراسان چلے گئے، وہاں جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آدمی فلاں دن فلاں وقت ذبح ہو گیا اور وہ بالکل وہی وقت اور وہی دن تھا، جس دن حضرت شیخ نے اسے ذبح کیا تھا۔ ان جانے والے لوگوں نے وہاں سارا واقعہ بیان کر دیا تو بہت سے لوگ جن پر اس کے قتل کی تہمت لگ رہی تھی فتح گئے اور جب اس پل نما چھت کو اٹھایا گیا تو وہاں حضرت کی بتائی ہوئی عبارت کے ساتھ خیبر موجود تھا۔  
(جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۲۶)

مذکورہ بالاطر یقین پسینکڑوں کلو میٹر کی دوری سے گستاخ خراسانی کو ذبح فرمائی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے

نے کہا، بہت اچھا! اور پھر رخصت ہو گیا۔ جب عید قریب آئی تو میں نے دو دنبے خریدے۔ جس دن میں نے دنبوں کو خریدا تھا، اسی دن میرا ایک دوست حضرت کی خدمت میں موجود تھا۔ میرے دوست کا مکان میرے گھر سے دو دن کی مسافت پر تھا اور وہاں سے دو دن کی مسافت پر حضرتؐ کی خانقاہ شریف تھی۔ حضرت نے میرے دوست سے فرمایا کہ علی بن عبد اللہ تمہارے پاس دو دنبے لے کر آئیں گے۔ ان میں ایک تم لے لینا اور اس سے عید منانا اور دوسرا دنبہ میرے پاس لانا۔

جب میں اس دوست کے پاس پہنچا تو اس نے حضرتؐ کی بات مجھ سے نقل کی۔ چونکہ حضرتؐ کی بارگاہ میں اس کی رسائی اور حضرتؐ سے اس کا قرب خاص مجھے معلوم تھا، اس لئے مجھے اس کی بات ماننے میں کوئی تامل نہ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ ایک دنبہ اس کے حوالے کر دیا اور دوسرا دنبہ حضرتؐ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ہم لے کر چل پڑے۔ چونکہ ہم سواری پر تھے، اس لئے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کس طرح دنبہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ ہمراہ یوں میں پیدل چلنے والا صرف میرا ایک سوتیلا بھائی تھا۔ دنبہ اسی کی تحویل میں کر کے ہم آگے بڑھ گئے اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ایک دن بعد دنبہ لے کر میرا عالیٰ بھائی بھی پہنچ گیا۔ جب حضرتؐ نے اسے دیکھا تو فرمایا اُنتَ أَتَيْتَنَا بِكُبْشٍ وَ نَحْنُ أَغْطِيْنَاكَ وَ لَدَّا يُعْنِيْ تو ہمارے پاس دنبہ لایا اور ہم نے تجھے فرزند عطا کیا۔ حضرت سیدی علی بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور! اسے فرزند کی ضرورت بھی ہے۔

حضرت علی بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو اولاد کی بڑی تمنا تھی کیونکہ اس کی چھوٹی بیوی جو پندرہ برسوں سے اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اس طویل عرصہ میں کوئی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ ولادت سے ماں یوں ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کو بے اولاد کہنے لگی تھی۔

پھر دنبہ ایک جگہ باندھ دیا گیا اور حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم لوگوں کو اپنے مخصوص کمرہ میں لے گئے۔ رات کا وقت تھا۔ چراغ کی روشنی میں حضرت نے جب میرے بھائی کو دیکھا تو فرمایا اذنِ منیٰ میرے قریب آؤ! بھائی حضرت کے قریب ہو گیا۔ آپ نے اس کی پیشانی کو بخورد کیا کہ فرمایا ”تیرے پاس موٹا تازہ فرزند ہے“ اور اس جملہ کو تین بار فرمایا۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد پھر حضرت نے میرے بھائی کو

ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ (ابریز شریف صفحہ ۳۲۸)

حافظ الحدیث علامہ احمد سجھا سی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ غوثِ زماں حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا:

إِنَّ عُلَمَاءَ الظَّاهِرِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ اخْتَلَفُوا فِي النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلْ كَانَ يَعْلَمُ الْخَمْسَ فَقَالَ رَضِيَ  
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْفَ يُخْفِي أَمْرًا خَمْسًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ التَّصْرُفِ مِنْ أُمَّةِ الشَّرِيفَةِ  
لَا يَمْكُنُهُ التَّصْرُفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذَا الْخَمْسِ.

ترجمہ: علمائے ظاہر محدثین وغیرہ علوم خسے کے بارے میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ عالموں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو ان کا علم تھا اور دوسرا گروہ انکار کرتا ہے۔ اس میں حق کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے یہ غیب کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ آپ کی امت شریفہ میں جوابی تصرف ہیں (کہ عالم میں تصرف کرتے ہیں) وہ تصرف کرہی نہیں سکتے، جب تک ان پانچ غیبوں کو نہ جان لیں۔

(ابریز شریف صفحہ ۳۲۸)

مذکورہ بالا اقوال میں غوثِ زماں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اولیائے کرام کو سفلی اور علوی سارے جہان میں تصرف کا اختیار بخشنا ہے۔ یہاں تک کہ اہل عالم کے خیالات میں بھی ان کو تصرف حاصل ہوتا ہے اور آخری ارشاد سے آپ کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوب بندے جو عالم میں تصرف کرتے ہیں ان کو غیوب خسے کا بھی علم ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ تصرف کرہی نہیں سکتے۔

حضرت علامہ نبہانی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صاحب ابریز علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ فقید ثقة صدقہ سیدی علی بن عبد اللہ صافی نے بیان فرمایا کہ مجھے پہلی مرتبہ قطب وقت حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ماہ رمضان شریف میں حاصل ہوئی۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ماہ رمضان شریف میں حاصل ہوئی۔ عید اسی سے ہوگی۔ میں الوداعی مصافحہ کے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید اسی سے ہوگی۔

اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں بلا تردید لکھا تو معلوم ہوا کہ ان حضرت کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو لڑکا دینے کی قوت عطا فرمادیتا ہے اور الحمد للہ ہم اہل سنت و الجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

## سلطان المرشدِ دین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال ۷۶۱ھجری)

آپ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کے پیر و مرشد ہیں۔ شریعت و طریقت کے علوم میں اپچھ وقت کے بہت بڑے عالم اور مقتدائے اوتاد و ابدال تھے۔ ہارون ایک موضع ہے جو نیشاپور کے مضائقات میں ہے، چونکہ آپ وہاں کے رہنے والے تھے اس لئے اسی نسبت سے آپ ہارونی مشہور ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک مکہ شریف میں مسجد جن کے قریب تھا، جس کو نجدی حکومت نے توڑ کر روڈ میں لے لیا۔

حضرت خواجہ امیر خورد کرمانی نظامی مصنف سیر الاولیاء تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک زمانہ تک مسلسل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک بار ہم دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے۔ افقاں سے وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو! میں نے آنکھیں بند کر لیں، جب میں نے آنکھ کھولی تو حضرت خواجہ عثمان گو اور خود کو دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر پایا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۰)

حضرت خواجہ امیر خورد کرمانی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں نہایت پریشان حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے کہ تم اس قدر پریشان ہو؟ اس بوڑھے نے کہا کہ چالیس سال سے میرا ایک بینا غائب ہے۔ مجھے اس کی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ سے فاتحہ کی درخواست کروں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقب ہوئے، جب دیر ہو گئی تو مراقبہ سے سر اٹھا کر حاضرینِ مجلس سے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر اس نیت سے فاتحہ پڑھیں کہ اس بوڑھے کا بیٹا اس کو مل جائے۔ سب لوگ جب

فاتحہ پڑھ چکے تو آپ نے اس بوڑھے سے فرمایا جاؤ! تمہارا بیٹا تمہارے گھر آچکا ہو گا۔

بوڑھا اپنے گھر آیا تو گھر کے ہر آنے جانے والے نے اس کے بیٹے کے آنے کی مبارکباد دی کہ مبارک ہو تمہارا بیٹا آگیا۔ بوڑھے کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ پھر باپ

مخاطب کیا اور فرمایا کہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نام کیا رکھے گا؟ بھائی نے عرض کیا حضور جو چاہیں نام رکھ دیں۔ حضرت نے تھوڑی دری کی خاموشی کے بعد فرمایا کہ اس کا نام ”رحال“ (کوچ کرنے والا) رکھنا۔

سید علی بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ”رحال“ نام ہمارے لئے بالکل غیر مانوس اور اجنبی تھا۔ آپ اور اجداد میں اب تک کسی کا نام رحال نہیں تھا۔ حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا حضور! ایسا نام کیوں تجویز فرمائے ہیں، جو ان کے قبیلہ کے لئے غیر معروف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری سمجھ میں بھی نام آ رہا ہے۔

حضرت سیدی علی بن عبد اللہ صباغی فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر والوں آئے تو دیکھا کہ بھائی کی الہیہ کو محل کے آثار ظاہر ہیں، حالانکہ اس سے پہلے پورے خاندان میں کسی کو اس کے حاملہ ہونے کا علم نہ تھا۔ جب لڑکے کی پیدائش ہوئی تو حضرت کے ارشاد کے مطابق گھر والوں نے اس کا نام ”رحال“ رکھا۔ لوگوں کو رحال نام سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ وجہ دریافت کرتے۔ میں کہتا کہ حضرت سیدی عبدالعزیز نے اس کا نام رحال صرف یہ بتانے کے لئے رکھا ہے کہ یہ بچہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گا بلکہ جلد ہی دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تقریباً تین سال کی مختصری زندگی پا کر لڑکا مر گیا۔

حضرت سیدی علی بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ بچہ کے انتقال کر جانے کے بعد سیدی شیخ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ والرضوان نے میرے بھائی کو مخاطب کر کے فرمایا۔ المَرْءَةُ الْأُولَى أَغْطَيْنَاكَ فِيهَا رِحَالًا وَفِي هَذِهِ الْمَرْءَةِ نُغْطِيْكَ مَنْ يُقْيمُ عِنْدَكُمْ وَلَا يَرْجِعُ عَنْكُمْ: یعنی پہلے سفر میں ہم نے تم کو رحال دیا تھا اور اس سفر میں تم کو ایسا لڑکا دیں گے جو تمہارے پاس رہے گا اور تمہیں داعی مفارقت دے کر کوچ نہیں کرے گا۔

(جامع کرامات اولیاء جلد دوم عربی صفحہ ۱۸۲-۱۸۳)

غوث زماں حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ میں ذنبہ پہنچانے پر یہ فرمایا کہ ہم نے تجھے فرزند عطا کیا اور پھر دوسری ملاقات پر یہ فرمایا کہ پہلے سفر میں ہم نے تم کو رحال دیا تھا اور اس سفر میں ہم تم کو ایسا لڑکا دیں گے جو تمہارے پاس رہے گا۔ اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا عطا کرنے کی قوت بخشی ہے۔ اگر حضرت کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو آپ اس طرح کی بات ہرگز نہ فرماتے۔

صاحب ابریز حضرت علامہ ابن مبارک و حضرت علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہمہ نے

## سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۶۳۳ ھجری)

آپ برصغیر ہندو پاکستان میں بڑے بڑے اولیائے کرام کے سردار اور سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ آپ "خفی المذہب تھے، علاقہ خراسان میں ۱۳ ربیع ۵۲ ھجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین ہے جو حسینی سید تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ماہ نور ہے جو حسینی سیدہ تھیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔ ۹ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور ۱۳ سال کی عمر میں تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے اور بعض روایتوں میں ہے کہ ۲۰ سال کی عمر تک تعلیم حاصل کی۔

بوجہ انقلاب حکومت آپ کے والد مع اہل و عیال خراسان سے عراق چلے آئے تھے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جبکہ حضرت خواجہ کی عمر پندرہ سال تھی۔ والد گرامی کے انتقال فرمانے کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خراسان گئے۔ ترک میں آپ کو ایک باغ اور پن چکلی جس کی آمدی سے آپ کے اخراجات چلتے تھے۔

ایک دن آپ اپنے باغ میں تھے کہ اچاک حضرت خواجہ ابراہیم مجدوب وہاں آگئے۔ آپ نے بڑے ادب سے خوشہ انگور ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مجدوب نے بڑی رغبت سے اس کو کھایا۔ پھر اپنی زنبیل سے کھلی کاٹکڑا نکالا اور دانت سے کاٹ کر آپ کو کھانے کے لئے دیا۔ اس کے کھاتے ہی آپ کا دل دنیا سے سرد ہو گیا۔ باغ و پن چکلی بیچ کر فقراء میں تقسیم کر دیا اور سفر کے لئے نکل پڑے۔ بخارا وغیرہ سے ہوتے ہوئے بگداد شریف پہنچے۔ وہاں سلطان الرشدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ والرضوان سے شرف بیعت حاصل کیا اور میں سال تک سفر و حضر میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے اور ان کے برتن و بستر لے کر ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے آپ کو نہیں خلافت سے سرفراز فرمایا۔

۷ محرم ۵۶۱ ھجری میں آپ اجمیر شریف تشریف لائے اور ۶ ربیع ۶۳۳ ھجری ۱۰۶ سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ مشہور ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا۔ حَبِيبُ اللَّهِ مَاتَ فِي حُبِّ اللَّهِ۔ یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا۔

اور بیٹھے دونوں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوی کی سعادت حاصل کی۔ خواجہ نے اس کے بیٹھے سے پوچھا کہ اب تک تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جزاً دریائے دیوان کے ایک جزیرہ میں قید تھا اور مجھے زنجیریں ڈالی گئی تھیں۔ میں آج بھی اسی مقام پر تھا کہ ایک درویش نے جو بالکل آپ کی ہم شکل تھا، زنجیر پر ہاتھ ڈالا۔ زنجیر فوراً اٹوٹ گئی۔ پھر اس درویش نے مجھے اپنے پاس کھڑا کر کے کہا کہ میرے قدم بقدم آؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا (چند قدم چلنے کے بعد) اس درویش نے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر پایا۔ (ترجمہ سیر الالویاء صفحہ ۱۰۸)

حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۱ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آدھی رات کے وقت گھر میں تشریف فرما تھے کہ انہی (۹۷) کافروں نے مشورہ کیا کہ آدھی رات کو خواجہ عثمان ہارونی کے پاس چلیں اور کہیں کہ ہم مجھ کے ہیں۔ ہر ایک کو نئے طلاق میں عیحدہ علیحدہ کھانا دیجئے اور ہر ایک جدا گانہ نوع کا۔ اس باہمی مشورہ کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو خواجہ نے فرمایا اے آدم و حوا کے بیٹو! بیٹھ جاؤ اور ہاتھ دھولو اور خود بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھ کر آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور ہر جنس کے مختلف کھانوں کے بھرے ہوئے طلاق جیسا کہ وہ لوگ سوچ کر آئے تھے، غیب سے لیتے اور ان کے سامنے رکھ دیتے۔ وہ کافر بھی مسلسل نظریں جمائے دیکھتے رہے کہ طلاق غیب سے آ رہے ہیں۔ خیر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی نعمت کھاؤ اور اس پر ایمان لاو! انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خدا اور رسول پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں تو کیا خدا تعالیٰ ہمیں بھی تم جیسا کر دے گا۔ فرمایا کہ ”میں غریب کس سختی میں ہوں۔ خدا تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ مجھ سے ہزار درجہ تمہیں بلند فرمائے۔“ وہ سب ایمان لے آئے۔ مسلمان ہو گئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک صحبت میں رہے۔ ان میں ہر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا کہ ان کی نظروں میں عرش سے لے کر تھا۔

الغیری تک سب مکشف ہو گیا۔ (سبع سنابل شریف صفحہ ۲۳۱)

حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات سے اپنا یہ عقیدہ حکم کھلا واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں عالم میں تصرف کا اختیار بخشتا ہے۔

پڑھ کر دشمنوں کے ہجوم کی طرف پہنچ دی اور جس پر بھی اس مٹی کے کچھ ذرے گرے۔ اسی وقت اس کا جسم خشک ہو کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ باقی لوگ بھاگ کر شہر میں آئے۔ خواجہ کے ان کمالات کو دیکھ کر باشندگان اجمیر نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت برا جادوگر ہے۔ اس کا مقابلہ ہر شخص کے بس کا نہیں۔ کوئی برا عی جادوگر اس سے جیت سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان کے مشہور جوگی جے پال کو خواجہ صاحب کے مقابلہ کے لئے بلا�ا۔ جے پال جوگی جو ہندوستان میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا اپنے ڈیڑھ ہزار چیلیوں کے ساتھ اجمیر پہنچا اور اس تالاب کی طرف بڑھا، جہاں حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ والرضوان تشریف فرماتھے۔ جب خواجہ صاحب کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے وضوفِ مایا اور اپنے عصاء مبارک سے ایک حصار کھینچ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی حصار میں تشریف فرمارہے۔ حصار کھینچ کر فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ دشمن اس کے اندر نہ آسکیں گے۔ چنانچہ ایسا عی ہوا اور جے پال کے ساتھیوں میں سے جن کا بھی پاؤں اس کے اندر پڑا بے ہوش ہو کر گر گیا۔ (برکات الصالحین حصہ دوم صفحہ ۶۷)

روایت کیا گیا ہے کہ جے پال جوگی کو بلانے کے ساتھ شہروالوں نے آپ کو ستانے کی ایک ترکیب کی اور وہ یہ کہ جس تالاب کے پاس حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ والرضوان مقیم تھے، اس پر پہرہ لگا دیا تاکہ حضرت خواجہ صاحب کے ساتھی اس میں سے پانی نہ لے سکیں۔ جب آپ کو ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ نے ایک مرید سے فرمایا کہ تم کسی طریقہ سے اس تالاب سے ایک پیالہ بھرلو۔ چنانچہ مرید نے حسب الحکم اس تالاب سے ایک پیالہ بھر لیا۔ پیالہ کے بھرتے ہی تالاب کا تمام پانی خشک ہو گیا اور ایسا خشک ہوا کہ گویا اس میں بھی پانی موجود ہی نہ تھا۔ خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی اسی ایک پیالہ پانی کو استعمال کرتے رہے اور جس قدر اس میں سے خرچ کرتے رہے اسی قدر اس میں پانی بڑھ جاتا تھا۔

جب شہروالوں کو تالاب کا پانی خشک ہو جانے سے تکلیف پہنچی تو جے پال جوگی نے حصار کے قریب آواز دے کر خواجہ صاحب سے کہا کہ لوگ پیاس سے مرے جاتے ہیں۔ فقیر کا کام مخلوق کو آرام پہنچانا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں تو مخلوق کو ستان آپ کو زیب نہیں دیتا۔ فقیر کو چاہیئے کہ مخلوق کو لفظ پہنچائے۔

جے پال کی بات سن کر آپ نے پانی سے بھرا ہوا وہ پیالہ اسی تالاب میں ڈلوادیا، جس کی وجہ سے یہاں کی تالاب پانی سے بھر کر لہریں مارنے لگا۔ (برکات الصالحین حصہ دوم صفحہ ۶۸)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ پتوchorا رائے کے دورِ حکومت میں اجیر تشریف لائے اور عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے۔ پتوchorا رائے اس زمانہ میں اجیر میں ہی مقیم تھا۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا۔ وہ پیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ آپ نے اس کی سفارش میں پتوchora رائے کے پاس ایک پیغام بر بھیجا، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے۔ جب خواجہ اجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے پتوchora کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا۔ اسی زمانے میں سلطان معز الدین عرف شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے پہنچی۔ پتوchora شکر اسلام سے مقابلہ کے لئے نکلا اور سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ (اخبا الاحیا راردو صفحہ ۵۶)

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ والرضوان جب اجیر شریف میں رونق افروز ہوئے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمانا چاہا تو ایک شخص نے آواز دی کہ یہاں نہ ٹھہر دی کیونکہ یہاں راجہ کے اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک تالاب کے کنارے جا کر ٹھہر گئے۔ اونٹ بانوں نے رات حسب قاعده اسی درخت کے نیچے اونٹ باندھ دیئے اور جب صبح ہوئی اور اونٹوں کو دیکھ کر شتر بان جیان رہ گئے اور غور کرنے سے اس مصیبت کے آنے کی وجہ ان کے ذہن میں پہنچنے لگے تو اونٹ زمین سے نہ اٹھ سکے اور ان کے سینے زمین سے چکپے رہ گئے۔ یہ ماجرا اٹھانے لگے تو اونٹ زمین سے نہ اٹھ سکے اور ان کے سینے زمین سے چکپے رہ گئے۔ اسی کی بدعاگی ہے۔

پہنچنے لگے تو ایک فقیر کو ستایا اور یہاں نہ پیشئے دیا۔ اسی کی بدعاگی ہے۔ آخر کار حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جب واپس ہوئے اور اونٹوں کو اٹھایا تو سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا تو شہر کے ہندو باشندوں نے راجہ سے کہا کہ پرنسی غیر مذہب کا آدمی ہمارے مندوں کے قریب ٹھہرا ہوا ہے جو تالاب کے کنارے پر واقع ہیں۔ یہاں اس کا شہرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر راجہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو وہاں سے اٹھا دو اور ہماری قلمرو سے نکال دو۔

چنانچہ بہت بڑا مجمع خواجہ صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ خواجہ صاحب نے ایک مٹھی خاک کی زمین سے اٹھائی اور اس پر آپے الکری

مرید صادق سے کہا عبودیت کی انہایا ہے کہ جب عبودیت کا تاج پہننے والا کسی سے کہہ دیتا ہے کہ مر جاتو فوراً مر جاتا ہے۔ پھر ہوایوں کہ محمد زاہد سے چونکہ یہ بات کمی تھی کہ مر جا۔ لہذا وہ اسی وقت مر گیا۔ چاشت سے لے کر دوپہر تک پڑا رہا۔ موسم بہت گرم تھا۔ مجھے بڑا قلق ہوا اور حیرانی کی انہائی رہی۔ وہاں اس کے قریب ہی ایک سایہ دار درخت کے نیچے عالم حیرانی میں ڈوبا ہوا آ کر بیٹھ گیا۔

جب دوبارہ اس کے پاس آیا تو دیکھا سخت گرمی کی وجہ سے اس کے جسم میں کچھ تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔ مجھے بہت دُکھ ہوا۔ اس وقت میرے دل میں إلقاء ہوا کہ اسے کہہ دیں اے محمد! اب زندہ ہوجا! میں نے یہ بات تین بار کہی تو اس کے بدن میں زندگی آہستہ آہستہ رینگنے لگی اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بالکل اپنے پہلے حال پر آ گیا۔ جب میں جنگل سے واپس آیا تو حضرت سید کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب میں نے کہا کہ وہ مر گیا اور میں حیرت زدہ ہو گیا۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا میرے بیٹے! تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ زندہ ہوجا؟ میں نے عرض کیا حضور! جب مجھے یہ کہنے کا الہام ہوا تو میں نے کہہ دیا اور وہ پھر زندہ ہو گیا۔ (جامع کرامات اولیاء اردو صفحہ ۲۲۹)

علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے غریب خانہ پر تشریف لائے تو میں بہت شرمندہ ہوا کہ میرے پاس آٹا نہیں تھا۔ میں نے کسی طرح انتظام کر کے آٹے کا ایک تھیلا لے آیا تو مجھ سے فرمایا، اس میں سے آٹا نکال کر گوندھتے رہو! اور کسی کو اس کی کمی بیشی کی اطلاع نہ دو! پھر آپ دس میئنے تک ہمارے یہاں ٹھہرے رہے اور دوست و مرید آپ کی زیارت کے لئے میرے گھر مسلسل آتے رہے اور ہم اسی تھیلے سے آٹا لے کر انہیں روٹی کھلاتے رہے، مگر وہ بدستور بھرا کا بھرا رہا۔ پھر میں نے یہ راز حضرت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی اور تھوڑے ہی دنوں میں تھیلے کا سارا آٹا ختم ہو گیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۳۰)

اور پھر تحریر فرماتے ہیں، شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا بہاؤ الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خوارزم کے سفر پر نکلے تو ساتھ ہی شیخ شادی بھی تھے۔ جب دریائے حرام پر پہنچنے تو آپ نے شیخ شادی کو حکم دیا کہ وہ پانی پر چلیں۔ شیخ شادی ڈر گئے۔ آپ نے کئی بار حکم دیا مگر وہ تعیل نہ کر سکے۔ آپ نے ان کے اوپر ایک

روایت کیا گیا ہے کہ جادوگروں نے جب اپنا جادو شروع کیا تو حضرت خواجہ صاحب کا کچھ بگاڑنہ سکے۔ جب پال اور اس کے چیلوں کے جادو کے اثر سے پھاڑ کی طرف سے ہزاروں کا لے سانپ نکل کر حضرت خواجہ صاحب کی طرف بڑھے، مگر جو سانپ حصار (گھیرے کی لکیر) کے قریب آیا لکیر پر سر رکھ کر رہ گیا۔ جب یہ عمل کارگر نہ ہوا تو جادوگروں نے دوسرا عمل کیا، جس کے سبب آسمان سے آگ برنسی شروع ہوئی، یہاں تک کہ آگ کے ڈھیر لگ گئے اور ہزاروں درخت جل کر راکھ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت خواجہ صاحب کے حصار میں کچھ اثر نہ پہنچا۔

اب جے پال ہرن کی کھال پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑا یہاں تک کہ نظر وہ سے غائب ہو گیا۔ حضرت نے اپنی کھڑاؤں ہوا میں پھینک دی۔ وہ فضائیں گئی اور جے پال جو گئی کے سر پر پڑنے لگی، یہاں تک کہ اسے مار مار کر زمین پر نیچے لے آئی۔ جے پال اپنے حال پر رونے لگا۔ پھر خواجہ صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔

(برکات الصالحین حصہ دوم صفحہ ۲۹)

حضرت خواجہ اجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے جھورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا اور اونٹوں کے پیٹ زمین سے چپک گئے۔ پھر آپ کے حکم دینے پر ہی وہ کھڑے ہوئے اور آپ کے چھیٹکے ہوئے مٹی کے ذردوں سے دشمنوں کے جسم بے حس و حرکت ہو گئے اور پورے تالاب کا پانی ایک پیالہ میں لے لیا اور اپنی کھڑاؤں کو بغیر کسی مشین کے ہوا میں اڑا دی جو بے پال کو مار کر نیچے لے آئی۔ ان سارے واقعات سے حضرت خواجہ اجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کائنات میں تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

نوٹ : حضرت خواجہ صاحب کے مذکورہ بالا واقعات بڑی کوشش کے باوجود کسی اہم کتاب میں نہیں مل سکے اس لئے مجبوراً معمولی کتاب کے حوالے سے درج کئے گئے۔

**امام الاولیاء حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری کا عقیدہ**

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۹۱۷ھجری)

آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن محمد زاہد کو اپنے ہمراہ لے کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ محمد زاہد میرا بڑا بیکا اور سچا مرید تھا۔ ہم لوگ معرفت کے موضوع پر مفتکم کر ن گئے۔ ماتھی چلتے چلتے اس نکتہ پر آپ سچنی کہ عبودیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے اپنے

اس عالم فتاویں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہماری جماعت کی نظر میں اس دنیا سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۶۲۳)

شیخ الشیوخ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات و فرمودات سے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرنے، پانی پر چلنے یہاں تک کہ پہاڑ کو سوتا بنا دینے کی قدرت بخشی ہے اور مجھے تعالیٰ اسکی برگزیدہ ہستی کے عقیدے کے مطابق انبیاء و اولیاء کے بارے میں ہم الجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

## علامہ جلال الدین محمد بنجی عرف مولانا رومی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۶۷۲ ہجری)

آپ مشنوی شریف کے دفتر سوم میں تحریر فرماتے ہیں۔

اندرالاں وادی گروہ از عرب خلک شد از نقطہ باراں شاں قرب

عرب کے ایک گروہ کا پانی خلک سالی کے سبب ایک جنگل میں ختم ہو گیا۔

ناگہانے آں مغیث ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بھر عون

اتفاقاً وہ دونوں جہان کی امداد فرمانے والے یعنی حضور سید عالم<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> مد کے لئے

نمودار ہوئے تو ایک بہت بڑا قافلہ دیکھا جو دور سے چل کر آیا ہوا تھا۔

اشتراس شاں را زبان آویختہ خلق اندر ریگ ہر سو رینتہ

ان لوگوں کے اوٹ پیاس کی ہدایت سے زبان لٹکائے ہوئے اور لوگ ریت کے اندر

ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ قافلہ والوں کی یہ پریشان حالی دیکھ کر رحمۃ اللعالمین کا دریائے

رحمت جوش میں آگیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا ٹیلے کے اس طرف جاؤ۔

کہ سیاہے بر شتر مشک آورد سوئے میر خود بزودی می نُرد

ایک جبشی غلام پانی کی مشک اوٹ پر لئے ہوئے اپنے مالک کی طرف تیزی سے جا

رہا ہے۔ اس جبشی کو مع اوٹ اور پانی کے میرے پاس لاو۔ لوگ ٹیلے کے اس طرف گئے تو حضور<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کے ارشاد کے مطابق ایک جبشی کو اوٹ پر پانی لے جاتے ہوئے دیکھا۔

پس بد و گفتند می خواہند خُرا ایں طرف خیرالبشر خیرالورثی

تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے رسول اللہ<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> بلا رہے ہیں۔ جبشی نے کہا میں

نگاہ ڈالی جس سے وہ کچھ دیر کے لئے بے خود ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اپنا قدم پانی پر رکھ دیا اور اس پر چلتے گئے۔ جب دونوں دریا کو پار کر گئے تو حضرت نے فرمایا دیکھئے آپ کے موزے کا کوئی حصہ تر ہوا ہے؟ شیخ شادی نے دیکھا تو قدرتِ خداوندی سے اس میں ذرا بھی غمی نہیں تھی۔ (جامع کراماتِ اولیاء صفحہ ۶۲۱)

پھر تحریر فرماتے ہیں۔ آپ کے ایک مرید کا بیان ہے میری محبت کا سب حضرت سے یہ ہوا کہ میں ایک دن بخارا کے ایک بازار میں اپنی دوکان پر بیٹھا تھا کہ آپ وہاں تشریف لائے اور دوکان پر بیٹھے گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بایزید بسطامی خود اپنی ایک منقبت یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے کپڑے کا کنارا کسی کو گل جاتا ہے تو وہ میرا محبت اور ولاداہ بن جاتا ہے اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ میں (یعنی حضرت نقشبند) کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی آستین ہلا دوں تو بخارا کے رہنے والے بلا امتیاز چھوٹے بڑے سب کو اپنا شیدا بنا لوں۔ وہ گھر بار اور دوکانیں چھوڑ کر میرے پیچھے چلنے لگیں۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ آستین پر رکھا اور اس حالت میں میری نگاہ آپ کی آستین پر پڑ گئی۔ پھر کیا تھا حال و وجد نے مجھے آ لیا اور خود فراموشی طاری ہو گئی۔ عرصہ دار زیست یہی حال رہا۔ جب آرام ہوا تو آپ کی محبت پوری قوت کے ساتھ مجھ پر چھا گئی۔ میں نے گھر بار اور مکان کو چھوڑ کر آپ کی خدمت اپنائی۔ (جامع کراماتِ اولیاء صفحہ ۶۲۲)

آپ کے ایک اور غلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے لڑکا عطا ہو۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کی برکت سے لڑکا ہوا، مگر وہ مر گیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ فرمانے لگے، تم نے ہم سے درخواست کی تھی کہ لڑکا ہو۔ خداوند کریم نے لڑکا عطا کیا اور پھر وہ لے بھی گیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ فقیر کی دعا سے تمہیں دو اور لڑکے دے گا اور وہ بھی عمر پائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد میرے ہاں دو لڑکے ہوئے۔ ایک ان میں سے بیمار ہو گیا تو میں نے حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا تم کو کیا ہے۔ وہ میرے لڑکے ہیں، بیمار ہو کر اچھے ہوتے رہیں گے۔ پھر جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہوتا رہا۔ (جامع کراماتِ اولیاء صفحہ ۳۳۲)

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ شیخ شادی قدس سرہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان نے مجھ سے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ کی قوت سے پھاڑ تھاڑے لئے سونا بنا دوں، لیکن ہمارے لئے

ہم نہ ابراہیم ادھم آمد ست کوز را ہے بولپ دریا نشت  
 حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک  
 دن راستے چلتے ہوئے ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ آپ کے زمانہ فقیری کا ہے۔  
 لئے خود می دوخت آں سلطانِ جاں یک امیرے آمد آنجا تاگہاں  
 حضرت اپنا لباسِ فقیری خود سل رہے تھے کہ اچاک ایک حاکم جو پہلے آپ کا غلام  
 تھا آیا اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت تعجب کیا اور دل میں سوچنے لگا۔

ترک کرد او ملک هفت اقلیم را می زند بر ڈلق سوزن چوں گدا  
 ہفت اقلیم کی سلطنت کو چھوڑ کر اب فقروں کی طرح گذری کی رہے ہیں افسوس !  
 ہزار افسوس !

شیخِ واقف گشت از اندیشه آش شیخ چوں شیرست و دلہا بیشه آش  
 حاکم کے اس خیال سے حضرت آگاہ ہو گئے، کیونکہ حضرت شیر کی مانند ہیں اور لوگوں کا دل  
 ان کا جنگل ہے۔

شیخ سوزن زود در دریا فگند خواست سوزن را با واڑ بلند  
 حضرت نے سوئی کو دریا میں پھینک دیا پھر با واڑ بلند فرمایا کہ سوئی لے آؤ !  
 صد ہزاراں مائیے اللہی سوزن زر در لب ہر مائیے  
 اللہ والی لاکھوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں اپنے منہ میں لئے ہوئے نکلیں اور  
 انہیں حضرت کے سامنے پیش کیا۔

گفت اللہی سوزنِ خود خاتم دادہ از فعلت نشان راتم  
 آپ نے کہا اللہی ! میں نے تو اپنی سوئی چاہی تھی۔ مجھے تو نے اپنے قُضل سے سچائی  
 کا نشان دیا۔ لہذا مچھلیوں سے وہی سوئی منگوادے جو میری ہے۔

ماہی دیگر برآمد در زمان سوزن او را گرفتہ در دہاں  
 ایک دوسری مچھلی اسی وقت حضرت کی سوئی کو منہ میں لئے ہوئے نکلی  
 رو بدو کردہ بلکتش اے امیر ملک دل بہ پاچناں ملکِ حقیر  
 آپ نے حاکم سے مخاطب ہو کر فرمایا اے امیر ! دلوں پر حکومت بہتر ہے جس کا میں  
 بادشاہ ہوں یا ایسے ملکِ حقیر کی جس کے تم مالک ہو۔  
 اور مشنوی شریف کے دفترِ دوم میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔

انہیں نہیں جانتا۔ لوگوں نے حضور ﷺ کے اوصاف بیان کئے تو اس نے کہا وہ تو جادوگر ہیں۔ (معاذ اللہ) میں ایک قدم ان کی طرف نہ جاؤں گا۔

کشناش آور یمند آں طرف او فخاں برداشت درتشنج وقف لوگ جبشی کو حضور ﷺ کی طرف زبردستی کھینچ لائے۔ وہ چلا تا تھا اور بُرا بھلا کھتا تھا۔ چوں کشیدن دش ب پیش آں عزیز گفت نوشید آب و بردارید نیز جب اس کو کھینچ کر حضور ﷺ کے پاس لائے تو آپ نے فرمایا کہ جبشی کے مشکلزے سے سب لوگ پانی پیو اور جس قدر طبیعت چاہے لے بھی جاؤ۔ حضور ﷺ کا اعلان سنتے ہی ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ خود بھی پیا اور اپنا اپنا مشکلزہ بھی بھر لیا اور سب اونٹ بھی سیراب ہو گئے۔

اب حضور ﷺ نے جبشی سے مخاطب ہو کر فرمایا  
اے غلام اکنوں تو پُر بین مشکل خود تائگوئی درشکایت نیک د بد  
اے غلام اب بھی تیرا مشکلزہ بھرا ہوا ہے۔ دیکھ لے تاکہ بعد میں شکایت کرتے ہوئے  
تو برا بھلانہ کہے۔

آں سے چیراں شد از بربان او می دمید از لامکاں ایمان او  
وہ جبشی حضور سید عالم ﷺ کے اس مجرے سے چیراں ہو گیا اور اس کا ایمان لامکاں  
سے طلوع ہوا۔ یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔

مصطفیٰ دستِ مبارک بر رخش آں زماں مالید کرد او فڑ تھش  
اس کے بعد حضور ﷺ نے اپنا نورانی ہاتھ اس جبشی کے چہرے پر پھیر دیا جس سے  
اس جبشی کا رنگ بدل گیا۔ یعنی وہ حسین و خوبصورت ہو گیا۔

شد پید آں زنگی زادہ جبش ہچھو بدر و روئی روشن شد شہش  
وہ زنگی زادہ جبشی سفید ہو گیا اور اس کا چہرہ روئی روشن اور چود ہویں رات کے چاند کی  
طرح چکنے لگا۔

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس واقعہ کو منشوی شریف میں لکھ کر اپنا یہ  
عقیدہ ظاہر کر دیا کہ حضور سید عالم ﷺ کو خدا تعالیٰ نے تصرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ  
بدشکل آدمی کے چہرے پر صرف اپنا دستِ مبارک پھیر کر اس کو حسین و خوبصورت بنادیں۔

آپ منشوی شریف کے دفتر سوم میں اور تحریر فرماتے ہیں۔

## حضرت نور الدین عبد الرحمن علامہ جامی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۸۹۸ ھجری)

آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہری و باطنی دونوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے بہت سے علماء و مشائخ سے اکتساب فیض کیا، مگر آپ کے مرہد خرقہ شیخ طریقت حضرت سعد الدین کاشغری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ چار داسطون سے آپ کے خرقہ کی نسبت خواجہ خواجگان حضرت شیخ بہاؤ الدین بخاری نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان تک پہنچتی ہے۔

آپ نے عربی و فارسی میں مختلف علوم و فنون کی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن کی تعداد ۵۲ تک پہنچتی ہے، جو آپ کے تخلص "جامی" کے عدد ہیں۔ ان میں علم خنوکی کتاب "الفوائد الضیائیہ فی شرح الکافیہ" جو شرح ملا جامی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ کافیہ کی شرحوں میں نہایت ہی ارفع و اعلیٰ اور سب سے زیادہ مشہور اور متداول شرح ہے اور تمام مدارس عربیہ میں داخل درس ہے۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مردہ طوطی لے کر آیا۔ شیخ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طوطی زندہ ہو جائے؟ اس نے نے کہا جی ہاں! میں اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ شیخ حلاج نے انگلی سے اشارہ فرمایا۔ طوطی اسی دم زندہ ہو گئی۔ (ترجمہ فتحات الانص فتحی ۳۲۷)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ ابو الحسین قرآنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۸۰ ھجری) نے کشتی میں اصحاب کیا (یعنی لوگوں کو ممنوعات شریعت سے روکا) تو انہوں نے غصہ میں آ کر شیخ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو دریا میں ڈال دیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو کشتی والوں نے آپ کو صفت اول میں پایا اور آپ کا دامن بھی ترنیں ہوا تھا۔

(ترجمہ فتحات الانص فتحی ۳۵۰)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عمود سرہ العزیز سے یہ روایت مشہور ہے کہ ایک دن میں حضرت شیخ باب فرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ دعا فرمائیں۔ امیر سرکب ظلم سے باز آ جائے (سرکب ایک امیر تھا جو اکثر فرغانہ پر چڑھائی کر دیتا تھا) حضرت شیخ باب اس وقت چولہے کے پاس

بود درویش درون کشتی ساخته از رخت مردم پُشتی  
ایک فقیر ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ کشتی کے مسافر اپنے اپنے سامان سے بیک  
لگائے ہوتے تھے۔

یا وہ شد ہمیان زر او خفتہ بود جملہ را جستہ او را یک نمود  
ایک شخص سویا ہوا تھا، اس کی سونے کی تحلیل گم ہو گئی۔ لوگوں کی تلاشی لی گئی۔ کسی نے  
فقیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فقیر کی پہنچی ہوئی گدڑی کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا۔  
کاندر میں کشتی درمیں گم شدست جملہ را جستیم نتوانی تو رست  
کہ اس کشتی میں ہمارے روپوں کی تحلیل گم ہو گئی ہے۔ ہم سب کی تلاشی لے چکے  
ہیں۔ آپ ہرگز نہیں چھوٹ سکتے۔

ذلق بیرون کن برہنہ ٹووز ذلق تاز تو فارغ شود اوہام غلط  
آپ گدڑی اتار دیجئے! تاکہ لوگوں کے شبہات آپ کی طرف سے ختم ہو جائیں۔  
گفت یارب مرغامت راخاں متین کردن فرمان در رساب  
آپ نے بارگاہِ اللہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار! کمینوں نے  
تیرے بندے پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو اپنا فرمان بھیج دے۔

چوں بدرد آمد دلی درویش زال سر بروں کردن ہر سو ماہیاں  
جب اس واقعہ سے فقیر کے دل کو تکلیف پہنچی تو یکا یک مچھلیاں پانی کے اوپر تیرنے لگیں۔  
صد ہزاراں ماہی از دریائے پہ در دہان ہر یکے ڈر چہ ڈر  
لاکھوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں موتیوں کو لے کر نکل پڑیں اور ہر ایک موٹی بڑا قیمتی تھا۔  
مچھلیوں کے منہ سے چند موٹی لے کر کشتی میں ڈال دیا اور ایک جست لگا کر اوپر  
چلے گئے اور ہوا کو کرسی بنا کر اس پر بیٹھ گئے۔ پھر کشتی والوں سے مخاطب ہوئے۔

گفت او کشتی شمارا حق مرا تابنا شد باشنا ڈر زد گدا  
آپ نے فرمایا اللہ مجھے کافی ہے وہ کشتی تمہیں کو مبارک ہوتا کہ چوری کرنے والا فقیر

تمہارے ساتھ نہ رہے۔  
حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات کو مثنوی شریف میں لکھ کر اپنا  
یہ عقیدہ کھلم کھلا ظاہر کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اولیائے کرام کو تصرف کا پورا اختیار عطا فرمایا ہے۔

پہنچے تو اس بڑھاپے کے عالم میں بے نفس نیسِ مشرکوں اور بت پرستوں سے چھاؤ کیا۔

ایک دن مشرکوں کا جنگ میں کچھ پلہ بھاری ہوا، یہاں تک کہ اسلامی فوج جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی خواجہ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک چکلی والا مرید تھا۔ محمد کا کو اس کا نام تھا۔ خواجہ نے میدان کارزار سے اس کو آواز دی۔ اے کا کو! پہنچ۔ لوگوں نے دیکھا کہ کاکو جھپٹتا ہوا پہنچا اور بڑی بے جگری کے ساتھ لڑنے لگا۔ یہاں تک کہ کافروں کا شکر اس کے مقابلہ کی تاب نہ لَا کر بھاگ کھڑا ہوا اور لشکرِ اسلام کو فتحِ نصیب ہوئی۔ ادھر تھیک اسی وقت لوگوں نے محمد کا کو کو چشت میں دیکھا کہ یہاں ایک چکلی کے پاس کو دیوار سے مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب اس کا سبب پوچھا تو وہی بات بیان کی جو سومنات کی جنگ میں لشکرِ اسلام کو پیش آئی تھی۔ (ترجمہ تبحات الالہ صفحہ ۵۶۰)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ امام یافتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عیین بن ہنار یعنی علیہ الرحمۃ والرضاون ایک دن ایک بازاری عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں عشاء کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور عشاء کے وقت خوب بناو سنگھار کر کے بیٹھ گئی۔ عشاء کے بعد آپ اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں دو رکعت نماز ادا کی اور پھر باہر نکل آئے۔ اسی وقت اس عورت کی حالت میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس نے اپنے پیشے سے توبہ کی اور جو کچھ مال و اسباب اس کے پاس تھا، سب سے ہاتھ اٹھا لیا۔ شیخ نے ایک درویش کیسا تھا اس کا نکاح کر دیا اور کہا دلیمہ کے لئے عصیدہ تیار کراؤ، لیکن اس کے لئے کھنڈ خریدنا۔

وہ زن فاحشہ جس امیر کی داشتہ تھی، اس کو لوگوں نے خبر کی کہ تیری داشتہ کا نکاح ایک درویش سے ہو گیا ہے اور دلیمہ کے کھانے میں عصیدہ بنا یا گیا ہے، مگر ان لوگوں کے پاس کھنڈ نہیں ہے۔ امیر نے از راہ شرارت شراب کی دو بوتلیں بھر کر شیخ کے پاس بھجوائیں اور کہلوایا کہ ہم اس کام سے بہت خوش ہوئے۔ نہ ہے کہ عصیدہ کے لئے آپ کے پاس کھنڈ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو کچھ میں بھیج رہا ہوں، اس کو عصیدہ میں ملا کر کھائیے!

امیر کا فرستادہ جب شیخ کے پاس پہنچا تو شیخ نے اس سے فرمایا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی عصیدہ تیار ہے۔ پھر ان بوتلوں میں سے ایک کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کو عصیدہ پر اٹھیل دیا۔ پھر دوسری بوتل بھی اس پر اٹھیل دی۔ پھر اس آنے والے سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تم بھی عصیدہ کھا کر جانا۔ جب اس آدمی نے عصیدہ کھایا تو ایسا

بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں میں جرایں پہنے ہوئے تھے اور ایک لوٹا آپ کے قریب رکھا ہوا تھا۔ آپ نے لوٹے پر ایک پاؤں مارا اور فرمایا کہ میں نے سرکب کو گرا دیا۔ سرکب اس وقت شہرِ فرغانہ کے دروازہ پر تھا۔ اسی دم گھوڑے سے گر گیا اور اس کی گردان ٹوٹ گئی۔

اور حضرت شیخ عموقدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ دعا فرمائیے! بارش ہو جائے! آپ نے دعا مانگی، خوب بارش ہوئی اور کتنی روز تک جاری رہی۔ پھر بستی کے بہت سے لوگ آئے اور عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ بارش ٹھہر جائے۔ اس لئے کہ ہمارے بہت سے مکان بارش سے گر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے کہنے پر دعا کی تو بارش ٹھہر گئی۔ (ترجمہ فتحات الانس صفحہ ۵۱۳)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد معشوق طوی علیہ الرحمۃ والرضوان اکثر قبا پہنچتے تھے۔ ایک قبا پہنچے ہوئے طوس کی جامع مسجد میں آگئے۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعظ کہہ رہے تھے۔ شیخ محمد معشوق نے اپنی قبائلی بند لگایا۔ بند باندھتے ہی شیخ ابوسعید خاموش ہو گئے۔ ان کا زور تقریر ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد شیخ ابوسعید نے کہا کہ اے سلطان زمانہ اور اے سرورِ دوراں! اپنی قبا کے بند کھول دیجے کیونکہ آپ نے بند لگا کر زمین و آسمان کے ساتوں طبق بند لگا دیئے ہیں اور میری زبان بھی بند کر دی ہے۔

(ترجمہ فتحات الانس صفحہ ۵۲۳)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابوابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۵۵ ہجری) کے والد کا شراب خانہ تھا۔ ایک دن موقع پا کر آپ اس شراب خانہ میں پہنچ گئے اور اندر سے دروازہ بند کر کے شراب کے میکے توڑنا شروع کر دیئے۔ ان کے باپ کو خبر ملی تو وہ شراب خانہ کی چھت پر چڑھ گئے اور بڑے غصہ میں ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کو مارنے کے لئے پھینکا تو وہ پتھر ہوا میں معلق ہو گیا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچ سکی۔ جب ان کے والد نے یہ حال دیکھا تو ان کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی۔

(ترجمہ فتحات الانس صفحہ ۵۵۹)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطان محمود غزنوی سومنات کی لڑائی کے لئے (ہندوستان) گئے ہوتے تھے، اس زمانے میں حضرت خواجہ ابو محمد بن ابو احمد سینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دکھائی دیا کہ تم کو سلطان مجاهد کی مدد کے لئے جانا چاہیئے۔ چنانچہ آپ ستر سال کی عمر میں چند درویشوں کے ساتھ سومنات کے لئے روانہ ہوئے۔ جب وہاں

بغیر گھی کے حریرہ نہیں کھا سکتا۔ کیا میں کھی فروش ہوں جو حریرہ کے لئے کھی بھی دوں۔ اس نے کہا میں تو بغیر گھی کے حریرہ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ نے اس شخص کو پانی کا برتن دیا اور فرمایا جاؤ سمندر سے پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کر لوں۔ جب وہ شخص پانی لے کر آیا تو برتن اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس میں سے کچھ پانی حریرہ میں ڈال دیا۔ حریرہ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا عمدہ گھی میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ (ترجمہ نفحات الانس صفحہ ۸۳۲)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نفحات الانس میں ان تمام واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ کھلم کھلا ظاہر کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عالم میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

## قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۶۳۱ ہجری)

آپ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر خلفاء اور ہندوستان کے عظیم القدر صوفیاء میں سے تھے اور بڑے مقبول بزرگ تھے۔ ترک دنیا اور فرقہ و فاقہ میں ممتاز تھے اور یادِ الہی میں بڑے مستزق اور محظی تھے اگر کوئی آپ سے ملنے کے لئے آتا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقت ہوتا اور آپ اپنے آپ میں آتے۔ اس کے بعد آنے والے کی طرف متوجہ ہوتے۔ اپنی یا آنے والے کی بات کہہ سن کر فرماتے کہ اب مجھے مخذلہ رکھو! اور پھر یادِ الہی میں مشغول ہو جاتے۔ اگر آپ کی کوئی اولاد فوت ہوتی تو اس وقت آپ کو خبر نہ ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خبر ہوتی۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۵۹)

منقول ہے کہ شیخ علی سکوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان پر صحبتِ احباب گرم تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں موجود تھے کہ اس محفل میں ایک پڑھنے والے نے حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر پڑھا۔

کشناگان خجیر تسلیم را

ہر زماں از غیب جان دیگرست

یعنی خجیر تسلیم و رضا کے شہیدوں کو ہر گھری غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس شعر سے ایک وجہ طاری ہوا اور چار دن رات اسی شعر سے عالم تحریر میں رہے اور پانچویں دن ربع الاول شریف کی چودھویں رات ۶۳۳ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۶۱)

گھی کھانے میں آیا کہ اس سے بہتر اس نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ عصیدہ کھا کر وہ شخص امیر کے پاس گیا اور یہ قصہ بیان کیا۔ تب امیر بھی شیخ کی خدمت میں آیا اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ (ترجمہ فتحات الانس صفحہ ۸۲۳)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالغیث مکنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۶۵۱ھ) ہجری) ایک دن اس ارادہ سے جنگل گئے کہ وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں۔ اپنے ساتھ اپنے گدھے کو بھی لے گئے اور لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ اسی دوران میں شیر نے ان کے گدھے کو پھاڑ ڈالا۔ جب آپ لکڑیاں جمع کر کے لائے تو دیکھا کہ شیر گدھے کو پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ آپ نے شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے میرے گدھے کو پھاڑ کر کھایا تواب میں اپنی لکڑیاں تمہاری پیٹھ پر لا دوں گا اور خدا کی قسم یہ کر کے رہوں گا۔ پس انہوں نے لکڑیوں کو شیر کی پیٹھ پر لا دا اور شہر کو چل دیئے۔ جب شہر کے پاس پہنچ گئے تو اس کی پیٹھ سے لکڑیاں اتار لیں اور شیر سے کہا، اب جہاں تیرا می چاہے وہاں چلا جا!

اور ایک دن ان کے گھر والوں نے ان سے عطر کی فرمائش کی۔ آپ عطر فروش کی دوکان پر گئے اور اس سے عطر طلب کیا۔ اس نے کہا میرے پاس عطر نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرے پاس عطر نہیں رہے گا۔ اسی وقت عطار کی دوکان سے سارا عطر غائب ہو گیا۔ (فتحات الانس صفحہ ۸۲۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص سمندر کے کنارے پر تھا۔ کافی رات ہو گئی اور وہ شہر عدن میں داخل نہ ہو سکا۔ اس لئے رات کو سمندر کے کنارے ہی پر رہا اس وقت اس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ تھا کہ یہاں کیک اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے حضرت شیخ ریحان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہیں۔ یہ شخص ان کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا۔ حضرت! شہر کے دروازے بند ہیں اور میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے حریرہ عطا فرمائیں۔ شیخ ریحان نے فرمایا تمہارا عجیب حال ہے کہ مجھ سے رات میں کھانا مانگ رہے ہو اور وہ بھی حریرہ، گویا تم نے یہ کچھ رکھا ہے کہ میں حریرہ پکاتا رہتا ہوں۔

یہ سن کر اس نے کہا حضرت! مجھے تو بس حریرہ ہی چاہیئے۔ میں آپ سے حریرہ لے کر رہوں گا۔ یہاں کیک اس نے دیکھا کہ گرم حریرہ کا ایک پیالہ موجود ہے، لیکن اس میں کمی نہیں تھا۔ اس نے کہا حضرت اس کے لئے کمی چاہیئے۔ شیخ نے فرمایا تو عجیب آدمی ہے کہ

الدین نے خادم سے فرمایا کہ کھانا اگر موجود ہو تو لے آؤ! سلطان نے کہا کہ بندہ کو غیب سے کھانا دیجئے۔ خواجہ قطب الدین نے آستین میں ہاتھ ڈال کر دوسفید گرم روغنی روٹیاں نکالیں اور سلطان شمس الدین کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ قاضی حمید الدین نے اس جگہ سے کہ جہاں وضو کیا تھا کچھ کچڑا اٹھا لی تو وہ حلوہ ہو گئی اور بادشاہ کو دے دی گئی۔

اس کے بعد قاضی حمید الدین نے شیخ سعد الدین سے فرمایا کہ پان بھی ہونا چاہیے۔ شیخ سعد الدین نے آستین میں ہاتھ ڈالا اور چھالیہ کھا چوتا لگا ہوا پان سلطان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ پان بھی عالمِ غیب سے تھا۔ سلطان شمس الدین نے کہا کہ آپ کی بارگاہ کا کتنا ہوں۔ اگر تمام لشکری یہ روئی اور حلوہ اور پان کھالیں تو بڑا اچھا ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی نے فرمایا کہ اپنے لشکریوں سے کہو کہ اپنے اپنے ہاتھ آسان کی طرف کر لیں۔ بادشاہ کے حکم کے بموجب پورے لشکرنے اپنے ہاتھ آسان کی طرف کر لئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی نے اپنی دونوں آستینیں جھاڑیں تو ہر شخص کے ہاتھ پر دو دروٹیاں پہنچ گئیں اور اس کچڑ سے حلوا پیدا ہوا۔ شیخ سعد الدین نے بھی اپنے ہاتھ جھاڑے تو ہر ایک کے ہاتھ پر چھالیہ کھا اور چوتا لگا ہوا پان پہنچا۔ شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی وجہ سے تبنوی کہتے ہیں۔ (سبع نابل شریف اردو صفحہ ۳۳۶)

ان واقعات سے قطب الاطقاب حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عملی طور پر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے طرح طرح کے تصرفات کی قوت بخشی ہے۔ یہاں تک کہ میں آستینیں جھاڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں غیب سے روٹیاں پہنچا دینے کی طاقت رکھتا ہوں اور آخری واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری (متوفی ۶۲۵ھجری) کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے کچڑ کو حلوہ بنانے پر قدرت ہے اور شیخ سعد الدین تبنوی کا یہ عقیدہ تھا کہ میں چھالیہ کے ساتھ چوتا اور کھا لگا ہوا پان غیب سے لانے کی طاقت رکھتا ہوں۔

## سلطان التارکین حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۷۷ھجری)

آپ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممتاز خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش کی صحیح تاریخ و سنته تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہو سکے۔ البتہ آپ نے فرمایا ہے کہ ”بعد از فتح دہلی اول مولود کہ درخاتہ مسلمان آمدہ منم“ یعنی فتح

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے پڑوں میں ایک بنیار ہتا تھا۔ شروع شروع میں آپ اس سے قرض لیتے تھے اور اس سے فرمادیتے کہ جب تمہارا قرض تمیں درہم تک ہو جائے تو اس سے زیادہ نہ دینا۔ جب آپ کو فتوحات حاصل ہوتیں تو آپ قرض ادا فرمادیتے۔ اس کے بعد آپ نے پختہ ارادہ فربالیا کہ کبھی قرض نہ لوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک روٹی آپ کے مصلحتی کے نیچے سے نکل آتی۔ اسی پر تمام گھروالے گزار اکر لیتے اور اسی لئے آپ کو کاکی کہتے ہیں کہ کاک افغانی زبان میں روٹی کو کہا جاتا ہے۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۲۰)

خواجہ امیر خورد کرمانی لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہم ملتان میں تشریف فرماتھے کہ اچانک کافروں کا لشکر ملتان کے قلعہ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا۔ ملتان کا والی ناصر الدین قباجہ ان بزرگوں کی خدمت میں آیا اور ان ملعونوں کے دفعہ کے لئے عرض کیا۔ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تیر قباجہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اسے دشمن کے لشکر کی جانب رات میں انہا دھند پھینک دینا۔ چنانچہ قباجہ نے ایسا ہی کیا۔ جب دن نکلا تو ایک بھی کافر وہاں نہ رہا تھا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۱)

خواجہ امیر خورد کرمانی اور تحریر فرماتے ہیں کہ ملک اختیار الدین ایک حاجب نے کچھ لفظ رقم بطور نذر ان قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کی، لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس بوریے کو جس پر آپ بیٹھے ہوتے تھے، اٹھایا اور ملک اختیار الدین کو دکھایا کہ بوریے کے نیچے ایک ندی چاندی کی بہہ رہی ہے۔ پھر فرمایا اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں تمہاری اس لائی رقم کی حاجت نہیں رکھتا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۰)

حضرت میر عبدالواحد بلگرای رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان شمس الدین امش شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ قاضی حمید الدین اور قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں حضرات وضو سے فارغ ہو کر تحریۃ الوضو ادا کر رہے تھے۔ جب سلطان شمس الدین نے قدم بوسی کی سعادت حاصل کر لی اور ادب سے بیٹھ کر تو بولے کہ بندہ بھوکا ہے۔ قاضی حمید

اس سے فرمایا ہم نے تجھ کو قید میں کر دیا۔

چنانچہ شیخ حمید الدین اور شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کی وفات کے بعد شیخ بہاؤ الدین کا یہ بیٹا اشائے سفر میں ایک سرکش کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اس سرکش نے ان کے بیٹے سے کہا کہ شیخ بہاؤ الدین کی میراث کا مال تمہیں بہت ملا ہے۔ اگر وہ تمام مال تم مجھے دو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو قید کر دیا۔ اس نے شیخ صدر الدین کو قید کرنے کا سارا واقعہ لکھا اور میراث سے اپنا حصہ طلب کیا۔ جب شیخ صدر الدین نے وہ مال بھیجا تو اس سرکش نے کہا کہ اب تم دوبارہ شیخ صدر الدین کو لکھو کہ وہ اپنے حصے میں سے بھی کچھ مال مجھے دیں تو اس وقت میں تمہیں چھوڑوں گا۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے بیٹے نے مجبوراً شیخ صدر الدین کو لکھا۔ شیخ صدر الدین نے اپنے مال کا بھی کچھ حصہ اس کو بھیجا۔ ایک مدت کے بعد ان کا یہ بیٹا قید سے چھوٹا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۶۷)

منقول ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ خواجہ گاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان کی مسجد اجمیر شریف میں امامت فرماتے تھے۔ جب آپ اجمیر تحریمہ کہتے تو ہر مقتدی کو عرشِ اعظم نظر آتا تھا۔ ہر مقتدی بزرگ اس کو اپنی کرامت سمجھتا تھا۔ ایک روز آپ مسجد میں موجود نہ تھے، اس لئے کسی دوسرے بزرگ کو امامت کرائی پڑی۔ اس روز کسی کو عرشِ اعظم نظر نہیں آیا تو یہ راز کھلا کر جلوہ عرشِ معلیٰ محض آپ کی بدولت نظر آتا تھا۔

امامت کی غرض سے آپ ناگور سے روزانہ اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز پڑھا کر بغیر کسی سواری کے ناگور چلے جاتے۔ پھر ظہر کے وقت اسی طرح اجمیر شریف آ کر نماز پڑھاتے اور بعد نمازِ عشاء پھر ناگور واپس جا کر رات کو اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوجاتے۔ (سلطان التارکین صفحہ ۱۲۷)

نوٹ: اجمیر شریف سے ناگور شریف کا فاصلہ ۱۶۵ کلومیٹر ہے۔

ان واقعات سے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

دہلی کے بعد پہلا بچہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ میں ہوں اور سلطان شہاب الدین غوری نے ۱۷۵ ہجری میں دہلی فتح کی تو آپ کے اس فرمان کے مطابق آپ کی پیدائش ۱۷۵ یا ۱۷۶ ہجری میں ہوئی۔

آپ کا سلسلہ نب پندرہ واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ احمد صوفی تھے جو اپنے زمانے کے جید عالم اور درویش کامل تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی اپنے زمانے کی رابعہ تھیں۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت اس زمانے میں میری والدہ سے بہتر اور بزرگ ہوتی تو میں اسی کے بطن سے پیدا ہوتا۔ یعنی آپ کی والدہ ماجدہ اپنے زمانے کی بہترین اور بزرگ ترین بی بی تھیں۔

آپ ترک دنیا اور فقر و فاقہ میں ممتاز تھے اور ولی کامل ہونے کے ساتھ اپنے زمانے کے فاضل اجل اور عالم بے بدل بھی تھے۔ عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں پر آپ کو بڑی قدرت حاصل تھی۔ قرآن و احادیث پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور مشائخ کی تصانیف پر آپ کو پورا عبور تھا۔ اپنی تصانیف میں آپ جگہ جگہ آیاتِ قرآنی، احادیث مبارکہ اور اقوال مشائخ تقلیل کرتے ہیں۔ آپ کی تصانیف اصول الطریقہ، رسالت السلوک اور چہار منزل اس بات کی شاہد ہیں، جن کے مطالعہ سے ناظرین آپ کے بے پناہ علم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

۲۷ ربیع الآخر ۱۷۶ ہجری یعنی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ اجیری علیہ الرحمۃ والرضوان کے وصال فرمانے کے ۳۲۳ سال بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ مزار مبارک ناگور شریف (صوبہ راجستان) میں ہے جو مریع امام وزیارت گاہ خاص و عام ہے۔  
(ماخوذ از سلطان التارکین)

سہروردی سلسلہ کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے ماہین ایک مسئلہ پر خط و کتابت ہو رہی تھی کہ اسی زمانے میں حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بیٹا ناگور آیا اور شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مسئلہ میں الجھ کیا اور دیر تک آپ سے بحث کرتا رہا۔ آخر آپ نے اسے دلائل شرعیہ سے خاموش کر دیا، مگر چونکہ اس نے آپ کو ناراض کر دیا تھا اور فضول باتوں سے آپ کے وقت کو ضائع کیا تھا، اس لئے آپ نے

ہے۔ حضرت شیخ اسی پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ دیکھ کر حسن قول کے دل میں خیال گزرا کہ یہ کیا تصوف ہے کہ عیش و عشرت کا سامان موجود ہے۔ فقیری تو گنج شکر کے یہاں ہے جہاں ایک بوریہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

شیخ بہاؤ الدین نے اپنے نور باطن سے حسن کے دل کی بات معلوم کر لی اور فرمایا کہ او بے ادب! کیا بھائی فرید الدین نے تجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ بے ادبی نہ کرنا اور تو پھر بھی نہ مانا۔ پھر شیخ نے چاہا کہ اسے اٹھا کر پھینک دیں لیکن اسی وقت میدانِ غیب سے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ ظاہر ہو گیا۔ لہذا شیخ نے درگزر سے کام لیا۔ دوسری بار پھر اسے چاہا کہ سزادیں تو اس بار بھی وہی ہاتھ آڑے آ گیا۔ اس کے بعد تیری مرتبہ پھر شیخ نے اسے زک دینے کا ارادہ کیا تو وہ ہاتھ پھر درمیان میں آ گیا۔ پھر اسی ہاتھ سے آواز آئی کہ اے حسن! تو اس ہاتھ کو پہچانتا ہے؟ حسن نے کہا اس ہاتھ کے قربان۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ پختا۔ (برکات الصالحین حصہ دوم صفحہ ۸۳)

مصنف خنزۃ الاصفیا تحریر فرماتے ہیں کہ ایک قطعہ زمین حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذاتی زر خرید تھا۔ کسی شخص نے حاکم دیپال پور کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ زمین میری ہے۔ حاکم مذکور نے حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جواب دھی کے لئے طلب کیا تو حضرت نے کہلا بھیجا کہ اس بارے میں شہروالوں سے معلومات کرو! شہروالے خوب جانتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ حاکم مذکور نے جواب دیا کہ اس مقدمہ کا اس طرح لاپرواں سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود آئیں یا اپنا وکیل بھیج کر مقدمہ کی پیروی کرائیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ بغیر سند اور گواہ کے یہ معاملہ حل نہ ہو سکے گا۔

حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس شکستہ سر (گردن ٹوٹے ہوئے) سے کہہ دو کہ نہ ہمارے پاس سند ہے اور نہ گواہ ہیں۔ ہمارے کہنے کا اعتبار نہیں ہے تو خود اس زمین سے پوچھ لیا جائے۔ وہ خود بتا دے گی۔ یہ سن کر حاکم مذکور متبحر ہوا اور حضرت کی بات کا امتحان کرنے کے لئے اس قطعہ زمین پر پہنچا اور اس کے ساتھ پاک پتن کے باشندوں کا زبردست ہجوم بھی تھا۔ حاکم نے مدی سے کہا کہ زمین سے پوچھ تو کس کی ملکیت ہے؟ جب مدی نے زمین سے پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ تو کچھ جواب نہ آیا۔ پھر حضرت کے ایک خادم نے بلند آواز سے کہا کہ اے زمین! فرید الدین گنج شکر کا حکم ہے کہ چلتا کہ تو کس کی ملک ہے؟ اسی وقت زمین سے آواز آئی کہ میں حضرت خوجہ فرید الدین کی

## شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۱۷۰ هجری)

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک حسن نامی قول تھا جسے اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لئے رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت موصوف سے عرض کیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، کچھ عنایت فرمائیے! یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے کیا دوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ حسن قول نے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ ایسٹ اٹھا لے۔ یہ سن کر حضرت کچھ خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ اٹھا لے۔ حسن نے وہاں پڑی ہوئی ایک ایسٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ اسی وقت سونے کی بن گئی۔

اس کے بعد اس نے عرض کیا کیا دوسرا بھی اٹھالوں؟ آپ نے فرمایا بھی کافی ہے۔ وہ اس پر بھی نہ مانا اور پھر دوسرا ایسٹ کا مطالبہ کیا۔ اس کا اصرار دیکھ کر حضرت نے فرمایا اسے بھی اٹھا لے، مگر پھر کچھ نہ کہنا۔ اس نے کہا بہتر ہے اور دوسرا ایسٹ بھی جیسے ہی اٹھائی دو اسی وقت سونے کی بن گئی۔ اس نے پھر کہا حضرت تیری بھی اٹھالوں؟ فرمایا بھی تو تو نے اقرار کیا تھا کہ پھر کچھ نہ کہوں گا اور پھر بھی سوال کرتا ہے؟ حسن نے عرض کیا کہ ذرا سے کہہ دینے میں آپ کا کیا حرج ہے؟ اس پر آپ نے نہ کر فرمایا کہ اچھا ایک اور اٹھا لے۔ لہذا اس نے تیری ایسٹ بھی اٹھائی، جو ہاتھ لگاتے ہی سونے کی بن گئی اور وہ تینوں ایسٹیں لے گیا اور بڑی دھوم سے اپنی لڑکی کی شادی کی۔ (برکات الصالحین حصہ دوم صفحہ ۸۱)

مردی ہے کہ یہی حسن قول جس کا ذکر اوپر کی حکایت میں گزرا، اس نے ایک روز حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت تعریف سنی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ان کی زیارت کروں۔ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جا ان کی زیارت کر مگر کچھ بے ادبی نہ کرنا۔ اس کے بعد حسن قول ملتان کو روانہ ہو گیا۔ (حضرت بہاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چہاں تشریف رکھتے) جب حضرت بہاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت ایک عالی شان مکان میں تشریف فرمائیں، چہاں عمدہ عمدہ فرش بچھے ہوئے ہیں اور ایک جزاً پنک بھی بچھا ہوا ہے جو ختمی بچھوئی اور بہترین نکیہ سے آراستے

## محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال ۸۰۸ ھجری)

آپ ہندوستان کے مشہور ترین بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ پہلے سمنان کے بادشاہ تھے۔ جواب معمولی قصبه کی حیثیت سے ایران کی حکومت میں شامل ہے۔ آپ نے دس سال حکومت کرنے کے بعد تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور ہندوستان کے بنگال علاقہ میں آ کر لکھنؤتی (پنڈوہ شریف) میں سلطان المرشدین حضرت شیخ علاء الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ پھر پیر و مرشد کے حکم سے کچھو چھوڑ شریف کو اپنی مستقل قیام گاہ قرار دی جو صوبہ یوپی کے مشہور ضلع فیض آباد میں واقع ہے۔ وہیں آپ کا مزار مبارک ہے، جہاں ہمیشہ زائرین کا ہجوم رہتا ہے اور آسیب زدہ شفایاں ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا سید نعیم اشرف صاحب جائی حضرت کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جمعہ کی نماز کے لئے سنجھوںی تشریف لے گئے جو خانقاہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کی دوری پر آج بھی ایک دریان گاؤں کی شکل میں ہے۔ بعد نماز جمعہ وہاں کے ایک ملائے آپ سے مسئلہ جبر و قدر پر گفتگو کی اور کہا کہ انسان اپنے فعل کا مختار ہے یا نہیں؟ اگر مختار مانا جائے تو یہ عقیدہ فرقہ قدریہ کا ہے اور اگر وہ اپنے فعل کا مختار نہیں ہے تو یہ مذہب فرقہ جبریہ کا ہے اور یہ دونوں نظریے اہلسنت والجماعت کے نزدیک غلط ہیں۔ تو ملا نے کہا کہ اب ان دونوں کے درمیان وہ کون سی راہ ہے جس پر ہم اپنے عقیدہ کی بنیاد رکھیں۔

حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ بہت نازک ہے اور آئندہ متكلمین نے اس میں بڑی بڑی موشکافیاں کی ہیں۔ چنانچہ امام فخر الاسلام نے کتاب بزوی میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ باعتبار ظاہر (صورت) اختیار ہے اور باعتبار حقیقت (معنی) جبر ہے۔ ملا کے غرور علم نے اس جواب کو تسلیم نہ کیا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت نے اس مختصر جملے میں دریا کو زہ میں بھر دیا تھا۔

بحث طویل ہو گئی۔ ملامی حضرت کی گفتگو سننے اور سمجھنے کی بجائے اپنا زورِ علم دکھانے لگے اور اپنی علمی برتری کی ہاںک لگانے لگے اور اثنائے گفتگو میں ایک بے ادبی کلمہ بھی کہہ بیشکے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ ملا بھی چپ ہو جاتے تو خیر تھی، مگر انہوں نے پھر بولنا چاہا جس سے حضرت کو جلال آگیا اور فرمایا۔ ”ملا ابھی تک تیری زبان چلتی ہے۔“ ابھی

ملکیت ہوں۔ یہ سن کر مدعا شرمندہ ہوا اور حاکم بھی حرمت میں پڑ گیا۔ واپس ہوتے ہوئے حاکم نہ کور کی گھوڑی کا قدم الجھ گیا جس کی وجہ سے وہ منہ کے مل گر پڑا اور اس کی گردان ٹوٹ گئی اور حضرت گنج شکر کا ارشاد شکستہ سر صحیح ہوا۔ (برکات الصالحین حصہ دوم صفحہ ۸۲)

اور مروی ہے کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طویل سفر سے واپس ہو کر ملتان پہنچ تو حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ سے دریافت فرمایا کہاں تک ترقی کر لی؟ جواب دیا کہ اگر آپ کی کرسی کو اشارہ کر دوں تو وہ مع آپ کے ہوا میں اٹنے لگے۔ یہ کہنا تھا کہ کرسی نے بلند ہونا شروع کیا تو حضرت زکریا اسے ہاتھ سے دبا کر نیچے لے آئے۔

(سوانح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ ۵۲)

اور مؤلف خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنج شکر مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ راست میں جب پاک پتن پہنچا تو حضرت خوجہ صاحب نے دریافت فرمایا کہ اونٹوں پر کیا ہے؟ سوداگر نے بطور تفسیر جواب دیا کہ نمک ہے۔ یہ سن کر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بہتر نمک ہی ہو گا۔ جب سوداگر منزل مقصود پر پہنچا تو اونٹوں پر شکر کی بجائے نمک ہی ملا۔ چنانچہ اسی وقت واپس ہوا اور خوجہ علیہ الرحمہ سے معافی مانگنے لگا۔ خوجہ صاحب نے فرمایا کہ شکر تھی تو شکر ہی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ نمک پھر شکر بن گیا۔ پیرم خاں نے اس واقعہ کو منظوم بھی کیا تھا جس کا ایک شعر یہ ہے۔

کان نمک، جہاں شکر شیخ بحر و بر

آں کز شکر نمک کند و از نمک شکر

یعنی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نمک کی کان، شکر کا جہاں اور خشکی و تری کے شیخ ہیں، جو شکر سے نمک بنادیتے ہیں اور نمک سے شکر۔ (برکات الصالحین حصہ اول صفحہ ۸۵)

شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے عالم میں تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

یاد او گر منوں جانت نہ د

ہر دو عالم زیر فرمانت نہ د

سے دنیا کہنے لگی۔ آپ کے جہانگیر ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ قلندر نے ایک اور سوال کیا  
حضرت کو جلال آگیا فرمایا ثبوت یہی ہے کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی۔ حضرت کے  
ایسا فرماتے ہی قلندر زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۲۷)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت پنج کی ایک مسجد میں اقامت فرماتھے۔ آپ کے اصحاب و  
خدماء اور دیگر بہت سے درویش و فقراء بھی موجود تھے۔ اثنائے گفتگو میں اچانک آپ نے اپنا  
عصاء مبارک اٹھایا اور بڑے غصہ سے مسجد کی دیوار پر مارنے لگے۔ لوگ سخت متعجب ہوئے  
کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عجیب واقعہ  
کے متعلق آپ سے پوچھا۔ پہلے تو آپ خاموش رہے پھر چند منٹ کے بعد فرمایا کہ موصل  
میں ہمارا ایک روئی مرید میدانِ جنگ میں مصروف پیکار تھا۔ اس نے مجھ سے مدد چاہی اور  
مجھے یاد کیا۔ میں اس کی دشگیری کر رہا تھا۔ چنانچہ حق بارک و تعالیٰ نے جس لشکر کے ساتھ وہ  
تھا اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں نے وہ تاریخ لکھ لی۔ تھوڑے دنوں میں ایک زخمی  
سپاہی اسی طرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی تاریخ پر جنگ ہوئی تھی اور ولادت  
جهانگیری کے تصرف سے اسی لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۸۲)

ان واقعات سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح  
طور پر ثابت کر دیا کہ خداۓ عزوجل نے مجھے عالم میں تصرف کی بے پناہ قدرت بخشی ہے۔

## حضرت خواجہ باقی باللہ کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ وصال ۱۰۱۳ ہجری)

آپ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سہنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔  
آپ کامل میں ۱۷۹ ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام بھی جلیل  
القدر اور بزرگ تھے۔ یوں تو آپ اویسی المشرب تھے۔ آپ کی باطنی تربیت براہ  
راست سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسالم اور خواجہ خواجگان حضرت بہاؤ الدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان  
کی روحانیت سے ہوئی، لیکن بظاہر آپ نے ماوراء الہرہ اور ہندوستان کے سینکڑوں مشائخ  
سے اکتساب فیض کیا۔ آخر میں حضرت خواجہ املکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مجاز طریقت  
ہوئے۔ آپ شریعت و طریقت کے ماہتاب تھے۔ آپ کا مزار مبارک دہلی میں زیارت  
گاہ خلائق ہے۔ (ماخوذ از حاشیہ انفاس العارفین اردو صفحہ ۵۸)

حضرت نے پورا جملہ بھی ادا نہیں فرمایا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل پڑی۔ پوری کی پوری محفل جلالی جہانگیری کو دیکھ کر لرز گئی اور آپ کے رعب نے ان کی زبانیں بند کر دیں اور ملا جی شدتِ تکلیف سے تڑپنے لگے۔ یہ خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کی بوڑھی ماں گرتی پڑتی مسجد میں پہنچیں اور حضرت کے قدم مبارک پر لوٹنے لگیں اور اس قدر روئیں کہ تمام لوگ اس کے حال پر تأسف کرنے لگے۔ مگر کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ حضرت سے سفارش کرتا۔ اس لئے کہ جلال کی یہ شدت آپ کے ساتھیوں نے کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔

بڑھیا روتی تھی اور کہتی تھی کہ سر کاری یہی ایک اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا اور میری امیدوں کا مرکز ہے۔ حضور معاف فرمادیں اور دعا دیں کہ اس کی زبان درست ہو جائے اور شدت بے اختیاری میں اس نے کہا کہ ”یا میر پوت بھیک دے۔“ اس کے اس جملے میں ترجمِ سیادت کو اپیل کی اور آپ کو اس کے حال پر حرم آ گیا اور فرمایا خداوند! اس کی زبان درست ہو جائے۔ مگر لکنت باقی رہے۔ چنانچہ ملا کی زبان درست ہو گئی، مگر زندگی بھر کے لئے ہٹکتے ہو گئے۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۲۱)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت کا ایک مرید جو ہر خراسانی تھا، جو حضور کے ساتھ سفر و حضر میں رہتا تھا۔ اسے فسادِ خون کی شکایت ہو گئی اور سارا جسم خراب ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ خانقاہ میں میری موجودگی اہل خانقاہ کی تکلیف کا سبب ہو گئی اور کہیں میرے قرب کا خراب اثر برادران طریقت کی صحت پر بھی نہ پڑے۔ یہ سوچ کر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کہیں باہر چلا جاؤں اور اس نے سامان سفر درست کر لیا، لیکن خانقاہ کی جدائی اور حضرت کے فیضِ صحبت سے محرومی کا اسے بڑا قلق ہوا اور رونے لگا۔ لوگوں نے حضرت سے جا کر اس کے ضطرب اور بے چینی کا ذکر کیا۔ آپ نے مریض کو بلا یا اور اسے تسلی و تشفي دی۔ پھر ایک پیالہ پانی منگا کر اس میں اپنا العاب دہن (تحکوک) ڈال دیا اور فرمایا کہ اس پانی کو اپنے جسم پر لگانا۔ تھوڑے دن بھی نہ گزرے تھے کہ جو ہر نے شفا پائی اور تند درست ہو گیا۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۲۲)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانقاہ میں علی قلندر نام کا ایک فقیر قلندر وہ کی بڑی جماعت لے کر آیا اور حضرت سے پوچھا کہ آپ اپنے کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ علی قلندر نے پھر پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے پیر نے اس خطاب سے سرفراز فرمایا۔ وہ خود کہتے تھے۔ ان کے کہنے

کے ماتھے پر بیل پڑ گئے اور غصہ کے عالم میں قریب پڑے ہوئے ایک دھاگہ کو اٹھا کر قوت کے ساتھ اس میں گردہ لگادی۔ شیخ رفیع الدین محمد جو حضرت خواجہ (کی خدمت میں رہتے تھے اور ان) کے مزاج شناس تھے۔ انہوں نے اس دھاگہ کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ چند روز بعد شیخ احمد سرہندی قبض میں بیٹلا ہو گئے اور اس کا سبب تلاش کرنے لگے۔

جب اصل حقیقت ان پر واضح ہوئی تو وہ دہلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ کے احباب سے اس بارے میں سفارش کی درخواست کی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا اور ان لوگوں نے کہا ہم خواجہ کی مرضی کے خلاف کسی سفارش کی جرأت نہیں کر سکتے۔ البتہ حضرت خواجہ کے محبوب شیخ رفیع الدین جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ احمد نے ان کی طرف رجوع کیا۔ شیخ رفیع الدین نے اس بات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خلوت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور کافی بات چیت کرنے کے بعد ان کی نفرت و غصب کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کیا کروں؟ وہ دھاگہ ہی گم ہو گیا ہے۔ شیخ رفیع الدین نے اسی لمحہ وہی دھاگہ پیش خدمت کر دیا۔ حضرت خواجہ نے اس کی گردہ کھولی تو اسی وقت شیخ احمد سرہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور گوہر مقصود حاصل ہو گیا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۳۵۵)

اس واقعہ سے بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اپنے تصرف کے بارے میں صاف واضح ہے۔

## حضرت خواجہ خورد فرزند حضرت خواجہ باقی باللہ کا عقیدہ

(علیہما الرحمۃ والرضوان)

آپ کا اصل نام خواجہ عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اس لئے خواجہ خود کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور اپنے والد گرامی قبلہ کے نقش قدم پر کابندر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم دونوں بھائی حضرت خواجہ خورد کی خدمت میں حاضر تھے کہ ان پر بھوک کا غلبہ ہوا جس کے سبب وہ سبق پڑھانے کے قابل نہ رہے۔ اپنے گھر والوں سے پوچھا کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بچوں میں سے کسی بچے کے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ باقی باللہ کے یہاں چند مہماں آئے اور آپ کی خانقاہ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت مہماںوں کی ضیافت کے لئے فکر مند ہوئے اور خادم سے کھانے کی چیز تلاش کروانے لگے۔ اتفاقاً ایک نابالائی جس کی دوکان آپ کی خانقاہ کے قریب تھی، وہ آپ کی ضرورت پر مطلع ہوا تو فوراً بہترین قسم کی رومنیاں اور پر تکلف طریقے سے مرغن نہاری بنا کر حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ ایسے وقت میں نابالائی کی اس پیشکش پر آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فرمایا۔ بخواہ چمی خواہی (یعنی جو کچھ مانگنا ہو مانگ لے) نابالائی نے عرض کیا کہ مرامش خود سازید (یعنی مجھ کو اپنی طرح بنادیں) آپ نے فرمایا تو اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی اور چیز مانگ لے، مگر نابالائی اسی بات کا اصرار کرتا رہا کہ نہیں حضور! بس مجھے اپنی طرح بنادیں۔

جب اس نے بہت زیادہ عاجزی کی تو آخر حضرت خواجہ مجبور ہو کر اس کو اپنے مجرے میں لے گئے اور اپنے جیسا ہونے کا اثر اس کے اوپر ڈالا۔ جب مجرہ سے باہر تشریف لائے تو حضرت خواجہ اور نابالائی کی شکل و صورت، لباس و قد اور وضع قطع میں بال برابر فرق نہیں تھا۔ لوگوں کو امتیاز کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ اس میں خواجہ کون ہیں اور نابالائی کون ہے۔ البتہ اس قدر فرق تھا کہ حضرت خواجہ ہوش میں تھے اور نابالائی مدد ہوش و بے خود تھا۔ (اس عجیب و غریب واقعہ کی شہرت ہوئی تو دور و نزدیک سے دیکھنے کے لئے آنے والوں کا تانتا بندھ گیا) یہاں تک کہ تین روز کے بعد نابالائی کا انتقال ہو گیا اور حضرت خواجہ نے نابالائی سے جو پہلے فرمایا تھا کہ تو میری حالت کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ حرف صحیح ہوا۔ (تفسیر عزیز پارہ عم صفحہ ۲۲۵)

نابالائی کو شکل و صورت اور وضع قطع میں اپنی طرح بنا کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ عملًا ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی زبردست قوت عطا فرمائی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم نے فرمایا کہ مجد و الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی سے (ان کے پیر و مرشد) حضرت خواجہ باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت ایک ناگوار بات سرزد ہوئی۔ کہنے والے نے وہ بات جوں کی توں حضرت خواجہ کی خدمت میں بیان کر ڈالی۔ یہ سنتے ہی ان

## حضرت محمد معصوم بن مجدد الف ثانی کا عقیدہ

(علیہما الرحمۃ والرضوان)

آپ نقشبندی سلسلہ کے امام ہیں۔ اپنے والد گرامی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی سے اکتاب فیض اور سلسلہ کیا۔

آپ پیدائشی ولی تھے، ماہ رمضان میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ تین سال کی عمر میں کلمہ توحید بیان کیا کرتے تھے، صرف تین ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور سترہ سال کی عمر میں علوم ظاہری اور باطنی کے حصول کی تکمیل فرمائی تھی۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۸۱۳)

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک خلیفہ خوجہ محمد صدیق گھوڑے پر سوار سفر کر رہے تھے۔ گھوڑا بدکا تو آپ گر گئے مگر پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑنے لگا۔ انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تو اپنے مرشد سے امداد مانگی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ گھوڑے کو روک لیا ہے اور مجھے اس پر دوبارہ سوار کر دیا ہے اور یہی شیخ محمد صدیق دریا میں گر گئے۔ تیرنا نہیں جانتے تھے۔ ڈوبنے لگ گئے۔ آپ کو مدد کے لئے پکارا، آپ ”تشریف لائے ہاتھ پکڑا اور ڈوبنے سے بچالیا۔

اور ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی سرائے میں تشریف فرماتے۔ آپ کا ہاتھ مبارک اور آستین بغل تک تر ہو گئے۔ حاضرین حیران ہوئے اور آپ سے سبب پوچھا۔ حضرت نے فرمایا ایک مرید تاجر کشتی سوار تھا۔ وہ ڈوبنے لگ گئی تو اس نے مدد کے لئے پکارا۔ میں نے اسے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اس لئے یہ آستین اور ہاتھ تر ہو گئے ہیں۔ یہ تاجر ایک دن کے بعد سرہند پہنچا اور اس واقعہ کی حضرت کے ارشاد کے مطابق اطلاع دی۔

آپ کے دور میں ایک جادوگر مجوہ کا بڑا چرچا ہوا کہ وہ آگ جلا کر خود اور اپنے عقیدت مندوں کو آگ میں لے جاتا ہے۔ آگ انہیں نہیں جلاتی۔ لوگ اس کی وجہ سے قتلہ میں بنتا ہو گئے۔ حضرت نے بہت زیادہ آگ جلانے کا حکم دیا۔ پھر ایک مرید کو اس میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ وہ ذکر کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو گیا۔ آگ گلزار ہو گئی اور کافر مجوہ بہوت ہو گیا۔ (جامع کرامات اولیاء اردو صفحہ ۸۱۳)

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں

لئے تھوڑا سا کھانا پکایا ہے۔ فرمایا اس میں سے تھوڑا سا لے آؤ۔ چنانچہ پیالی میں بہت تھوڑا کھانا لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھونے اور حاضرین سے کہا آئیے! مل کر کھائیں۔ سب کو کافی ہے۔ سب لوگ تجھ میں آ گئے۔ ہم لوگوں کو دوسرے انداز میں دوبارہ اشارہ کیا۔ ہم چلے گئے اور ہم تینوں نے مل کر کھایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور پیالی میں پھر بھی کچھ فتح رہا جو بھی کے لئے بھیج دیا گیا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۶۱)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ ایک شخص حضرت خواجہ خورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بادشاہ مجھے ایک مہم پر بھیج رہا ہے۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور میں اس بار جنگ سے خالی ہوں، مگر جانے سے انکار بھی کرنے کی محنجائش نہیں۔ آپ توجہ فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹھیل جائے۔ آپ نے خوش طبعی کے طور پر فرمایا کچھ نقدی پیش کروتا کہ ہمارا دل تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اتفاقاً اس وقت اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ دوستوں سے بھی اسے کچھ نہ مل سکا۔ کمزور سے لٹکا ہوا فخر گردی رکھ کر دس روپے حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔

آپ نے میعاد مقرر فرمادی اور فرمایا کہ فلاں دن جنگ لڑو۔ دشمن کی کثرت اور دوستوں کی قلت سے خوف مت کھاؤ! اپنی جگہ پر مستحکم رہا اور پھر مجھے فرمایا کہ جب مقررہ تاریخ آئے تو مجھے خبر کرنا۔ جب وہ وقت آیا میں نے یاد دلایا۔ جھرے میں اکیلے بیٹھے گئے اور مجھے دروازہ پر بھا دیا کہ کوئی شخص خلل انداز نہ ہو۔ کچھ دیر بعد خوش ہو کر باہر نکلے اور فرمایا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوست بہت ہی کم۔ پہلے جملے میں دوستوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، مگر وہ عزیز شکست سے گھبرا نہیں۔ نہ ہی اپنی جگہ سے اکڑا۔ ہم بھی اس حالت میں وہاں پہنچ گئے۔ الحمد للہ فتح نصیب ہوئی۔ دشمن کافی تعداد میں قتل ہوئے اور باقی ماندہ لشکرنے شکست کو غیمت جاتا۔ کافی عرصہ بعد اس عزیز کا خط پہنچا، جس میں یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ بطور نذر رانہ اس نے بہت سامال بھیجا، لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔ (ترجمہ انفاس العارفین صفحہ ۶۱)

ان واقعات سے حضرت خواجہ خورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ عملی طور پر ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں تصرف کی قدرت بخشی ہے۔

مرشد بھی ہوئے) دیوی شریف سے آپ کو لکھنوا لے آئے اور تعلیم کا سلسلہ بدستور قائم رکھا۔ بعض کتابیں آپ نے حضرت بلند شاہ صاحب قدس سرہ سے پڑھیں اور خود حضرت سید خادم علی شاہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے فارغ التحصیل شاگرد تھے۔ آپ کو نہایت دلجوئی سے پڑھایا۔

لیکن کسی مستند روایت سے بصراحت یہ نہیں معلوم ہوا کہ تعلیم کا آخری نتیجہ کیا ہوا اور بظاہر آپ نے کہاں تک پڑھا کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے فراغ حاصل کیا۔ بعض کا قول ہے کہ کتب دریہ قریب اختتام تھیں کہ جوش عشق نے بے قرار کیا تو سلسلہ تعلیم منقطع فرمایا کہ آپ نے ملک عرب کی سیاحت کا قصد کیا بلکہ بعض مسٹر شدین کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ نے صرف چند ابتدائی کتابیں پڑھ کر تعلقاتِ دنیا سے احتراز فرمایا اور ۱۲۵۳ھجری میں حرمن طہین کی حاضری کے شوق میں وہاں کا پاپیادہ سفر کیا، لیکن بعض حالات اور اکثر ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو علم و ادب میں عبور اور تفسیر و حدیث میں کافی دستگاہ تھی۔

آپ نے جمازِ مقدس کا تین بار سفر کیا اور ہر مرتبہ کے سفر میں کئی کئی سال کے بعد واپس آئے اس طرح آپ نے کل سات یا بروایتِ دیگر گیارہ حج کئے۔ زندگی بھر مجرد رہے۔ کبھی نکاح نہیں کیا اور حج کے پہلے ہی سفر میں آپ نے عام لباس کو ترک کر دیا۔ پھر ہمیشہ احرام پوش رہے۔ زرد رنگ کی بغیر سلی ہوئی ایک لٹگی پہننے رہے اور اسی رنگ کی ایک دوسری لٹگی اوڑھتے۔ نہایت ہی سادہ فقیرانہ زندگی گزاری۔ ۱۳۲۳ھجری میں وفات ہوئی۔ دیوی شریف ضلع بارہ بنکی (یوپی) میں آپ کا مزار مبارک مرجمع انعام اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ (ماخوذ از سعی الحارث فی ریاضین الوارث)

حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بیان فرمایا کہ ایک روز کے معظمه میں ہم غارِ ثور کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نہایت دردناک آواز سے رو رہی ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ ابھی اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ ہم نے اس کو صبر کی ہدایت کی تو اس نے کہا حکیم صاحب! صبر اس دیرانہ میں کہاں ملے گا اور نہ میرے پاس پیسہ ہے جو میں خرید لوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی دوا ہو تو اللہ کی راہ پر اس کو کھلا دو کہ زندہ ہو جائے۔ یہی

ایک ناپینا حاضر ہو کر طالب دعا ہوا تاکہ اس کی نظر واپس مل جائے۔ آپ نے اپنا تھوڑ  
مبارک لے کر اس کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا گھر جا کر آنکھیں کھولنا۔ اس نے آپ کے  
فرمانے کے مطابق کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں روشنی آگئی۔

اور آپ کی مجلس میں ذکر ہوا کہ فلاں رافضی حکم کھلا حضرات شیخین کریمین (یعنی  
صلیتی اکبر و فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو گالی بکتا ہے۔ حضرت یہ سنتے ہی غضبان ک  
ہو گئے۔ آپ کے سامنے ایک تربوز پڑا ہوا تھا۔ آپ نے چھری لے کر فرمایا اس خبیب کو  
ذبح کر دیا۔ آپ نے جس وقت چھری اس تربوز پر چلانی اسی وقت وہ رافضی مر گیا۔

(جامع کرامات اولیاء صفحہ ۸۱۵)

حضرت محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا  
کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں طرح طرح کے تصرفات کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

## عاشق الہی حضرت حاجی وارث علی شاہ کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - متوفی ۱۳۲۳ ہجری)

آپ ہندوستان کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نیشاپور  
کے ذی شرف اور صاحب اختصاص سادات سے تھے۔ سید اشرف ابوطالب نیشاپور سے  
ہندوستان آ کر کنستور ضلع بارہ بکنی میں مقیم ہوئے۔ آپ کی آنکھوں پشت میں سید  
عبدالاحد علیہ الرحمہ ۱۱۲۷ ہجری میں کنستور سے دیوی شریف چلے آئے۔ یہیں حضرت  
حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۳۲۳ ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد  
گرامی کا نام سید قربان علی تھا اور والدہ محترمہ کا نام سیدہ بی بی سکینہ عرف چاندن بی بی  
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا۔

آپ کی عمر دو سال سے کچھ زیادہ تھی کہ شفیق باب کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور پھر تین  
سال کی عمر میں جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی دادی نے آپ کی پرورش  
فرمائی۔ پانچ سال کی عمر میں آپ کی تعلیم شروع ہوئی۔ حضرت امیر علی شاہ سے دو سال  
میں حفظ قرآن مکمل کیا اور مولوی امام علی ساکن ستر کھ سے درس نظامیہ کی ابتدائی کتابیں  
آپ پڑھ رہے تھے کہ سات آٹھ یا دس سال کی عمر میں آپ کی دادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا  
تو آپ کے بہنوئی حضرت حاجی سید خادم علی شاہ قادری چشتی (جو بعد میں آپ کے

## علم غیب

علم غیب ان باتوں کے جانے کو کہتے ہیں، جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکیں۔ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ قوْلُ جَمِهُورِ الْمُفَسِّرِينَ الْغَيْبُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ غَايَةً عَنِ الْحَاسِةٍ۔ (تفیر کبیر جلد اصفہان ۲۷)

## انبیاء کرام کے عقیدے

### حضرت پیدا عالم کا عقیدہ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - وصال الاجری مطابق ۶۳۲ عیسوی)

حضرت ﷺ کا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا اسے جانے کے لئے مندرجہ ذیل حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا۔  
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ  
بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ  
حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

ترجمہ: ایک بار حضرت ﷺ ہم لوگوں (کے مجمع) میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ جتنی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

(بخاری شریف جلد اصفہان ۲۵۳)

اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ نے فرمایا۔  
إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَّلُ  
مُلْكُهَا مَازِوَى لِي مِنْهَا۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین سمیت دی تو میں نے مشرق سے مغرب

میرا ایک لڑکا ہے۔ ہم نے لڑکے کے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر مٹھندا پانی چھڑک دیا تو اس نے آنکھ کھول دی اور بات کرنے لگا۔ بڑھیا تو جوشِ محبت میں اس سے لپٹ گئی اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ شاید اس کو سکتہ ہو گیا تھا۔ (ریاضین الوارث صفحہ ۲۷)

اور ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ مولوی محمد بیجی صاحب داراثی وکیل و رئیس عظیم آباد (پٹنہ) جو حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے مخلص مرید تھے۔ حضرت نے ان کو وضع دار کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اس نے کہ مولوی صاحب موصوف جو طریقہ اختیار کرتے اس پر بہر حال بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے۔ یہاں تک کہ کامک میلہ میں جس تاریخ کو وہ پہلی مرتبہ آئے تھے، اسی تاریخ کو وہ ہیشہ حاضر ہوتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی لڑکی ہیضہ کی بیماری میں بچتا تھی اور حاضری کی تاریخ آگئی۔ تو مولوی صاحب لڑکی کو اسی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر دیوبنی شریف چلے آئے۔ جس کے دوسرا روز مریضہ کے ڈاکٹر اسد علی خاں کا تار آیا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر حضرت کو پہنچی تو مولوی صاحب کو بلا کر فرمایا "مولوی صاحب! تم نے تو اپنی وضع داری دکھا دی لیکن اکثر مریض کو سکتہ ہو جاتا ہے اور تھار دار سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے۔ اس وقت حاضرین نے اس کا خیال نہیں کیا کہ اس ارشاد کے پردہ میں حضرت نے کیا تصرف فرمایا۔ مگر تیرے روز مولوی صاحب کے نسبتی بھائی کا خط آیا کہ چھ سمجھنے کے بعد لڑکی زندہ ہو گئی اور اب اچھی ہے۔ (ریاضین الوارث صفحہ ۲۷)

ان واقعات سے حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عملی طور پر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مردہ کو زندہ کرنے کی قوت بخشی ہے۔ رہی سکتے کی بات تو وہ آپ نے از راہِ توضیح فرمائی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔

اویاء را ہست قدرت از الہ  
تیر جستہ باز گردانند زراہ

(مولانا رونی قدس سرہ)



فرمائے گا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۰۸۔ مسلمہ صفحہ ۵۶۳)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میری والدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی۔

مَرْأُثُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكَ حَامِلٌ بِغَلَامٍ  
فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَأَتَيْتُنِي بِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنِّي لِي ذُلْكَ وَقَدْ تَحَالَّفْتُ  
قُرَيْشًا أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ قَالَ هُوَ مَا أَخْبَرْتُكِ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدْتُهُ أَتَيْتُهُ  
فَأَذْنَنَ فِي أَذْنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَأَلْهَاهُ مِنْ رِيقِهِ وَسَمَاءَهُ  
عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ إِذْهَبِي بِأَبِي الْخُلَفَاءِ فَأَخْبَرْتُ الْعَبَاسَ فَاتَّاهُ فَذَكَرَ لَهُ  
فَقَالَ هُوَ مَا أَخْبَرْتُهَا هَذَا أَبُو الْخُلَفَاءِ حَتَّى يَكُونُ مِنْهُمْ السَّفَاحُ حَتَّى  
يَكُونُ مِنْهُمُ الْمَهْدِيُّ.

ترجمہ: میں نبی اکرم ﷺ کے سامنے ہو کر گزرا۔ حضور نے فرمایا تو  
حالمہ ہے اور تیرے پیٹ میں لڑکا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا سے میرے پاس  
لاتا۔ ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے حمل کہاں سے آیا؟ حالانکہ  
قریش نے قسمیں کھالی ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ فرمایا بات  
وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فرمائی۔ ام الفضل نے کہا جب لڑکا پیدا ہوا میں  
خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور نے بچے کے دابنے کاں میں آذان اور  
بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنا العابد، ہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام  
عبداللہ رکھا اور فرمایا کہ خلفاء کے باپ کو لے جا! میں نے حضرت عباس سے  
حضور ﷺ کا ارشاد بیان کیا۔ وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ  
ام الفضل نے ایسا کہا۔ فرمایا! بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی۔ یہ خلیفوں  
کا باپ ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے سفاح ہوگا۔ یہاں تک کہ ان میں  
سے مهدی ہوگا۔ (دلائل النبوة الدولة المکیہ صفحہ ۱۵۳)

ان احادیث کریمہ میں ابتدائے آفرینش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں  
کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی خبر دینا، مشرق سے مغرب تک زمین کے سارے حصے  
کو دیکھنا بہت پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہید ہونے کی خبر  
دینا، یہ فرماتا کہ میری وفات وہیں ہوگی۔ مدینہ طیبہ میں جہاں انصار کی موت ہوگی۔

تک زمین کا تمام حصہ دیکھ لیا اور عنقریب میری انت کی حکومت وہاں تک پہنچ گی، جہاں تک کہ زمین میرے لئے سیئی گئی۔ (مسلم شریف صفحہ ۳۹۰)

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَخْدًا وَأَبْوَبَكِرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَبْشِرُ أَخْدَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدٌ.

ترجمہ: نبی کریم ﷺ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کوہ اخد پر چڑھے تو وہ ان کے ساتھ ہلا۔ حضور ﷺ نے ٹھوکر مار کر فرمایا احمد شہر جا! اس لئے کہ تیرے اور پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔  
(بخاری شریف جلد اصفہ ۵۱۹)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے فتح کہ  
کے دن مدینہ شریف کے انصار سے مکہ معظمہ میں فرمایا۔

الْمَحْيَا مَحْيَا كُمْ وَالْمَمَاثِ مَمَاثُكُمْ

ترجمہ: میری زندگی وہاں ہے، جہاں تم لوگوں کی زندگی ہے اور میری  
وفات وہاں ہے، جہاں تمہیں انتقال کرنا ہے۔ (مسلم، مکملہ صفحہ ۵۷۷)

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جنگ کے لئے  
جب میدان بدر میں اترے تو فرمایا۔

هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَيَطْبَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هُنَّا وَهُنَّا قَالَ فَمَا مَاتَ

أَخْدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: یہ فلاں کے ڈھیر ہونے کی جگہ ہے اور دست مبارک زمین پر رکھتے  
ہوئے بتایا کہ یہاں اور یہاں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول ﷺ کے  
دست مبارک رکھنے کی جگہ سے کوئی ادھر ادھرنہ ہوا۔ (مسلم، مکملہ صفحہ ۵۳۱)

اور حضرت ہبیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے جگ نیبر  
کے موقع پر فرمایا۔

لَا غَطِينَ هَذِهِ الرَّايةُ غَدَا رَجْلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِيهِ

ترجمہ: کل یہ جہنم میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا

دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارا کوئی عمل چھپا رہتا ہے۔ خدا کی قسم میں پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے آگے دیکھتا ہوں۔

(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۷۷)

غور کیجئے! حدیث شریف میں فی مُؤخِّرِ الصَّفَّ نہیں کہ پہلی صفت کے آخر میں شخص مذکور تھا تو حضور ﷺ نے آنکھ کے کونے سے اس کو دیکھ لیا بلکہ فی مُؤخِّرِ الصَّفُوفِ ہے۔ یعنی وہ شخص آخری صفت میں تھا لیکن حضور سید عالم ﷺ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیکھ لیا۔ درمیان کی صفتیں بھی حضور ﷺ کے دیکھنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتیں۔

سرِ عرش پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تری نظر  
ملکوت و ملک میں کوئی شی نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

### حضرت عیسیٰ روح اللہ کا عقیدہ

(علیہ نبیانا و علیہ الصلوٰۃ والسلام)

سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا۔

وَإِنْ بَنْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

ترجمہ: اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔  
(پارہ ۳ رکوع ۱۳)

حضرت صدرالاافتاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لئے بنا کر رکھا ہے۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے۔ فلاں چیز تمہارے لئے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روئے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے۔ گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں۔ ان کے پاس نہ بیٹھو! اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے

میدان بدر میں ایک دن پہلے بتا دینا کہ یہاں فلاں پچھاڑا جائے گا اور یہاں فلاں ڈھیر ہو گا، خیر میں یہ فرماتا کہ میں کل جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح ہو گی اور امام الغسل کے حاملہ ہونے پھر اس بچے کے ابوالخلفاء ہونے، یہاں تک کہ اس کی نسل سے سفاح اور مہدی کے ہونے کی اطلاع دینا سب غیب کی خبریں ہیں، جن سے حضور سید عالم مکمل اللہ نے سب کو آگاہ فرمایا۔ ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کو علم غیب حاصل ہے۔ ورنہ ان باتوں کو وہ اپنی زبان پر ہرگز نہیں لاتے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانتے غیوب ﷺ نے فرمایا۔

وَاللَّهِ مَا يَخْفِي عَلَى رُشُومَكُمْ وَلَا خُشُوعَكُمْ إِنَّمَا لَأَرَأْتُمْ مِنْ وَرَاءَ ظَهَرِيْ.

ترجمہ: خدا کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں پیشہ

کے پیچے بھی دیکھتا ہوں۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم مکمل اللہ نے کا یہ عقیدہ کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے (۱) وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں اور یہ علم غیب ہے۔ پھر اس حدیث شریف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ وہ پیشہ کے پیچے بھی دیکھتے ہیں۔

اگر کوئی یہ خیال کرے کہ حالت نماز میں آنکھ کے کونے سے حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ میں پیشہ کے پیچے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ خیال غلط ہے۔ اس لئے کہ صفوں کے آخر میں غلطی کرنے والے کو حضور ﷺ نے دیکھا اور تنبیہ فرمائی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مردی ہے کہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهَرَ وَفِي مُؤَخِّرِ الصُّفُوفِ  
رَجُلٌ فَاسَأَهُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
فُلَانَ أَلَا تَقْرِيَ اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصْلِيَ إِنْكُمْ تُرُونَ اللَّهَ يَخْفِي عَلَى شَيْءٍ  
مِمَّا تَضَعُونَ وَاللَّهُ إِنَّمَا لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْ.

ترجمہ: رسول ﷺ نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور صفوں کے آخر میں ایک شخص تھا جس نے نمازی بری طرح پڑھی۔ جب حضور ﷺ نے سلام پھیرا تو اسے آواز دی کہ اے فلاں! کیا اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کیا تو نہیں

صدقہ دینے کو بہت محبوب رکھتی تھیں۔ بخاری صفحہ ۱۹۱ جلد ا۔ مسلمہ صفحہ ۱۶۵)

حضور ﷺ کی اس خبر پر کہ ”میرے گھروں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے لوگی“ حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خوش ہو کر ہنسنا اور امہات المؤمنین کا حضور سے دریافت کرنا کہ ہم یوں میں سے کون آخرت میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے گی؟ اور پھر حضور ﷺ کے ارشاد پر ایک دوسرے کے ہاتھ کا نانپا، ان سارے واقعات سے کھلم کھلا ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ کو غیب کا علم ہے اور جو انہوں نے فرمایا ہے وہی ہو کر رہے گا۔

### صحابہ کرام کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

جن حدیثوں میں حضور سید عالم ﷺ کے علم غیب کا بیان ہے۔ صحابہ نے ان کو روایت کیا، جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو علم غیب ہے۔ اس کے علاوہ خود صحابہ کے واقعات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو غیب کا علم ہوا کرتا ہے۔

### حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال اقدس ۱۳ ہجری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی! میرے پاس جو کچھ مال تھا۔ آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے دو بھائی عبدالرحمن و محمد ہیں اور تمہاری دو بیٹیں ہیں۔ لہذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان میری تو ایک ہی بہن اسماء ہے۔ یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ

ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسی ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔

آیت مبارکہ اور واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔

### حضرت فاطمہ زہرا اور امہات المؤمنین کا عقیدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورہ مبارکہ اذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ تَازِلْ ہوئی تو حضور ﷺ نے حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا یا اور ان سے فرمایا

نُفِيتِ إِلَى نَفْسِي فَبَكَ قَالَ لَا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِنِي لَاحْقِ بِي فَضْحَكَ.

ترجمہ: مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے تو وہ رونے لگیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا نہ رہو، اس لئے کہ میرے گھروالوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی۔ تو وہ بنس پڑیں۔ (پارہ ۳ رکوع ۱۳)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مردی ہے کہ

إِنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنْ يَدًا فَأَخْلَدُو قَصْبَةَ يَدِرْغُونَهَا وَكَانَتْ سُودَةً أَطْوَلُهُنْ يَدًا فَعَلِمُنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وَكَانَتْ أَسْرَعُنَا لِحُوقَابِهِ زَيْنَبُ وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ.

ترجمہ: امہات المؤمنین نے رسول ﷺ سے عرض کیا کہ ہم میں

کون سی یہوی کی آپ سے آخرت میں سب سے پہلے ملاقات ہوگی؟ حضور ﷺ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ یہ سن کر امہات المؤمنین نے ایک دوسرے کے ہاتھ ناپے تو پتہ چلا کہ حضرت سودہ کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ لمبے ہاتھ ہونے سے مراد صدقہ دینے میں زیادتی تھی اور ہم میں سب سے پہلے انقال کرنے والی حضرت زینب تھیں جو

آیا جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم ٹکست کھا جاتے کہ عین جمعہ کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی یا ساریہ الجبل۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو خدا تعالیٰ نے کافروں کو ٹکست دی۔ ہم نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس طرح ہم کو فتح حاصل ہو گئی۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۶ اور مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۲۶ پر یہی واقعہ اختصار کے ساتھ ہے)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم میں ایک لشکر بھیجا۔ اس کے بعد ایک دن اچانک مدینہ طیبہ میں بلند آواز سے دو مرتبہ فرمایا یا لبیکاہ! یا لبیکاہ! (یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں) کچھ دنوں بعد وہ لشکر مدینہ طیبہ واپس آیا۔ آپ نے اس لشکر کے سپہ سالار سے فرمایا کہ جس سپاہی کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا عمرہ اُہ۔ یا عمرہ اُہ۔ پکارا تھا اس کا کیا واقعہ تھا؟ سپہ سالار نے عرض کیا کہ مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اترانا تھا۔ اس لئے میں نے اس کو پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنیکے لئے دریا میں اترنے کا حکم دیا تھا، مگر موسم بہت سرد تھا اور زور دار ہوا چل رہی تھی، اس لئے اس کو سردى لگ گئی اور اس نے دو مرتبہ بلند آواز سے یا عمرہ اُہ۔ یا عمرہ اُہ۔ کہا اور انتقال کر گیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کی نیت سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے موسم میں اس سپاہی کو دریا کی گہرائی میں اترنا قتل خطا کے حکم میں ہے۔ لہذا اپنے مال سے تم اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو۔ (ازلۃ الخفا صفحہ ۱۷۲)

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ نہادند جو ملک ایران میں ہے وہاں پر لڑائی کرنے والے مجاہدین اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے دیکھا اور ملک روم میں سپاہی کو زبردستی دریا میں اترائے جانے کو وہیں سے ملاحظہ فرمایا۔ یہ علم غیب ہے جسے آپ نے لوگوں پر ظاہر فرمाकر ثابت کر دیا کہ غیر اللہ کے لئے علم غیب کا عقیدہ حق ہے۔ اسے شرک و کفر سمجھنا گمراہی و بدمنذہی ہے۔

### حضرت عثمان غنی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصالی اقدس ۳۵ ہجری)

حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقع کے اس حصہ میں تشریف لے گئے، جس کو

سے لڑکی (ام کلثوم) ہی پیدا ہوئی۔ (موطا امام محمد باب الحکی صفحہ ۳۲۸)

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا۔ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ آج میرا مال میرے وارثوں کا ہو چکا ہے اور آپ یہ بات یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کا حبیبیہ کے پیٹ میں لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے اور ان دونوں باتوں کا جانا یقیناً علم غیب ہے جن کو بیان فرمائنا ہوں نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ انہیاً کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ دوسرے خاص بندوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

### حضرت عمر فاروق اعظم کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال اقدسہ ۲۳ جمیری)

علامہ ابو نعیم نے دلائل النبوة میں حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ فرمائے تھے۔ یک یک آپ نے درمیان میں خطبہ چھوڑ کر تین بار یہ فرمایا یَاسَارِيَةُ الْجَبَلِ۔ یَاسَارِيَةُ الْجَبَلِ۔ یَاسَارِيَةُ الْجَبَلِ۔ یعنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اے ساریہ! پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اے ساریہ! پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس طرح حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع فرمایا۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرمائے تھے۔ پھر یک یک بلند آواز سے کہنے لگے یَاسَارِيَةُ الْجَبَلِ۔ تو کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے خداۓ ذوالجلال کی کہ میں ایسا کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

**رَأَيْتُهُمْ يَقْاتِلُونَ عِنْدَ جَبَلٍ يُؤْتُونَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَلَمْ أَمْلِكْ أَنْ قُلْتُ يَاسَارِيَةُ الْجَبَلِ.**

میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لا رہے ہیں اور کفار ان کو آگے اور چھپے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔

اس واقعہ کے پچھے روز بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر

جان لے گی، مگر صحیح کہنا، جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں، جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجوہ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔

آپ نے فرمایا تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی۔ تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی۔ لڑکا پیدا ہوا تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا، جس نے اسے سونگھا تو نے اس کے کو ایک پتھر مارا جو بچہ کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے ازار بند سے کچھ کپڑے پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا پھر تم دتوں واپس چلی گئیں اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا۔ ہاں حضور! ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر اے امیر المؤمنین! اس واقعہ کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرانہیں جانتا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب صحیح ہوئی تو فلاں قبلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا لڑکا ہے۔ خدا نے عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا لے اسے اپنے ساتھ لے جا۔ تو اس کی بیوی نہیں ماں ہے اور یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ (شوابد الدبوۃ صفحہ ۲۸۲)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن مقام بنیع میں سخت یمار ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور! آپ یہاں کیوں نہ ہوئے ہیں؟ اگر یہاں آپ کی وفات ہو گئی تو تجھیز و تکفین کون کرے گا؟ بہتر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چلیں تاکہ آپ کے عزیز و اقارب کفن و دفن کا انتظام کریں اور انصا و مہاجرین وغیرہ صالحہ کرام آپ کی نمازِ جنازہ پڑھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ابھی انتقال نہیں کروں گا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں مر دے گے۔ جب تک کہ امیر المؤمنین نہیں ہو جاؤ گے اور تاوق تکیہ تکوار مار کر تمہاری

”حش کوکب“ کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جگہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”عقریب یہاں ایک مرد صاحبِ دُن کیا جائے گا“

اس واقعہ کے کچھ ہی روز بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ بلاسیوں نے اس قدر ہنگامہ کیا کہ آپ کا جنازہ مبارکہ نہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب میں دُن کیا جاسکا اور نہ جنتِ لبغیع کے اس حصہ میں کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام مدفون تھے بلکہ سب سے دور الگ تھلک ”حش کوکب“ میں جس جگہ کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا تھا، وہیں دُن کیا گیا۔ (ازلۃ الخفا صفحہ ۲۲۷)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ظاہری زندگی میں یہ فرمانا کہ ”یہاں ایک مرد صاحبِ یعنی میں دُن کیا جاؤں گا“ اپنے علمِ غیب کا ظاہر کرنا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

## حضرت علی مرتضیٰ کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال اقدس ۳۰ جمیری)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ اس میں ایک مرد اور ایک عورت تمہیں لاتے ہوئے ملیں گے۔ جاؤ انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا اے امیر المؤمنین! میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مگر جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلاں کے لئے پہنچا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فرمایا وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا تو اس جوان کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ صرف اتنا جانتی ہوں کہ کل سے یہ میرا شوہر ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اب تو اچھی طرح

ترجمہ: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو! تم میں سے کسی کو علم غیب عطا فرمادے اور دلوں کے کفر و ایمان پر مطلع کر دے۔ ہاں اس منصب اور اپنی پیغمبری کے لئے اللہ جس کو چاہتا ہے ہم لیتا ہے تو اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غبیوں کی اس کو خبر دے دیتا ہے۔

حضرت علامہ امیل حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (الم توفی ۷۲۵ھ) پارہ ۲۱ رکوع ۱۳ کی آیت کریمہ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمٌ السَّاعَةُ الْمُتَعَلِّمُونَ کے تحت تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَالْأُولَىٰ يَاءٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوبِ فَبِتَعْلِيمِ اللَّهِ  
تَعَالَىٰ إِمَّا بِطَرِيقِ الْوَحْيٍ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِلَهَامِ أَوِ الْكَشْفِ .

ترجمہ: اور جوانبیاء و اولیاء سے غیب کی خبریں روایت کی گئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہے۔ یا بطريق وحی یا الهام یا کشف کے طریق سے۔

وَكَذَا أَخْبَرَ بَعْضَ الْأُولَىٰ يَاءٌ عَنْ نُزُولِ الْمَطْرِ وَأَخْبَرَ عَمَّا فِي الرَّحْمَمِ مِنْ  
ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ فَوْقَعَ كَمَا أَخْبَرَ .

ترجمہ: اور اسی طرح بعض اولیاء نے بارش ہونے کی خبر دی اور بعض نے رحم کے بچہ، لڑکے یا لڑکی کی خبر دی تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر تحریر فرماتے ہیں۔

مَرِضَ أَبُو الْعَزْمِ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شِيرَازَ فَقَالَ إِنْ مُّتْ فِي شِيرَازَ فَلَا  
تَدْفُونُنِي إِلَّا فِي مَقَابِرِ الْيَهُودِ . فَإِنَّمَا سَأَلَ اللَّهَ أَنْ أَمُوتَ فِي  
طَرْطُوسَ فَبَرِئَ وَمَضَى إِلَى طَرْطُوسَ وَمَاتَ فِيهَا . يَعْنِي أَخْبَرَ اللَّهَ  
لَا يَمُوتُ فِي شِيرَازَ فَكَانَ كَذَالِكَ .

ترجمہ: حضرت ابوالعزز اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیراز میں بیمار ہو گئے تو انہوں نے فرمایا اگر میں شیراز میں انتقال کر جاؤں تو مجھے یہودیوں ہی کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس لئے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں طرطوس میں انتقال کروں۔ پھر وہ اچھے ہو کر طرطوس گئے اور وہیں وصال ہوا۔ یعنی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شیراز میں نہیں انتقال کریں گے تو وہی ہوا۔

اور علامہ علاء الدین خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (الم توفی ۷۲۵ھ) پارہ ۲۷ سورہ الحجہ کی آیت مبارکہ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ کے تحت تفسیر خازن میں تحریر فرماتے ہیں۔

پیشانی اور داڑھی خون سے نگین نہ کر دی جائے۔ (شواید المذکوہ صفحہ ۲۲۷)

مذکورہ عورت کے سارے پوشیدہ حالات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہے نے بتا دیئے جس سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ اپنے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں غیب جانتا ہوں اور دوسرے واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ رسول اکرم ﷺ کو علم غیب ہے۔ انہوں نے میری موت کے متعلق جو فرمایا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اس میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا۔

## مفسرین کا عقیدہ

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ والرضوان (المتوفی ۶۰۶ ہجری) پارہ ۱۵ رکوع ۱۳ کی آیت کریمہ اُم حَسِبْتَ أَنْ أَصْبَحَ الْكَهْفَ لِعَ میں تحریر فرماتے ہیں۔

الْعَبْدُ إِذَا وَأَظَبَ عَلَى الطَّاغَاتِ بَلَغَ الْمَقَامَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتَ لَهُ سَمِعًا وَبَصَرًا. فَإِذَا صَارَنُورُ جَلَالَ اللَّهِ سَمِعًا لَهُ فَسَمِعَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ. وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ. وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ

يَدَا لَهُ قَدْرًا عَلَى التَّصْرُفِ فِي السَّهْلِ وَالصَّعْبِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ۔

جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمچلی اختیار کرتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہتے ہے سمعاً و بصرًا فرمایا ہے (۱) تو جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آواز کو سن لیتا ہے اور جب یہی نور اس کی بصر ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ آسان و مشکل اور دور و نزدیک کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

حضرت علامہ قاضی ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفی ۶۸۵ ہجری) پارہ ۳ رکوع ۹ کی آیت مبارک وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعُكُمْ لَعَ میں تحریر بیضاوی میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤْتِيَ أَحَدًا كُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيُطَلَعُ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ كُفْرٍ وَإِيمَانٍ وَلِكُنْ اللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُخْبِرُ بِمَا فِي الْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنِ.

تفسیر کبیر کی عبارت سے امام فخر الدین علامہ رازی کا یہ بھی عقیدہ ثابت ہوا کہ جب بنده اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا نور اس کی سمع و بصر بن جاتا ہے جن سے وہ دور و نزدیک کی ساری باتوں کو اور پورے حالات کو سنتا اور دیکھتا رہتا ہے۔

حضرت ابوالعزز اصفہانی کے واقعہ سے صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی کا یہ بھی عقیدہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محظوظ بندوں کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کہاں مرنے گا، جو علومِ خمسہ میں سے ہے۔

## محمد شین کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

محمد شین کرام جنہوں نے حضور سید عالم ﷺ کی احادیث کریمہ کو جمع کرنے کے لئے بڑی بڑی مشقوں کو برداشت کیا اور ان کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ اب علم غیب کے بارے میں اس مقدس گروہ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

## حضرت امام بخاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - المتوفی ۲۵۶ ہجری)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا

نَعَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْدًا وَ جَعْفَرًا وَ ابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِمْ خَبْرُهُمْ فَقَالَ أَخْذَ الرَّأْيَةَ رَيْدًا فَأَصْبَبَ ثُمَّ أَخْذَ جَعْفَرًا فَأَصْبَبَ ثُمَّ أَخْذَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَأَصْبَبَ وَعِنْدَهُ تَدْرِفَانْ حَتَّى أَخْذَ الرَّأْيَةَ سَبِيفًا مِنْ سُبِيفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

نبی اکرم ﷺ نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ان لوگوں کے شہید ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید نے جہنمہ اپنے میں لیا اور شہید کئے گئے پھر جعفر نے جہنمہ کو سنبھالا اور وہ بھی شہید ہوئے، پھر ابن رواحہ نے جہنمہ کے کولیا اور وہ بھی شہید کئے گئے۔ آپ یہ واقعہ بیان فرمائے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ

**قِيلَ أَرَادَ بِالْإِنْسَانِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَهُ الْبَيَانِ**  
**يَعْنِي بَيَانَ مَا يَكُونُ وَمَا كَانَ لَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْبَغِي عَنْ**  
**خَبْرِ الْأَوَّلِينَ وَلَا الْخَرِيفِينَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ.**

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ انسان سے محمد ﷺ کو مراد لیا ہے اور بیان سے مراد جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا سب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ اس لئے کہ حضور ﷺ کو اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی۔ اور علامہ ابو محمد بن نوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفی ۵۱۶ ہجری) اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر معالم التزیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

**خَلَقَ الْإِنْسَانَ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَهُ الْبَيَانِ**  
**يَعْنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ.**

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی محمد ﷺ کو علی علیہ وَسَلَّمَ کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب سکھا دیا۔ اور عارف باللہ شیخ احمد صاوی ماکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صاوی میں تحریر فرماتے ہیں۔

**وَقِيلَ هُوَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ إِنْسَانُ الْكَامِلِ**  
**وَالْمَرَادُ بِالْبَيَانِ عِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَانَ.**

ترجمہ: اور کہا گیا ہے کہ وہ انسان کامل محمد ﷺ ہیں اور بیان سے مراد وہ علم ہے جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ ان کو سکھا دیا۔ اور سوہن کی آیت کریمہ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظَهِّرُ النَّعْمَانَ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

**إِطْلَاعُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْغَيْبِ أَقْوَى مِنْ إِطْلَاعِ الْأَوْلَاءِ.**

ترجمہ انبیاء کرام کو اولیاء کی بُنْبَت غیب پر قوی اطلاع ہوتی ہے۔  
 (تفسیر صاوی صفحہ ۲۲۳، جلد ۳)

ان تمام تفسیروں کی عبارتوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مفسرین کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا۔ سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ ﷺ کو عطا فرمادیا ہے اور دیگر انبیاء و اولیاء بھی غیب پر مطلع ہوتے ہیں۔ البتہ اولیاء کی بُنْبَت انبیاء کرام کو غیب پر قوی اطلاع ہوتی ہے۔

جس سے وہ نستا ہے اور اس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ (بخاری شریف جلد صفحہ ۹۶۳۔ مسلمونہ صفحہ ۱۹۷)

جگِ موتہ جو ملکِ شام میں ہو رہی تھی، حضور ﷺ کا مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے اس کے سارے حالات کو بتانا، زمین کے اندر دو آدمیوں پر ہونے والے عذاب کو اپر سے ملاحظہ فرمانا اور پھر یہ بھی بتانا کہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے، قیصر و کسری کی حکومت ختم ہونے کی خبر دینا اور خدائے ذوالجلال کی قسم کے ساتھ فرمانا کہ ان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کئے جائیں گے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں جن کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں لکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ کو علم غیب ہے۔ ورنہ اس طرح کی حدیثوں کو وہ اپنی کتاب بخاری میں ہرگز نہ لکھتے۔

آخری حدیث قدسی سے امام بخاری کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے خفایا وغیوب جناب احمد مجتبی محمد ﷺ کی ذاتِ اقدس تو بہت ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عام بندوں میں سے جب کسی کو اپنا دوست بنالیتا ہے تو اس کی سماعت و بصارت ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک وہ بھی غیب داں ہو جاتا ہے۔ دور و نزدیک کی باتوں کو نستا ہے اور دور و نزدیک کی حالتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ جب اسے یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس میں صفاتِ خداوندی کا جلوہ ضرور ظاہر ہو گا۔

### حضرت امام مسلم کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۲۶۱ ہجری)

حضرت ابو زید رحمۃ اللہ علیہ عمرہ بن الخطب النصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَغْلَمْنَا أَحْفَظْنَا

نے فرمایا اب جہنڈے کو اس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے۔ یعنی خالد بن ولید نے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۲۱۱)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مردی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔

**مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاطِطٍ مِّنْ جِيَطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعْذَبَانِ فِي قُبُورِ هِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُعْذَبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلِّي كَانَ أَخْذَهُمَا لَا يُسْتَرِّمُنْ بَوْلَهُ وَكَانَ الْأَخْرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ**

ترجمہ: نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ یا مکہ کے باعات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو دو آدمیوں کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہورہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہورہا ہے، مگر کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ہاں (خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات ہے) ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں پچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ (بخاری شریف جلد اصغر ۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

**إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ تَبَدَّى لَتُنْفَقُنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .**

ترجمہ: جب کسری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبھہ قدرت میں محمد کی جان ہے ضرور ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کئے جائیں گے۔ (بخاری شریف جلد اصغر ۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا

ارشاد ہے۔

**إِذَا أَخْبَيْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَيْطَشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا .**

ترجمہ: جب میں بندہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کی ساعت ہو جاتا ہوں

قریب پہنچ تو سخت آندھی آئی۔ قریب تھا کہ وہ مسافر کو دفن کر دے۔ رسول ﷺ نے فرمایا کہ یہ آندھی ایک منافق کی موت پر بھی گئی ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ تو اس روز ایک بہت بڑا منافق مر گیا تھا۔ (مسلم۔ مشکوٰۃ صفحہ ۵۳۶)

اور حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے انہوں نے فرمایا۔

**سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِفَتَحِنْ عِصَابَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزًا إِلَى كِسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ.**

ترجمہ: میں نے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے کہ ضرور ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے خزانے کھولے گی جو کہ ابیض مقام پر ہوگا۔

(مسلم۔ مشکوٰۃ صفحہ ۳۶۶)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”ایں کنج در زمان امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون آورده شد۔ یعنی یہ خزانہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں نکالا گیا۔ (فتح المدعات جلد ۲ صفحہ ۲۹۹)

حضرت ابو القادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا

**إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَارَ حِبْنَ يَحْفَرَ الْخَنْدَقَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ بُوْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِنَاءُ الْبَاغِيَةُ.**

ترجمہ: رسول ﷺ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبکہ وہ خندق کھو رہے تھے۔ حضور ان کے سر پر دست مبارک پھیرتے اور فرماتے جاتے تھے۔ ابن سُمَيَّةَ کی سختی کہ تمہیں با غیگر وہ قتل کرے گا۔ (مسلم۔ مشکوٰۃ صفحہ ۵۳۲)

حضور سید عالم ﷺ کے ارشاد کے مطابق جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے لشکر کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کئے گئے۔

جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، حضور ﷺ کا سارے واقعات کی خبر دینا، میدان بدر میں ایک دن پہلے ہی بتا دینا کہ کون کافر کس جگہ قتل کیا جائے گا، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اس آبادی میں ایک بڑے منافق کے مرنے کی خبر دینا، کئی سال قبل اس بات سے آگاہ کر دینا کہ ابیض کا خزانہ مسلمان کھولیں گے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً ۲۲ سال پہلے یہ بتا دینا کہ تم کو با غیب جماعت قتل کرے گی۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جن کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول ﷺ کو علم غیب ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔

ترجمہ: رسول اکرم ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہو کر ہمارے سامنے تقریر فرمائی۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آگیا۔ پھر منبر سے تشریف لا کر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر منبر پر تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا۔ پھر منبر سے اتار کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تو اس تقریر میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، سارے واقعات کی حضور ﷺ نے ہمیں خبر دے دی۔ تو ہم میں سب سے زیادہ جانے والا وہ شخص ہے جسے حضور ﷺ کی بتائی ہوئی خبریں زیادہ یاد ہیں۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۹۰)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروقی

اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ  
بِالْأَمْسِ وَيَقُولُ هَذَا مَصَرْعُ فَلَانَ غَدَّا إِنْشَاءَ اللَّهِ وَهَذَا مَصَرْعُ فَلَانَ غَدَّا  
إِنْشَاءَ اللَّهِ قَالَ غَمْرٌ وَالَّذِي بَعْثَهُ بِالْحَقِّ مَا اخْطَأَ وَأَحْدُوذُ الَّتِي حَدَّهَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے جگ بدر سے ایک روز پہلے ہم لوگوں کو وہ تمام مقامات دکھا دیئے تھے، جہاں بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے مشرکین قتل ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہاں فلاں شرک گر کر مارے گا اور کل انشاء اللہ تعالیٰ یہاں فلاں شخص ڈھیر ہو گا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو مقامات حضور ﷺ نے بتاویے تھے ان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا۔ یعنی وہ کافر اسی جگہ مارے گئے جو جگہ حضور ﷺ نے بتاوی تھی۔ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۰۲)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا  
قَلِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرِ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ  
رِيحٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ  
هَذِهِ الرِّيحَ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَقَلِيمَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَلَمَعَاتِ.

ترجمہ: نبی اکرم ﷺ سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب مدینہ شریف کے

مِائَةٌ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْسَمَاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ.

ترجمہ: خدا تعالیٰ کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے بھول گئے ہیں یا بھول جانا ظاہر کرتے ہیں۔ (آج سے) دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنے انگیز پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سو سے زیادہ ہو گی۔ حضور ﷺ نے ہمیں ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور انکے خاندان کا نام (سب کچھ) بتا دیا۔ (ابوداؤد۔ مشکوٰۃ صفحہ ۳۶۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول ﷺ نے فرمایا۔

الْمَهْدِيُّ مِنْيَ أَجْلَى الْجَهَةِ أَفْنِي الْأَنْفَ يَمْلُأ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِّثَ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سَيْنِينَ.

ترجمہ: مہدی مجھ سے ہے کشاہی پیشانی اور بلند تاک والا۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہو گی۔ سات سال حکومت کرے گا۔

(ابوداؤد۔ مشکوٰۃ صفحہ ۲۷۰)

ان احادیث کریمہ سے واضح ہوا کہ حضور سید عالم ﷺ کو قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام فتنے انگیزوں کا علم تھا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ساری باتیں جانتے تھے اور یہ سب غیب کا علم ہے۔ پھر حضرت امام ابو داؤد نے ان حدیثوں کو اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں لکھا تو ثابت کر دیا کہ حضور ﷺ کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ برحق ہے۔

### حضرت امام دارمی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۲۵۵ ہجری)

حضرت عبد الرحمن بن عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار القدس ﷺ نے فرمایا:

رَأَيْتُ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَ فِيْ أَخْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَعْلَى  
قُلْتُ أَنْتَ أَغْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَهُ بَيْنَ كِفَّيْ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيْتِيْ  
فَعَلِمْتُ مَا فِي الْبَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

ترجمہ: میں نے اپنے رب عز و جل کو ایسی اچھی صورت میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ملأا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے

## حضرت امام ترمذی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۲۷۹ ہجری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا۔  
 صَلَّیْ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّیْ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارِ  
 ثُمَّ قَامَ حَطِیْبًا فَلَمْ يَدْعُ شَيْئًا يُكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ حَفْظَةً مِنْ  
 حَفْظَةَ وَنَسِيَّةَ مِنْ نَسِيَّةَ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو ایک دن عصر کی نماز اول وقت پڑھائی پھر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی تو کسی بات کو نہیں چھوڑا، قیامت تک کے سارے واقعات کی ہمیں خبر دی۔ جس نے اس تقریر کو یاد رکھا وہ یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ (ترمذی شریف جلد ۲ صفحہ ۳۲)

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا۔  
 ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّیْ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ هَذَا فِيهَا  
 مَظْلُومًا لِعُثْمَانَ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا کہ یہ اس میں مظلومانہ شہید کئے جائیں گے۔ (ترمذی شریف جلد ۲ صفحہ ۲۲)  
 معلوم ہوا کہ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو علم غیب حاصل ہے۔ ورنہ یہ حدیثیں کہ جن میں قیامت تک کی باتیں بتانے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کئے جانے کی خبر دینے کا ذکر ہے، امام ترمذی ان کو اپنی کتاب میں ہرگز شامل نہ کرتے۔

## حضرت امام ابو داؤد کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۲۷۵ ہجری)

حضرت حذیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا  
 وَاللَّهِ لَا أَدْرِی أَنَّسِی أَصْحَابِي أَمْ تَنَسُّوا لِلَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّیْ  
 اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى اَنْتَقَضَى الدُّنْيَا يَتَلَعَّجُ مِنْ مَعْهَةِ ثَلَاثَ

اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی واپس دے دی اور پھر انقال کر گئے۔

(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۳۳)

میزبان رسول حضرت ابوالیوب النصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا  
 خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ  
 صَوْتاً قَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا.

نُبیٰ اکرم ﷺ با ہر تشریف لے گئے اور سورج غروب ہونے والا تھا تو ایک  
 آواز سنی۔ فرمایا یہود کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۳۶)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول  
 خدیل ﷺ نے فرمایا۔

إِنَّ الشَّيْطَنَ قَدْ أَيْسَ مِنْ أَنْ يَقْبَدُ الْمُصْلِحُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلِكُنْ فِي  
 التُّخْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

ترجمہ: شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مصلی یعنی مؤمن  
 جزیرہ العرب میں اس کی عبادت کریں۔ لیکن آپس میں انہیں لڑانے سے  
 مایوس نہیں ہوا ہے۔ (مسلم۔ مشکوٰۃ صفحہ ۱۹)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر  
 فرماتے ہیں۔

مراد بمصلین موماناً ند و مراد بعبادت شیطان عبادت اضام و اگرچہ اصحاب  
 مسیلمہ و مانعی الزکاۃ برآہ ارتدا در نہ نہد اما عبادت اضام نہ کر دند۔

ترجمہ: مصلیوں سے مؤمنین مراد ہیں اور شیطان کی عبادت سے بتوں  
 کی پوجا مراد ہے اور اگرچہ مسیلمہ کے ساتھی اور منکریں زکوٰۃ مرد ہوئے،  
 لیکن ان لوگوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ (افتح المعمات جلد اصفہان ۸۳)

ان حدیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ صاحب مشکوٰۃ حضرت علامہ خطیب تبریزی علیہ  
 الرحمۃ والرضوان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو علم غیب ہے۔ اس لئے کہ حضور ﷺ  
 نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ تمہیں اس بیماری سے کوئی خطرہ نہیں۔ تم  
 ہماری وفات کے بعد بھی زندہ رہو گے اور اندھے ہو گے اور زمین کے اندر یہودیوں پر جو

بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میر ارب تو خوب جانتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا تو وصول فیض کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی تو میں نے ان تمام چیزوں کو جان لیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ (دارمی۔ مشکوٰۃ صفحہ ۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میں مسالہ مرض میں مسجد نبوی کے منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا نُظْرُ إِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَقَامِي هَذَا۔

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبھہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس نگہ سے بھی حوض کوڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ (دارمی۔ مشکوٰۃ صفحہ ۵۲۸)

آسمانوں اور زمینوں کی ساری باتوں کو جانتا اور مدینہ منورہ سے بھی حوض کوڑ کو ملاحظہ فرمانا علم غیب ہے۔ حضرت امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب دارمی شریف میں ان حدیثوں کو شامل فرمایا کہ واضح کر دیا کہ ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضور ﷺ کو غیب کا علم حاصل ہے۔

### صاحب مشکوٰۃ علامہ خطیب تبریزی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۳۰۷ھجری)

حضرت ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ ان کے باپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لئے اندر تشریف لائے جبکہ وہ یہاں تھے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا۔

لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضَكَ بَأْسٌ وَلِكُنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا غَمَرْتَ بَعْدِي فَعَمِيتَ قَالَ أَخْتَبِرْ وَاصْبِرْ قَالَ إِذْنَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ ثُمَّ فَعَمِيَ بَعْدَ مَامَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَةً ثُمَّ مَاتَ۔

ترجمہ: اس یہاں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم ہمارے بعد زندہ رہو گے اور انہے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا ٹواب حاصل کروں گا اور صبر کروں گا۔ فرمایا پھر تو بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد وہ انہے ہو گئے۔ پھر

اور ایک دوسرا شخص تو وہ مرد ہونے کے بعد جگ بیامہ میں قتل کیا گیا۔

(شفا شریف جلد اصفہنی ۲۲۵)

وَأَخْبَرَ بِالْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ عَمْهُ الْعَبَاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَمِ الْفَضْلِ بَعْدَ  
أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ مَا عَلِمْتُمْ غَيْرِيْ وَغَيْرُهَا فَأَسْلَمْ وَأَعْلَمْ بِإِنَّهُ مَيْتَ قُتْلُ أُبَيْ ابْنِ  
خَلْفٍ. وَفِيْ غُطْبَةَ بْنِ أُبَيْ لَهُبْ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ كَلْبٌ وَعَنْ مَصَارِعِ أَهْلِ بَدْرٍ فَكَانَ  
كَمَا قَالَ. وَقَالَ فِيْ الْحَسْنِ إِنَّ أَبْنَى هَذَا سَيِّدٌ وَسَيْصِلْحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فَتَّنَيْنِ.  
وَقَالَ لِخَالِدٍ حِينَ وَجَهَهُ لَا كَيْدَرٌ إِنْكَ تَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ فَوَجَدَهُ هَذِهِ  
الْأُمُورُ كُلُّهَا فِيْ حَيَاةِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: اور حضور ﷺ نے اس مال کی خبر دی جس کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چھپا کے رکھا تھا۔ حضرت عباس نے کہا اس مال کو میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ ایمان لے آئے اور حضور ﷺ نے بتایا کہ وہ عنقریب ابی بن خلف کو قتل کریں گے اور عتبہ بن ابو لهب کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک کتا کھائے گا اور بدر میں کافروں کے قتل ہونے کی جگہ پہلے بتا دی۔ تو جیسا حضور ﷺ نے فرمایا ویسا ہی ہوا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرادے گا اور جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکے رکی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اسے گائے کاشکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ تو یہ ساری باتیں حضور ﷺ کی ظاہری زندگی اور وصال مبارک کے بعد اسی طرح ہوئیں جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (شفا شریف جلد اصفہنی ۲۲۶)

ان تمام عبارتوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت علامہ قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔

عذاب ہو رہا تھا اسے بتایا اور خبر دی کہ ملک عرب میں کبھی شیطان کی پوجا نہیں ہوگی۔ یعنی اگرچہ وہاں کچھ لوگ مرد بھی ہو جائیں، جیسے کہ اصحاب سیلمہ اور منکرین زکوٰۃ مرد ہوئے، مگر بھی وہاں بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔

ان غیبوں کے بیان والی حدیثوں کو علامہ خطیب تبریزی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اگر حضور ﷺ کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ ان کے نزدیک حق نہ ہوتا تو وہ ایسی حدیثوں کو مشکلاۃ شریف میں ہرگز داخل نہ کرتے۔

### حضرت علامہ قاضی عیاض کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۵۲۳ ہجری)

قَالَ فِيْ فُرْمَانَ وَقَدْ أَبْلَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقُتِلَ نَفْسَهُ .  
وَقَالَ فِيْ جَمَاعَةِ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَسَمِرَةَ بْنُ جَنْدُبٍ وَحَذِيفَةَ أَخِرُّكُمْ مَوْتًا  
فِي النَّارِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَسْأَلُ عَنْ مَمْضِيِّ فَكَانَ سَمِرَةُ أَخِرُّهُمْ مَوْتًا هَرَمَ  
وَخَرِفَ فَاصْطَلَى بِالنَّارِ فَأَخْتَرِقَ فِيهَا .

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے قرآن کے بارے میں فرمایا جب کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ آخر اس نے خود کشی کی اور حضور ﷺ نے ایک جماعت کے بارے میں خبر دی جن میں حضرت ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے کہ تم میں سے آخری شخص آگ میں مرے گا تو وہ لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہتے تھے۔ ان میں سب کے بعد حضرت سمرہ کا انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہو کر کم عقل ہو گئے تھے۔ آگ تاپ رہے تھے کہ اسی میں جل گئے۔ (شفا شریف جلد اصفہنی) (۲۲۲ صفحہ)

وَقَالَ لِقَوْمٍ مِنْ جُلَسَائِهِ ضِرْسُ أَحَدِكُمْ فِي النَّارِ أَغْظَمُ مِنْ أَحَدٍ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  
فَلَدَّبَ الْقَوْمُ يَعْنَى مَاتُوا وَبَقِيَتْ آنَا وَرَجُلٌ فُقْتَلَ مُرْتَدًا يَوْمَ الْبَيْمَاءَ .

ترجمہ: رسول اکرم ﷺ نے اپنی مجلس میں کچھ لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی (کے جسم) کا میلہ جہنم میں احمد سے زیادہ بڑا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سب کا انتقال ہو گیا۔ صرف میں باقی بچا

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبوث فرمایا ہے کہ آپ نے حرف بحرف بتا دیا کچھ نہیں چھوڑا ان کا واقعہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا۔ (خاصصِ کبریٰ جلد اصغریٰ ۲۵۹)

ان احادیث کریمہ میں سرکارِ القدس ﷺ نے جن باتوں کی خبر دی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پر زخم لگا کر شہید کئے جائیں گے، حضرت طلحہ بن عبد اللہ بھی شہید ہوں گے اور جگب موتہ جو ملک شام میں ہو رہی تھی۔ اس کے سارے حالات کو مدینہ منورہ سے ملاحظہ فرمانا اور تفصیل کے ساتھ حرف بحرف بیان کرنا سب غیب کی خبریں ہیں، جن کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب میں لکھ کر ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول ﷺ غیب جانے والے ہیں۔

### شرح بخاری علامہ عسقلانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۸۵۲ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سید عالم ﷺ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد قلب اطہر کو جب زم زم کے پانی سے دھویا تو فرمایا۔ قلب سدیند فِيْهِ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأَذْنَانَ تَسْمَعَانِ۔

ترجمہ: قلب مبارک ہر قسم کی کجھی سے پاک اور بے غیب ہے۔ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔

(فتح الباری شرح بخاری جلد ۱۳ صفحہ ۳۱۰)

معلوم ہوا کہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو علم غیب ہے۔ اس لئے کہ قلب مبارک کی آنکھیں اور کان غیب کی باتیں دیکھنے اور سننے کے لئے ہیں جیسا کہ حضور ﷺ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّى أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعَ مَا لَا تَسْمَعُونَ.

ترجمہ: میں وہ چیز دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو اور میں وہ سنتا ہوں جس کو تم نہیں سنتے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۵۷)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

لَهُ صِفَةٌ بِهَا يُنْرِكُ مَا سَيْكُونُ فِي الْغَيْبِ وَيُطَالِعُ بِهَا مَا فِي الْلَّوْحِ الْمَخْفُوظِ۔

## حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۹۱۱ ہجری)

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا۔  
سُتْضَرِبُ ضَرِبَةً هُنَّا وَضَرِبَةً هُنَّا وَأَشَارَ إِلَى صُدُعِيَّهُ فَيَسِيلُ ذَمَهُمَا حَتَّى  
تَخَضُّبَ لِحَيْثَكَ... لَهُ طرقٌ كثيرة عن علی رضی الله عنہ.

ترجمہ: تم عنقریب مارے جاؤ گے ایک ضرب یہاں اور ایک ضرب یہاں اور  
”حضور ﷺ نے اپنی کنٹیوں کی جانب اشارہ فرمایا“، تو ان جگہوں سے خون ہے گا  
یہاں تک کہ تمہاری دارجی رنگیں ہو جائے گی۔ (خاصیں کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۱۲۲)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ  
کے ساتھ میں حضرت علی کے یہاں گیا۔ وہ بیمار تھے اور ان کے پاس حضرت ابو بکر و  
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پلے سے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے دوسرے سے  
کہا کہ میرے خیال میں اب یہ انتقال ہی کر جائیں گے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔  
**إِنَّهُ لَنِ يَمُوتُ إِلَّا مَقْتُولًا**

وہ ہرگز انتقال نہیں کریں گے جب تک کہ قتل نہ کئے جائیں۔ (خاصیں کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۱۲۳)  
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کائنات ﷺ نے فرمایا۔  
**مَنْ أَحَبَ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلَيَنْتَظِرْ إِلَى  
طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ.**

ترجمہ: جو شخص کسی شہید کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبد اللہ  
کو دیکھے۔ (خاصیں کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۱۲۳)

نبی مسیح شریف میں ہے کہ جب حضرت ابو یعلیٰ بن منبه رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتیٰ کی  
خبر لے کر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کے حالات  
تم مجھے بتاؤ گے یا میں تجھے بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا۔ آپ ہی بتائیں۔ اللہ کے محبوب  
دانائے خناکیا وغیوب ﷺ نے وہاں کا پورا حال مفصل بیان فرمادیا تو حضرت ابو یعلیٰ نے کہا۔  
**وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكَ مِنْ حَدِيثِهِمْ حَرُقًا لَمْ تَذَكُرْهُ وَ إِنْ  
أَمْرَهُمْ لَكُمَا ذَكَرْتُ.**

ہوں جیسے کہ اپنی اس ہتھیلی کو۔ (زرقانی علی المواہب جلد ۷ صفحہ ۲۳۳)

رسول اکرم ﷺ کا برسات کی اندر ہیری رات میں حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو شیطان تھا اس کو اپنے یہاں سے دیکھنا اور یہ ارشاد فرمانا کہ میں قیامت تک ہونے والے واقعات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ سب غیب کی باشیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت علامہ زرقانی علیہ الرحمۃ والرضوان کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضور پیر عالم ﷺ کو علم غیب ہے۔ اسی لئے ایک دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں۔

قَدْ تَوَارَتِ الْأَخْبَارُ وَأَنْفَقَتْ مَعَانِيهَا عَلَى إِطْلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغَيْبِ.

بلاشبہ متواتر حدیثیں اور ان کے معانی اس بات پر متفق ہیں کہ حضور ﷺ غیب پر مطلع ہیں۔ (زرقانی علی المواہب جلد ۷ صفحہ ۱۹۸)

### حضرت ملا علی قاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - التوفی ۱۰۱۲ ہجری)

حضرت امام داری کے بیان عقیدہ میں پہلی حدیث جو لکھی گئی ہے اس کے تحت حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ جَمِيعُ الْكَائِنَاتِ الَّتِي فِي السَّمَاوَاتِ بَلْ وَمَا فَوْقَهَا وَالْأَرْضِ  
هِيَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ أَيْ جَمِيعُ مَا فِي الْأَرْضِينَ السَّبْعَ بَلْ وَمَا تَحْتَهَا.

ترجمہ: حضرت علامہ ابن حجر نے فرمایا یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آسمانوں بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام کائنات کو جان لیا اور ارض بمعنی جنس ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں۔ حضور ﷺ کو معلوم ہو گئیں۔ (مرقاۃ شرح مخلوٰۃ جلد ۱ صفحہ ۲۶۳)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

عِلْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُجْبِطٌ بِالْكُلَّيَاتِ وَالْجُزْئِيَاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَغَيْرِهَا.  
حضور ﷺ کا علم کلی اور جزئی تمام واقعات کو گھیرے ہوئے۔

(مرقاۃ شرح مخلوٰۃ جلد ۵ صفحہ ۱۶۲)

إِذَا تَنَوَّرَ الرُّوْحُ الْقُدُسِيَّةُ وَأَزْدَادَ نُورِيَّتُهَا وَأَشْرَقَهَا بِالْأَغْرَاضِ عَنْ

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان لیتے ہیں اور اس سے لوح محفوظ کی ساری باتیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ (فتح الباری جلد ۱۶ صفحہ ۲۱)

### حضرت علامہ زرقانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضاوی - المتوفی ۱۱۲۲ھجری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ بن نعمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندری رات میں جب کہ بارش بھی ہو رہی تھی کافی دیر تک حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم ﷺ نے ان کو سمجھو کی ایک شاخ عطا کی اور فرمایا۔

إِنْطَلِقُ بِهِ فَإِنَّهُ سَيُضِنُّ إِنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ عَشْرًا وَمِنْ خَلْفِكَ عَشْرًا فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْنَكَ فَسَرَرَى سَوَادًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَخْرُجْ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانَ فَانْطَلِقْ فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ وَوَجَدَ السُّوَادَ فَضَرَبَهُ حَتَّى خَرَجَ.

ترجمہ: اس کو لے جاؤ! یہ دس ہاتھ تمہارے آگے اور دس ہاتھ تمہارے پیچھے اجالا کرے گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو گے تو ایک سیاہی دیکھو گے۔ اس کو اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے۔ اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔ جب حضرت قادہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے لئے روشن ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس سیاہی کو پالیا تو اسے اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ (زرقانی علی المواہب جلد ۵ صفحہ ۱۹۵)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ رسول

الشَّيْطَانَ نَفْرَى فَرَمَى -  
إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَانَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفْيِ هُذِهِ .

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دنیا کے پردے اٹھا دیئے ہیں تو میں دنیا کو اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھتا

دے سکیں گے۔ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا دیکھئے اس کا جواب دیتے ہیں اور حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ میں تو ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گا بلکہ مجلس میں بیٹھ کر فیض زیارت اور فیض صحبت ہی حاصل کروں گا۔

جب ہم تینوں ان کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہاں بیٹھے پایا۔ انہوں نے ابن القاء کو تھرا لودنگاہوں سے دیکھا اور غصہ سے فرمایا اے ابن القاء خدا تیرا بھلانہ کرے۔ تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھنے کا جس کا مجھے جواب نہ آئے۔ کان کھول کر سن! تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ بیشک میں تجھ میں کفر کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عبدال اللہ! تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تمہاری بے ادبی کے سبب دنیا تم پر اتنا گور کرے گی کہ کان کی نوٹک تم اس میں ڈوب جاؤ گے۔ پھر حضرت عبدال قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے قریب بیٹھا کر بہت احترام کیا اور فرمایا اے عبدال قادر تم نے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کو راضی کر لیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد میں کرسی و عظیم پر تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں۔ قلمبی ہندہ علی رقبۃ کُلِّ ولیِ اللہ۔ ”یعنی میرا پاؤں کل ولی اللہ کی گردن پر“ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کے کل ولی اللہ، آپ کی عظمت کا اعتراف کریں گے اور اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ وہ غوث یہ فرماتے ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ پھر ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔

اس واقعہ کے بعد حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرب الہی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور عوام جو ق در جو ق آپ کے پاس آنے لگے اور میں نے آپ کا اعلان اپنی زندگی میں سنا جب وقت کے سارے ولیوں نے گرد میں جھکا دی تھیں اور ابن القاء علوم شرعیہ میں ایسا مستقر ہوا کہ وقت کے اکثر فقیہ اور علماء اس کی قابلیت کا لواہ ماننے لگے۔ وہ علم مناظرہ میں اس قدر حادی تھا کہ اپنے مدد مقابل کو چپ کر دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فصاحت اور وقار میں مشہور زمانہ ہو گیا۔ عباسی خلیفہ نے اسے خاص اپنے مصاحبوں میں داخل کر لیا اور شہنشاہ روم کی طرف اسے سفیر بنا کر بھیجا، جہاں اس نے شاہی دربار میں عیسائیوں کے پادریوں کو ایک مناظرہ میں چپ کر دیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی۔ ایک دن وہ بادشاہ روم کی جواں سال حسین لڑکی کو دیکھ کر دل

ظُلْمَةُ عَالَمِ الْجِنِّ وَ تَخْلِيَةُ الْقَلْبِ عَنْ صَدِئِ الطَّبِيعَةِ وَ الْمَوَاطِبِ عَلَى  
الْعِلْمِ وَ الْعَمَلِ وَ فَيْضَانِ الْأَنوارِ الْإِلَهِيَّةِ حَتَّى يَقُوَى النُّورُ وَ يَبْسِطَ  
فَضَاءُ قَلْبِهِ فَتَعْكِسُ فِيهِ النُّقُوشُ الْمُرْتَسِمَةُ فِي الْلَّوْحِ الْمَحْفُوظِ  
وَ يَطْلُبُ عَلَى الْمَغَيَّبَاتِ وَ يَتَصَرَّفُ فِي أَجْسَامِ الْعَالَمِ السُّفْلَى بَلْ  
يَتَجَلُّ حِينَئِذٍ الْفَيَاضُ الْأَقْدَسُ بِمَعْرِفَةِ الْتِي هُوَ الْشَّرْفُ الْعَطَابِيَا  
فَكَيْفَ بِغَيْرِهَا.

ترجمہ: جب روح قدیسہ منور ہو جاتی ہے اور عالمِ حس کی خلمت سے  
اعراض کرنے، آئینہِ دل کو طبیعت کے زنگ سے صاف کرنے، علم و عمل پر  
موازنیت کرنے اور فیضانِ انوارِ الہیہ کی وجہ سے یہ نور اور زیادہ قوی ہو کر  
فضائے قلب پر چھا جاتا ہے تو دل میں لوحِ محفوظ کے نقش مرتمی ہو جاتے  
ہیں اور وہ غیب کی باتوں پر مطلع ہو جاتا ہے اور عالمِ سفلی کے اجسام میں  
تصریف کرتا ہے بلکہ اس کے دل پر خدا تعالیٰ کی تمثیلیات وارد ہوتی ہیں۔ اللہ  
تعالیٰ کی اس معرفت کے سبب جو اشرفِ العطا یا ہے تو اس سے اور کوئی چیز  
کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ (مرقاۃِ مُکْلَوَۃ جلد اصفہنی ۲۲)

ان تحریروں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی  
عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ غیب داں ہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری باتیں جانتے ہیں  
اور ان کا علم تمام کلیات و جزئیات کو گھیرے ہوئے ہے بلکہ ہر وہ نفوس قدیسہ جن پر انوارِ  
الہی کا فیضان ہوتا ہے ان لوگوں کے دل میں لوحِ محفوظ کی باتیں منعکس ہوتی ہیں اور وہ  
بھی غیب داں ہو جاتے ہیں۔

اور حضرت ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن علی مصرون تھی شافعی بیان  
کرتے ہیں کہ میں تحصیلِ علم کے لئے بغداد آیا اور مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ابن ساقیر مرا  
ہم جماعت اور ہم سبق تھا۔ ہم دونوں عبادت کرتے اور اہل اللہ کی زیارت کے لئے نکل  
جاتے۔ بغداد میں ایک شخص کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غوث وقت ہے اور جب چاہتا ہے  
ظاہر ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں ابن القاء اور نو عمری  
کے زمانہ میں حضرت شیخ عبدالقدیر جیلانی اس غوث کی زیارت کو گئے۔ راستے میں ابن  
القاء نے کہا آج میں ان میں سے ایک ایسا علمی مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہیں

علمِ علیم کے مصدق ہوئے۔ (مدارج النبوة جلد اصحیح ۳)  
اور حضور ﷺ کے ذکر فضائل میں تحریر فرماتے ہیں۔

از زمان آدم تا نوح اولی بروئے علیہ السلام عنکشف ساختند تاہمہ احوال اور از اول و آخر معلوم گردد و یاران خود را نیز از بعضے احوال خبرداد۔

ترجمہ: حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صور پھونکنے تک سب حضور ﷺ پر ظاہر فرمادیا تاکہ اول سے آخر تک تمام احوال آپ کو معلوم ہو جائیں اور حضور ﷺ نے بعض حالتوں کی خبر اپنے صحابہ کو بھی دی۔

(مدارج النبوة جلد اصحیح ۱۲۲)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تحریروں سے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ حضور سید عالم ﷺ ایسے غیب داں ہیں کہ انہیں جزوی و کلی تمام علم حاصل ہیں اور وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن کل علوم کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔

### حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۶۷۷ھجری)

حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

فَاضَ عَلَىٰ مِنْ جَنَابِهِ الْمُقَدَّسِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِيَةُ تَرَفِيِ الْعَبْدِ مِنْ حَيْزِهِ إِلَى حَيْزِ الْقُدُّسِ فَتَجَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ۔

ترجمہ: مجھ پر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ و قدس سے فائض ہوا کہ بندہ کیسے اپنی جگہ سے ترقی کرتا ہے کہ ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے۔ (فیوض الحرمین صفحہ ۵۹)

اور یہی شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

الْعَارِفُ يَنْجِذِبُ إِلَى حَيْزِ الْحَقِّ فَيَصِيرُ عِنْدَ اللَّهِ فَتَجَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ۔  
عارف مقام حق تک جمع کر بارگاہ و قرب میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے۔ (فیوض الحرمین صفحہ ۵۹)

ان عبارتوں سے ظاہر ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کی ذات مبارکہ تو بہت ہی ارف و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ عام لوگوں میں سے جب کوئی بندہ اپنی جگہ سے ترقی کر کے بارگاہ و خداوندی کے قریب

دے بیٹھا۔ بادشاہ سے نکاح کی درخواست کی اس نے کہا اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ تو ابن القاء اسلام سے دست بردار ہو کر عیسائی بن گیا۔ اب اسے بغداد کے غوث کا کلام یاد آیا کہ یہ سارا قصہ ان کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اور میں دمشق میں آیا۔ سلطان نور الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے محکمہ اوقاف کا سربراہ مقرر کر دیا اور دنیا میری طرف بکثرت آئی۔

(زہرۃ الطاڑ الفاتح اردو صفحہ ۸۲)

راستہ میں ہر ایک کی کہی ہوئی بات کو بزرگ کا جان لیتا اور ہر ایک کے بارے میں آئندہ کی حالتوں کو واضح طور پر بتانا علم غیب ہے تو حضرت ملا علی قاری نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں لکھ کر ثابت کر دیا کہ اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔

### حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۱۰۵۲ ہجری)

مشکوٰۃ شریف صفحہ ۷ پر ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانے غیوب ﷺ نے فرمایا فَعِلْمَتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یعنی میں نے ان تمام چیزوں کو جان لیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔

حضرت شیخ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

ایں عبارت است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آں۔

ترجمہ حضور ﷺ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام جزوی و کلی علوم حاصل ہو گئے اور آپ نے ان کا احاطہ کر لیا۔ (فتح المعمات جلد اصغرہ ۳۳۳)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

وے مصطفیٰ ﷺ داناست بہہ چیز از شیوهات ذات الہی و احکام صفات حق و اماء و افعال و آثار و بجمع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر احاطہ نموده و مصدق

فوق کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیْمٌ شد۔

ترجمہ: پیارے مصطفیٰ ﷺ تمام چیزوں کے جانے والے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شانوں، اس کی صفتیں کے احکام اماء افعال، آثار اور تمام علوم اول و آخر اور ظاہر و باطن کا احاطہ فرمایا ہے اور آپ فوق کُلِّ ذِی

میں سے ایک سکے کی ضرورت ہے تاکہ جام کو دے کر سر اور داڑھی کی اصلاح کراسکوں۔  
میں نے پیسے ان کے سامنے رکھ دیئے اور چل پڑا۔ (العارفین اردو صفحہ ۸۲)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین میں ایک ایسا شخص مقیم تھا جسے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلاہ مبارک تمغا سلسلہ وار اپنے آباء و اجداد سے ملی ہوئی تھی۔  
جس کی برکت سے وہ شخص حرمین شریفین کے علاقے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور شہرت کی بلندیوں پر فائز تھا۔ ایک رات حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو (کشف میں) اپنے سامنے موجود پایا جو فرمائے تھے کہ یہ کلاہ ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے دو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر اس شخص کے دل میں آیا کہ اس بزرگ کی تخصیص یقیناً کوئی سبب رکھتی ہے۔ چنانچہ امتحان کی نیت سے کلاہ مبارک کے ساتھ ایک قیمتی جبہ بھی شامل کر لیا اور پوچھ چکھ کرتے ہوئے حضرت خلیفہ ابوالقاسم کی خدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا یہ دونوں تبرک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں اور انہوں نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ یہ تبرکات ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے دو۔ یہ کہہ کر تبرکات ان کے سامنے رکھ دیئے۔ خلیفہ ابوالقاسم نے تبرکات قبول فرمائے انتہائی سرگزشت کا اظہار کیا۔ اس شخص نے کہا یہ تبرک بہت بڑے بزرگ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ لہذا اس کے شکریے میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کر کے روؤسائے شہر کو مدعو کیجئے۔ حضرت خلیفہ نے فرمایا کل تشریف لانا۔ ہم کافی مقدار میں سارا کھانا تیار کرائیں گے۔ آپ جس جس کو چاہیں بلا لیجئے۔

دوسرے روز علی لقیح وہ درویش روؤسائے شہر کے ساتھ آیا۔ دعوت تناول کی اور فاتحہ پڑھی۔ فراغت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو متوفی ہیں۔ ظاہری سامان کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اس قدر کھانا کھاں سے مہیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس قیمتی جبے کو بچ کر ضروری چیزیں خریدی ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بچ اٹھا کر میں نے اس فقیر کو اہل اللہ سمجھا تھا مگر یہ تو مکار ثابت ہوا۔ ایسے تبرکات کی اس نے قدر نہیں کی۔ آپ نے فرمایا چپ رہو! جو چیز تبرک تھی وہ میں نے محفوظ کر لی ہے اور جو سامان امتحان تھا ہم نے اسے بچ کر دعوت شکرانہ کا انتظام کر ڈالا۔ یہ سن کر وہ شخص متتبہ ہو گیا اور اس نے تمام اہل مجلس پر ساری حقیقت حال کھول دی۔ جس پر سب نے کہا الحمد للہ تبرک اپنے مستحق تک پہنچ گیا۔ (انفاس العارفین اردو صفحہ ۸۷)

ہو جاتا ہے تو اس پر ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور وہ غیب جانے والا ہو جاتا ہے۔

اس قسم کی بہت سی عبارتیں ان کی تقینیفات میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے ایسے بے شمار واقعات لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے کرام غیب داں ہوتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات درج ذیل ہیں۔

آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالریحیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت میں مراقبہ میں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے لئے اس وقت کو چالیس ہزار برس کے برابر وسیع کر دیا گیا اور اس مدت میں آغاز آفرینش سے روزِ قیامت تک پیدا ہونے والی تخلوق کے احوال آثار کو مجھ پر ظاہر کر دیا گیا۔

(انفاس العارفین اردو صفحہ ۹۵)

اور شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجد ایک دفعہ شیخ عبدالقدوس کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں شربت گلاب پیش کرو۔ وہاں دو یوں تسلیم رکھی تھیں۔ لڑکے نے بڑی بوتل چھوٹ دی اور چھوٹی لاکر چیز کی۔ حضرت والد ماجد نے ہستے ہوئے فرمایا کہ بیٹے! بڑی بوتل کیوں چھوٹ آئے ہو وہ بھی لے آؤ۔

(انفاس العارفین اردو صفحہ ۱۲۵)

اور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ والد ماجد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے والد ماجد (یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دادا) کسی دور دراز کے سفر سے آئے ہوئے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ شہر سے باہر ہی باہر کسی دوسرے سفر پر چلے جائیں۔ مجھے طلب فرمایا۔ میں زیارت کے لئے چل پڑا۔ راستے میں میرا گزر ایک باروں بااغ سے ہوا۔ میں اس میں سیر و تفریح کرنے لگا۔ اس میں ایک درخت تھا جس کی شاخیں زمین سے گلی ہوئی تھیں۔ ان شاخوں کی اوٹ میں ایک مغلائی صورت کا مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آواز دی کہ دوست! دوست! کچھ دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھو! میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سلوک و مجاہدات کی باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ میں آغازِ سلوک میں ایک پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ جب دم کرتا تھا۔

یہ مجذوب بظاہر مولا نما قاضی قدس سرہ کے سلسلے سے نسبت رکھتا تھا۔ اسی اثناء میں کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ فلاں کھانا ہے اس میں سے تھوڑا میرے لئے منگواؤ۔ میں نے منگوادیا تو انہوں نے کھایا۔ پھر کہنے لگے۔ تمہاری جیب میں اس قدر پیسے ہیں۔ مجھے ان

میں بلا کر کہا کہ تجھے بارہ اشاروں کنایوں میں سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو شاید سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتوں سے بے خبر ہیں۔ خدا کی قسم اگر زمین کے نچلے طبقے میں رہنے والی کسی جیونٹی کے دل میں بھی سو خیالات آئیں تو ان میں سے ننانویں خیالات کو میں جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے سو کے سو خیالات سے باخبر ہیں۔ یہ سن کر خادم نے اپنی برائی سے توبہ کی۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۰۵)

اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حافظ عنایت اللہ نے بیان کیا کہ ایک فارغ التحصیل عالم بحث و تکرار سے بہت دلپسی رکھتا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں شہر دہلی کے تمام فاضل علماء کو مغلوب کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کبھی حضرت شیخ ابوالرضاء محمد کی مجلس میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہے؟ کہنے لگا سنا ہے کہ وہ عوام کو تفسیر حسینی پڑھ کر سنتے اور اسی سے وعظ کرتے ہیں۔ وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسا مت کہو! بلکہ ان کی زیارت کروتا کہ ان کا کمال علم اور سیرت تم پر واضح ہو سکے۔

اگلے جمعہ وہ مجلس وعظ میں آیا اور اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ مناظرہ کرے۔ حضرت شیخ نے اس کے خیالات سے مطلع ہو کر تاثیر کے ذریعے اس کا علم سلب کر لیا۔ یہاں تک کہ صرف وحو کا بھی کوئی قاعدہ اس کے ذہن میں نہیں رہ گیا اور آپ کا کلام سمجھنے سے عاجز ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ یہ حالت حضرت شیخ کے تصرف سے واقع ہوئی ہے۔ نادم ہوا توبہ کی اور خلوصِ دل کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گرید وزاری کی۔ حضرت نے اسے سارا علم واپس کر دیا اور پہلی حالت بحال کر دی۔ اس نے اظہارِ نیازمندی کیا۔ آپ نے فرمایا میں عالم نہیں ہوں صرف تفسیر حسینی سے عوام کو نصیحت کرتا ہوں۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۰۶)

اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالرضاء محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتقدین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں تصوف و عرفان کے بارے میں کثرت سے زبان پر سوالات نہیں لاتے تھے بلکہ اپنے اپنے سوالات دلوں میں لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب بھی کسی کے دل میں کوئی شبہ، سوال یا خیال وارد ہوتا تو آپ اس سے مخاطب ہو کر فوراً جواب دیتے۔ پھر بھی اگر شک باقی رہتا تو دوبارہ جواب دیتے۔ یہاں تک کہ سائل مطمئن ہو جاتا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۰۷)

اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سید عمر حصاری نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن

اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ محمد فاضل کی دختر "شریفہ خاتون" کم سن کے باوجود حضرت والا (یعنی حضرت شاہ عبدالرحیم) کی نورانیت کا عکس قبول کر چکی تھی۔ ایک رات حضرت والا محمد فاضل کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے ہاتھ سے شیع گرگئی۔ شریفہ نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ شیع فلاں جگہ گردی ہوئی ہے۔ چراغ لے جا کر دیکھا تو شیع وہیں پڑی تھی۔

اور ایک دن شریفہ اپنے گھر میں کہنے لگی کہ حضرت والا ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں اور فلاں کھانا کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کھانا تیار کیا گیا اور حضرت والا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے شریفہ کی باتوں کی تصدیق فرمائی۔ (انفاس العارفین اردو صفحہ ۱۳۷)

اور ایک دن شریفہ اپنے گھر میں تھی۔ حضرت والا بھی وہیں تھے۔ کہنے لگی فتح محمد ہمارے گھر کا ارادہ کر رہا ہے۔ پھر کہا۔ اب راستے میں کھڑا کسی سے بات کر رہا ہے۔ وہ خود دھوپ میں ہے اور دوسرا آدمی سایے میں کھڑا ہے۔ پھر کہنے لگی۔ اب اس نے تین نارنگیاں خریدی ہیں۔ دو اپنے دو بیٹوں کے لئے اور ایک حضرت والا کے لئے۔ پھر کہا اب اس کی نیت بدل گئی ہے۔ دو حضرت والا کے لئے اور ایک دونوں بیٹوں کے لئے نامزد کر دی ہیں۔ پھر کہنے لگی اب وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فتح محمد کے چانپے پر شریفہ کی ساری باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ (انفاس العارفین اردو صفحہ ۱۳۸)

حضرت شاہ عبدالرحیم پر ابتدائے آفرینش سے قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال کا ظاہر ہوتا، شیخ عبدالقدوس کے لڑکے سے ان کا یہ فرمانا کہ بڑی بوتل کیوں چھوڑ آئے ہو، مجدوب کا ان سے یہ کہنا کہ تمہارے ساتھ فلاں کھانا ہے اور تمہاری جیب میں اس قدر پیسے ہیں، حضرت ابوالقاسم کا سامان امتحان کو جان لینا اور شریفہ خاتون کو گھر میں بیٹھنے ہوئے باہر کی باتوں کل علم ہوتا اور دلوں کے خیالات سے واقف ہوتا سب غیب کی باتیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سارے واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ انبیاء تو انبیاء ہیں اولیاء اللہ بھی غیب جانتے ہیں۔

اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت شیخ ابوالرضاء محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خادم کسی بری عادت میں جتنا تھا۔ آپ نے اسے اشاروں کنایوں میں کئی بار تنبیہ فرمائی۔ گروہ اپنی حرکت سے باز نہیں نیا۔ بالآخر حضرت شیخ نے اسے تہائی

اطلاع بر لوح محفوظ و دیدن نقوش نیز از بعضی اولیاء تواتر منقول است۔  
ترجمہ: لوح محفوظ پر مطلع ہونا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مطالعہ کرنا بھی بعض اولیاء سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ (تفسیر عزیزی جلد اصغری ۲۳۶)

ان تحریروں سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ کو علم غیب ہے۔ وہ اپنی امت کے اچھے برے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے اخلاص و نفاق سے آگاہ ہیں بلکہ ان کے نزدیک اولیائے کرام بھی غیب داں ہیں۔ اس لئے کہ لوح محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اس میں مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو گا سب لکھا ہے۔ (تفسیر خازن)

## حضرت علامہ نبہانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۱۳۵۰ھجری)

امام الحمد شین عاشق رسول حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع العلوم تھے۔ ان کو بیک وقت امام رازی، علامہ جامی، علامہ روی، علامہ سیوطی اور شیخ محدث دہلوی کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ آپ نے چھوٹی بڑی پچاس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اب علم غیب کے متعلق واقعات کی روشنی میں ان کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ علاقہ حرض کے رہنے والے دو بھائی عوچہ گاؤں میں آئے۔ گاؤں کے قریب پہنچ تو حضرت محمد بن کبیر حکمی یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۱۷ھجری) کی خوبیوں کا چہرہ چاہنا، مگر انہیں صح نہ سمجھا۔ کافی عرصہ عوچہ میں قیام کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا باپ بیمار ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ اب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری دی تاکہ ان کی کیفیت و حالت کو بھی معلوم کر سکیں۔ حضرت شیخ کے پاس آ کر والد کی بیماری اور اپنی واپسی کی اطلاع دی۔ حضرت شیخ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر پہنچو گے جب باپ کی خدمت میں حاضری دو گے تو صح کی نماز کے لئے وضو کرتا ہوا پاؤ گے۔ وہ ایک پاؤ دھوچے ہوں گے اور دوسرا ابھی نہیں دھویا ہو گا۔ وہ دونوں بھائی حضرت شیخ کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ جب اپنے باپ کے پاس پہنچ تو وہی وقت تھا جو حضرت شیخ نے بتایا تھا اور وضو کی وہی حالت تھی جو انہوں نے ارشاد فرمائی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے حضرت شیخ کی ساری ارشاد فرمودہ بات لوگوں

حضرت شیخ ابوالرضاء محمد قدس سرہ طیح رنگ کی خوبصورت چادر اڈھے ہوئے ہرن کی خوشنما کھال پر تشریف فرماتھے۔ وہ چادر اور کھال میرے دل میں کھپ گئی۔ ویسی چادر اور کھال کی تلاش کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا۔ اس خیال کو جس قدر جھلتا دور نہ ہوتا۔ حضرت والا جب مجلس سے اٹھئے تو مجھے فرمایا کہ بیخوتم سے ایک کام ہے۔ پھر اس کھال پر شیرینی کے کچھ دھبے لگئے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے ہاتھ سے دھویا اور چادر و ہرن کی کھال کو ڈکر کے اپنے ہاتھ سے مجھے دے دیا اور فرمایا اولیاء کی مجلسوں میں ایسے خیالات دل میں نہیں لانا چاہیئے۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۰۳)

ان واقعات سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ اولیائے کرام دل کے خطرات، اس کے خیالات اور اس کی کیفیات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو ان واقعات کو اپنی کتاب میں وہ ہرگز شامل نہ کرتے۔

### حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۱۲۳۹ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

رسول علیہ السلام مطلع ست بے نور نبوت بر دین ہر دین بدین خود کے درکام درج ازیں دین من رسیدہ؟ و حقیقت ایمان او چیست؟ و حجابے کے بدال از ترقی محجوب ماندہ است کدام ست؟ پس او می شانسد گناہان شمارا درجات ایمان شمارا و اعمال بد و نیک شمار و اخلاص و نفاق شمارا۔ لہذا شہادت او بحکم شرح در حق امت مقبول و واجب لعمل ست۔

ترجمہ: رسول اکرم ﷺ اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجہ میں ہے؟ اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور کون سا حجاب اس کی ترقی میں مانع ہے۔ لہذا حضو ﷺ تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمانی درجات کو، تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے اخلاص و نفاق کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اس لئے ان کی گواہی بحکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب لعمل ہے۔ (تفصیر عزیزی جلد اصفہ ۲۳۶)

اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ملک اسمعیل کروی کہتے ہیں کہ میرے پاس بکریاں تھیں جن کا ایک چوڑا بھی تھا۔ وہ ایک دن صبح انہیں چرانے نکلا، مگر عادت کے مطابق شام کو واپس نہیں آیا۔ تو میں اس کی تلاش میں نکلا، لیکن نہ تو وہ ملا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر ملی۔ میں حضرت شیخ محمد بن ابو بکر قوام کی طرف گیا۔ آپ کو اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑا پایا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے، بکریاں گم ہو گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا بارہ آدمیوں نے انہیں ہائک لیا ہے اور فلاں وادی میں چوڑا ہے کو باندھ گئے ہیں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر نیند مسلط کر دے۔ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ فلاں جگہ جائیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹھی ہیں صرف ایک کھڑی ہے اور پچھے کو دودھ پلا رہی تھی میں سب بکریوں کو اپنے گاؤں ہائک لایا۔

(جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۷)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا اور شہر کے اکابر بھی جنازے کے ساتھ تھے۔ جب سب لوگ میت کو دفن کرنے کے لئے بیٹھے گئے تو قاضی، خطیب اور والی شہر ایک گوشے میں بیٹھے گئے۔ حضرت شیخ محمد بن ابو بکر قوام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے فقیر دوسرے گوشے میں بیٹھے ان کی گفتگوں رہے تھے۔ قاضی اور والی شہر کرامات اولیاء پر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کرامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خطیب نیک آدمی تھا۔ جب سب لوگ میت کے دارثوں کی طرف تعزیت کے لئے اکٹھے ہوئے تو کچھ لوگ حضرت شیخ کو سلام کرنے کے لئے بڑھے۔ حضرت نے فرمایا خطیب صاحب! میں آپ کو سلام نہیں کہتا۔ وہ کہنے لگے حضور! کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ اولیاء کی جب غیبت کی جا رہی تھی تو آپ نے تردید فرمایا کہ اولیاء کی طرف سے دفاع نہیں کیا۔ آپ پھر قاضی اور والی شہر کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے۔ آپ لوگ کرامات اولیاء کے منکر ہیں، بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے زمین میں کیا ہے؟ دونوں بوالے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے پانچ سیڑھیوں والا غار ہے۔ جس میں ایک شخص اپنی بیوی سمیت دفن کیا گیا ہے۔ اب وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تقریباً ہزار سال پہلے میں ان شہروں کا بادشاہ تھا۔ وہ غار میں تخت پر ہے اور اس کی بیوی بھی تخت پر ہے۔ ہم یہاں سے جگہ کھودے بغیر نہیں ہٹیں گے۔ مزدور بلایا گیا اور لوگوں کی موجودگی میں جگہ کھو دی گئی تو شیخ کے ارشاد کے مطابق سب کچھ موجود تھا۔ غاراب تک کھلا ہوا ہے

کو بتادی تو اس علاقہ میں بھی آپ کی بڑی شہرت ہو گئی۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۳۸) اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مصر کے شہر سہنور کے رہنے والے تھے۔ جب آپ کے پاس سے حضرت سیدی ابراہیم و سوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد گزرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ ان کے صلب میں ایک عظیم الشان ولی ہے جس کا شہرہ مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔

(جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۵۸)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی بن محمد صاحب مریط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۵۳ ہجری) نے بہت سے عجیب واقعات بتائے اور وہ اسی طرح ظہور پذیر ہوئے جس طرح آپ نے بتائے تھے۔ آپ نے بغداد کے غرق ہونے کی اطلاع دے دی تھی تو ہوایوں کہ دریائے دجلہ بچھر گیا اور شہر کی فصیل سے پانی اندر آگیا، وزیر کا گھر تباہ ہو گیا، خلیفہ کا اشتو ربعی پانی کی نذر ہوا، تین سو میں گھر دریا برد ہو گئے، گرنے والے مکانوں نے لاتعداد مخلوق کو پیس کر رکھ دیا اور بے قابو پانی نے بے شمار لوگوں کو نگل لیا۔ یہ جہادی الآخری ۶۵۳ ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ مسجد نبوی علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والسلیم جل جائے گی۔ تو ۶۵۲ ہجری ماہ رمضان کی پہلی تاریخوں میں ایسا ہوا۔ آپ نے تاریوں کے جملے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ یہ وہ حملہ تھا جس کی مثال اس گھونٹے والے آسمان نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں سب قبائل اور ساری خبائیں جمع ہو گئی تھیں۔ خلیفہ ۶۵۶ ہجری میں قتل ہو گئے اور ہر طرف تاری چھا گئے۔ یہ تینوں واقعات حضرت شیخ کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ آپ نے حضرموت میں شدید سیالاب کی بھی خبر دی تھی۔ یہ سیالاب بھی آیا۔ وادیاں الٹ پڑیں اور بہت سے شہر تباہی سے ہمکنار ہوئے۔ تقریباً چار سو آدمی موت کی نیند سو گئے۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۶۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابراہیم بطاخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مردی ہے کہ حضرت شیخ محمد بن ابو بکر قوام علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفی ۶۵۸ ہجری) حلب میں تشریف فرماتھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ فرمانے لگے میں اہل بیت کو اہل شمال (یعنی جنتیوں کو دوزخیوں) میں سے جانتا ہوں۔ اگر چاہوں کہ ان کے نام لوں تو نام لے سکتا ہوں، لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اور اس حق کو ہم خلق میں کھولنا نہیں چاہتے۔

(جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۶۶)

وہی طرف والے عالم سے فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر اس سے بعد والے کو اور پھر اس سے بھی بعد والے کو یوں ہی فرمایا۔ سب کے دلوں کے سوالات کو خود ہی پیش فرماتے اور خود ہی ان کے جوابات دیتے۔ ایک ایک کر کے سب کے سوالات کے جوابات اسی طرح دے دیتے۔ اب سب عالم حضرات وہاں سے اٹھے اور سب نے توبہ و استغفار کی۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۷۳)

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو لکھ کر واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ دلوں کے خیالات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ورنہ اس واقعہ کو بلا تردید وہ اپنی کتاب میں درج ہی نہ فرماتے۔

## اولیاء اللہ کے عقیدے

اللہ کے ولی، وہ مسلمان مخصوص بندے ہوتے ہیں جو بقدر طاقت بشری خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے عارف ہوتے ہیں، احکامِ شرع کے پابند ہوتے ہیں اور لذات و شہوات سے انہاک نہیں رکھتے۔ ان کے مختلف درجے ہیں، مگر سب اللہ تعالیٰ کے محبوں ہیں اور بڑی عظمت و بزرگی والے ہیں۔ اب علم غیب کے بارے میں ان کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

## حضرت امام باقر کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۱۱۲ هجری)

آپ نواسہ رسول ﷺ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندِ ارجمند ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔

ایک معتبر راوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہشام بن عبد الملک کے گھر کے پاس سے اس وقت گزرے جب کہ وہ اس کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ گھر خراب و خستہ ہو جائے گا اور لوگ اس کی مٹی تک کھو دکر لے جائیں گے۔ یہ پتھر جن سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے آپ کی اس بات سے تعجب ہوا کہ ہشام کے گھر کو کون تباہ دبر باد کر سکتا ہے مگر جب ہشام کا انتقال ہو گیا تو ولید بن ہشام کے حکم پر اس مکان کو گرا

اور حلب کی ایک سمت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۷۶)

دو شخصوں کو یہ بتانا کہ جب تم لوگ گھر پہنچو گے تو اپنے باپ کو وضو کرتا ہوا پاؤ گے اس حالت میں کہ ایک پاؤں دھو چکا ہوگا، دوسرا دھونا باتی ہوگا، باپ کی صلب میں عظیم الشان ولی کو دیکھ لینا، بغداد کے غرق ہونے، مسجد نبوی شریف میں آگ لگنے، تاتاریوں کے حملہ کرنے اور حضرموت میں سیلاہ کے آنے کی بہت پہلے خبر دینا، جتنی اور دوزخی کو جانتا، چواہا اور بکریوں کے بارے میں خبر دینا کہ وہ کہاں پر کس حالت میں ہیں اور یہ بتانا کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ سب علم غیر ہے۔ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سارے واقعات کو اپنی کتاب میں لکھ کر ثابت کر دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیائے کرام کو بھی علم غیر عطا فرماتا ہے۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ امام شمس الدین خابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں حلب کے مدرسہ سلطانیہ کے عالموں کے پاس حضرت شیخ محمد بن ابو بکر قوام علیہ الرحمۃ والرضوان کا اکثر ذکر خیر کیا کرتا تھا۔ وہ کہنے لگے۔ ہم آپ کے ساتھ حضرت سے ملنے چلیں گے اور ان سے فقہ و تفسیر وغیرہ کے مسائل پوچھیں گے۔ ہم سب آپ کی زیارت کا پروگرام ہنا کر چلنے ہی والے تھے کہ ایک فقیر آیا اور کہا کہ حضرت شیخ آپ کو طلب فرمائے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ کہاں تشریف فرمائیں؟ اس نے جواب دیا حضرت شیخ ابو الفتح کتابی کی خانقاہ میں ہیں جو آپ کے مرید ہیں۔ میں عالموں کی ایک جماعت کے ساتھ زیارت کے لئے لگا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو شیخ محمد عقیقی نے مجھ سے کہا ان عالموں کا کیا معاملہ نکلا۔ جب ہم آپ کی خدمت شیخ کی زیارت اور سلام کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ ہے؟ میں نے کہا حضرت شیخ کی زیارت اور سلام کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ کو گھور رہا ہے۔ (یعنی حضرت شیخ نے ان کی زبان بند کر دی ہے۔ اب وہ بول نہیں سکتے اور لگام لگادی ہے اور آپ کا سر (بھید) درندے کی شکل میں ہو کر ان میں سے ہر ایک کے چہرے سامنے شیر کی شکل ہے لہذا خوف زدہ ہیں۔ دراصل وہ حضرت کا علمی امتحان لینے آئے تھے۔

یہاں خود امتحان میں پڑ گئے۔ ”شیخ محمد عقیقی نے کشف سے یہ بات ملاحظہ فرمائی۔ مترجم“

جب محفل لگے ہوئے بہت دری گز رگنی اور ان حضرات میں سے کسی نے بولنے کی جسارت نہیں کی تو حضرت شیخ یوں گویا ہوئے حضرات! آپ لوگ کیوں نہیں بولتے اور کیوں نہیں سوال کرتے؟ پھر بھی کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب حضرت شیخ نے اپنی

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا منصور کو شرفِ حضور سے کون سی چیز مانع ہوئی؟ داؤد نے جواب دیا وہ سختِ مزاج ہے۔ امام نے فرمایا لازماً یہ شخص ایک دن تختِ خلافت پر متسلکن ہو جائے گا، لوگوں کی گردنوں کو روندڑا لے گا اور مشرق و مغرب پر چھا جائے گا۔ اس کی لمبی حکومت ہوگی اور اتنا مال اکٹھا کرے گا کہ اس کی مثال نہ ہوگی۔

داوود نے منصور کو حضرت کی یہ پیشین گوئی جا کر بتا دی۔ اب وہ شرفِ حضوری سے مشرف ہو کر معذرت کرنے لگا کہ مجھن آپ کے دبدبہ اور شکوہ کی وجہ سے پہلے حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر داؤد نے جو کچھ بتایا تھا اس کے متعلق حضرت امام سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہو کر رہے گا۔ منصور نے پوچھا کیا ہماری حکومت آپ سادات کی حکومت سے پہلے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بھی ہاں! پوچھنے لگا کہ اموی خاندان کی حکومت کا زمانہ زیادہ ہو گا یا ہماری حکومت کا؟ فرمایا تمہاری حکومت کا زمانہ زیادہ ہے۔ اس ملک کے ساتھ تمہارے نو عمر لڑ کے اس طرح کھلیں گے جیسے بچے گیند سے کھلیتے ہیں۔ میرے والد گرامی (حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مجھ سے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا۔ (جامع کرامات صفحہ ۳۶۷)

بہت پہلے اس بات کی خبر دینا کہ ہشام کا گھر کھود کر گرا دیا جائے گا، یہ بتانا کہ میری عمر صرف پانچ سال رہ گئی ہے، مکہ شریف سے آنے والے کو گھر کے اندر سے جان لیتا پھر اس کے بارے میں زیادہ سردی لگنے کی خبر دینا اور لوٹنڈی کے ساتھ غلط حرکت کو مکان کے اندر سے آگاہ ہو جانا سب غیب کی باتیں ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ یہ خیال نہ کرتا کہ درود یوار ہماری آنکھوں کے سامنے جواب ہوتے ہیں اور خلیفہ منصور کے واقعہ سے ظاہر ہوا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بھی غیب جانتے تھے۔

### حضرت امام جعفر صادق کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۱۲۸ھجری)

آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے حالات میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔

جتناب ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا۔ میرے ساتھ ایک لوٹنڈی بھی تھی۔

دیا گیا اور مٹی کو اس حد تک کھودا گیا کہ اس کی بنیاد کے پھر نظر آنے لگے۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ (شوائب الدبوۃ صفحہ ۳۱۸)

اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میری عمر صرف پانچ سال اور رہ گئی ہے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو ہم نے ماہ و سال گئے تو وہی مدت تکلی جتنی کہ آپ نے بتائی تھی۔ (شوائب الدبوۃ صفحہ ۳۱۹)

اور بزرگوں میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں مکہ معظمه میں تھا کہ مجھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں صرف اسی غرض سے مدینہ طیبہ گیا۔ جس رات میں وہاں پہنچا، سخت بارش ہوئی جس کے سبب سردی بہت بڑھ گئی۔ آدمی رات گزر گئی تب میں آپ کے گھر پہنچا۔ میں ابھی اسی فکر میں تھا کہ آپ کا دروازہ اسی وقت کھٹ کھٹاؤں یا صبر سے کام لوں یہاں تک کہ صحیح کے وقت وہ خود ہی باہر تشریف لے آئیں۔ اچانک آپ کی آواز سنائی دی۔ آپ نے فرمایا۔ اے لوڈی! فلاں شخص کے لئے دروازہ کھول دے۔ اس لئے کہ آج کی رات اسے سخت سردی لگ گئی ہے۔ لوڈی نے آکر دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا۔ (شوائب الدبوۃ صفحہ ۳۲۰)

ایک اور بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا اور دروازہ کھنکھٹایا۔ ایک لوڈی باہر آئی۔ وہ جوانی میں قدم رکھ رہی تھی۔ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے اس کے پستانوں کو چھوٹے ہوئے کہا۔ اپنے آقا سے کھوفلائ شخص دروازے پر حاضر ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ گھر میں آ جاؤ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ میں اندر گیا تو عرض کیا حضور! میرا ارادہ نہ انہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم صح کہتے ہو، لیکن کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ درود یوار ہماری آنکھوں کے سامنے دیے ہی بحیثیت حجاب ہوتے ہیں جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اگر ایسا ہو تو ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہی کیا رہا۔ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔ (شوائب الدبوۃ صفحہ ۳۲۲)

اور حضرت علامہ نبہانی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ابو بصیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں موجود تھا کہ منصور اور داؤد بن سلیمان مسجد شریف میں آئے۔ ابھی تک عباسی خاندان کو حکومت نہیں ملی تھی۔ (جس کے خلیفہ بعد میں منصور بنے والے تھے) داؤد حضرت امام

بیخا ہے؟ یہ سب غیب کی باتیں ہیں جن سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔

## حضرت امام موسیٰ کاظم کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ التوفی ۱۸۶ھجری)

آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحزادے ہیں۔ آپ کے ذکرے میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت شیق بنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفرِ حج میں قادر ہے پہنچا۔ وہاں میں نے ایک خوبصورت اور بلند قامت شخص کو دیکھا جو پشینہ کے کپڑے پہنچے ہوئے تھا۔ وہ ایک جگہ اکیلا جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ نوجوان طبقہ صوفیاء سے معلوم ہوتا ہے۔ شاید چاہتا ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں پر بوجہ نہ بنے۔ ضروری ہے کہ میں اس سے کہوں ایسا نہ کرے۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا اے شیق!

**اجتَبَوْا كَثِيرًا مِنَ الظُّنُونِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُونِ إِنَّمَا**

ترجمہ: زیادہ گمان کرنے سے بچو! اس لئے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ (پارہ ۲۶ رکوع ۱۳۷)

یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیئے۔ میں نے بہت تیز چلنے کی کوشش کی لیکن اسے نہیں پاس کا۔

پھر جب مکہ معظمہ پہنچا تو دیکھا کہ اس شخص کے پاس کئی غلام و خادم تھے۔ لوگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے۔ **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِبْرَهِيمَ رَسُولَ اللَّهِ**۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے منہ سے برجتہ نکلا۔ اس قسم کا واقعہ ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں۔

(شوادر المبہودہ صفحہ ۳۳۹)

ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مجاور تھا۔ میں نے ایک مکان کرایہ پر لے رکھا تھا اور زیادہ تر میں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن سخت بارش ہوئی۔ میں نے خدمت میں حاضر ہونے کا لباس پہننا۔ جب آپ

میں نے اس سے ہمبستی کی۔ اس کے بعد حمام میں جانے کے لئے باہر آیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لئے ان کے مکان پر جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم حضرت امام کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے تو آپ کی نظر مجھ پر پڑی۔ آپ نے فرمایا اے ابو بصیر! تمہیں شاید معلوم نہیں کہ چیخبر اور ان کی آل و اولاد کی قیام گاہوں پر جنابت کی حالت میں نہیں آنا چاہیئے۔ میں نے کہا اے ان رسول اللہ ﷺ! میں نے لوگوں کو آپ کی طرف آتے دیکھا تو مجھے اندر یہ ہوا کہ شاید آپ کی زیارت کی دولت پھر نصیب نہ ہو، اس لئے میں آ گیا۔ پھر میں نے توبہ کی اور کہا آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ اس کے بعد باہر آ گیا۔ (شوہید الدبوۃ صفحہ ۳۲۲)

ایک اور صاحب کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست تھا جس کو خلیفہ منصور نے قید کر دیا تھا۔ میری ملاقات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج کے موسم میں میدان عرفات میں ہوئی۔ آپ نے میرے اسی دوست کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا حضور! وہ دیسے ہی قید میں ہے۔ آپ نے دعا کی۔ پھر ایک گھنٹہ بعد فرمایا۔ خدا کی قسم! تمہارے دوست کو بری کر دیا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں حج سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اپنے اس دوست سے پوچھا کہ تمہاری رہائی کس دن ہوئی؟ اس نے بتایا کہ عرفہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ (شوہید الدبوۃ صفحہ ۳۲۲)

اور ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے کہ معظمت میں ایک چادر خریدی اور پکا ارادہ کیا کہ وہ کسی کونہ دوں گا تا کہ موت کے بعد میرے کفن کا کام دے۔ میں عرفات سے مزدلفہ واپس آیا تو چادر گم ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں علی اصح مزدلفہ سے منی واپس آیا تو مسجد خیف میں بیٹھ گیا۔ اچاک ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آ کر کہنے لگا کہ تجھے حضرت بلا رہے ہیں۔ میں فوراً آپ کے پاس گیا اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چادر تمہیں مل جائے؟ میں نے عرض کیا ہاں حضور! آپ نے اپنے غلام کو آواز دی جو ایک چادر لے کر آ گیا۔ میں نے پہچان لیا، وہی چادر تھی۔ آپ نے فرمایا اسے لے لو اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو! (شوہید الدبوۃ صفحہ ۳۲۳)

ابو بصیر کی حالت جنابت کو جان لینا، عرفہ کے دن قیدی کے چھوڑ دیئے جانے کو اسی روز میدان عرفات میں آگاہ ہو جانا، چادر کس کی ہے؟ کس کام کے لئے ہے؟ اور چادر والا کہاں

فلاؤ! یہ تیرے سوالوں کے جوابات ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی میرے سوالوں کے جوابات اس میں درج تھے۔ (شوابد الدبوۃ صفحہ ۳۲۸)

اور ایک راوی کا بیان ہے کہ ریان بن صلت نے مجھ سے کہا میری خواہش ہے کہ تم میرے لئے حضرت امام علی رضا سے اجازت لوتا کر میں آپ کی خدمت میں اس امید سے حاضری دوں کہ آپ مجھے اپنے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پہنائیں اور اپنے نام کے چند درہم بھی عطا فرمائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہوا اور ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ فرمانے لگے۔ ریان بن صلت چاہتا ہے کہ یہاں اس امید سے حاضر ہو کہ میں اسے کپڑے پہناؤں اور وہ درہم جو میرے نام سے جاری ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اسے بھی دوں۔ ریان بن صلت کو یہاں لے آؤ! ریان اندر گئے تو آپ نے انہیں دو کپڑے عطا فرمائے اور میں درہم دیئے۔ (شوابد الدبوۃ صفحہ ۳۲۹)

لڑکی کا فیروزہ خریدنے کے لئے کپڑا دینے کا واقعہ جو کوفہ میں ہوا تھا شہر مرد میں واقف ہو جانا پھر سوالات پیش کئے بغیر ان کو جان لیتا اور ریان بن صلت کی تمنا سے واقف ہوتا کہ وہ کپڑے اور درہم چاہتا ہے۔ سب غیب ہیں جن کو آپ نے ظاہر فرمایا۔ ثابت ہوا کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مجھے علم غیب حاصل ہے۔ ورنہ وہ ان باتوں کو زبان پر ہرگز نہیں لاتے اور نہ سوالوں کے جوابات لکھتے۔

### حضرت امام محمد تقیؑ کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۲۱۰ ہجری)

آپ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے ذکر میں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

جب خلیفہ مامون الرشید کا انتقال ہوا تو حضرت امام محمد تقیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وفات آج سے تمیں مہینے بعد ہوگی۔ جب خلیفہ مامون الرشید کے انتقال کو تمیں مہینے گزر گئے تب آپ کا وصال ہوا۔ (شوابد الدبوۃ صفحہ ۳۵۸)

اور ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت امام محمد تقیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں صالح نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور وہ آپ سے کفن کے

کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا اے فلاں!  
اپنے گھر واپس جاؤ! تمہارے گھر کی چھت تمہارے مال و اسباب پر گر گئی ہے۔ میں واپس آیا تو دیکھا واقعی میرے گھر کی چھت بہہ گئی تھی۔ میں نے چند مزدوروں کو بلایا جنہوں نے میرا سامان یچے سے نکالا۔ (شوائد النبوة صفحہ ۳۲۰)

حضرت شفیق بلخی کے دل کی بات سے واقف ہو کر ان کی بُدگانی دور کرنے کے لئے آمد کریمہ تلاوت کرنا اور مدینہ منورہ کے مجاور کی چھت گرنے کو اپنے گھر سے جان لینا علم غیب ہے۔ جنہیں آپ نے ظاہر فرمایا۔ ثابت ہوا کہ حضرت امام مویٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا غیب جاننا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔

## حضرت امام علی رضا کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۲۰۲ھجری)

آپ حضرت امام مویٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحزادے ہیں۔ آپ کے حالات میں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

اہل کوفہ میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ جب میں خراسان جانے کے لئے کوفہ سے روانہ ہونے لگا تو میری لڑکی نے مجھے ایک بہت اچھا کپڑا دیا اور کہا کہ اسے بچ کر میرے لئے فیروزہ خرید لائیے گا۔ جب میں مرد پہنچا تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے آ کر مجھے سے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گیا ہے۔ اس کے کفن کے لئے کپڑا ہمارے ہاتھ بچ دو۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں۔ یہ سن کر وہ سب چلے گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آقانے تجھے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا ہے جو تمہاری لڑکی نے دیا تھا کہ اسے بچ کر اس کے لئے فیروزہ خرید لو! ہم اس کی قیمت لائے ہیں۔

میں نے کپڑا نہیں دے دیا۔ اس کے بعد دل میں کہا کہ کچھ مسئلے آپ سے پوچھوں دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ چند مسئلے میں نے ایک کاغذ پر لکھ لئے اور صبح کے وقت آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہو گیا۔ وہاں پر لوگوں کا بہت ہجوم تھا کسی کو مجال نہ تھی کہ وہ اس بھیڑ میں آپ سے آسانی کے ساتھ مل سکے۔ میں حیرت کے عالم میں کھڑا تھا کہ آپ کا ایک غلام باہر آیا اور میرا نام لے کر ایک تحریر شدہ کاغذ مجھے دیا اور کہا اے

ایک شخص کو اس بات کی خبر دینا کہ تم تین دن کے بعد قبر میں رہو گے اور دوسرے کے متعلق فرماتا کہ یہ اس کھانے میں سے کچھ نہ کھا سکے گا۔ دونوں غیب کی باتیں ہیں۔ جن کی خبر دے کر حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ میں غیب جانتا ہوں۔

## حضرت امام حسین زکی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۲۶۰ ہجری)

آپ سید الشهداء حضرت امام حسین شہید کر بل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے تذکرے میں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔

ایک شخص کا بیان ہے کہ میں جیل خانہ میں تھا۔ جیل کی پریشانیوں کو لکھ کر میں نے حضرت امام زکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ میں کچھ پیسوں کے متعلق بھی لکھتا چاہتا تھا مگر شرم سے نہیں لکھا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم آج ظہر کی نماز اپنے گھر پر دھو گے اللہ کے فضل و کرم سے میں جیل سے چھوٹ گیا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھی۔ پھر اچاک مجھے آپ کا خادم آتا ہوا کھائی دیا جو میرے لئے سودینار لارہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو شرم نہ کرو ہم سے مانگ لیا کرو۔ (شوابد النبوة صفحہ ۳۶۵)

اور ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام زکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سائل پوچھنے کے لئے ایک خط لکھا اور میں چاہتا تھا کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی آپ سے پوچھ لوں، لیکن میں یہ لکھتا بھول گیا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں اور تم یہ بھی چاہتے تھے کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی پوچھوں، لیکن تم بھول گئے۔ دیکھو! آیت کریمہ یا نَارُ مُكُونِيْ بَرْدَا وَ مَلَامَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ کاغذ پر لکھ کر چوتھیا بخار والے کے گلے میں لٹکا دو۔ میں نے ایسا گئی کیا تو چوتھیا بخار دور ہو گیا۔

(شوابد النبوة صفحہ ۳۶۵)

حضرت امام زکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے شخص کے بارے میں جانا کہ آج وہ جیل خانہ سے چھوٹ جائے گا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھے گا اور پھر اس بات سے واقف ہونا

لئے کسی کپڑے کا خواہش مند ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ان باتوں سے بے پرواہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میں باہر آگیا، لیکن آپ کا ارشاد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر پتہ چلا کہ وہ تیرہ چودہ روز پہلے ہی مرچا تھا۔ (شوہید المبہوۃ صفحہ ۳۵۸)

یہ فرماتا کہ میری وفات آج سے تمیں ماہ بعد ہو گی اور کفن کا کپڑا اچاہنے والے کے بارے میں فرماتا کہ وہ اس سے بے پرواہ ہو چکا ہے سب غیب کی خبریں ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام محمد تقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے۔

## حضرت امام علی عسکری کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ التوفی ۲۵۲ ہجری)

آپ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام محمد تقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے حالات میں حضرت علامہ جائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

ایک شخص کے یہاں شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ تھی، جس میں شرکت کے لئے خلیفوں کی اولاد آئی ہوئی تھی۔ ان کی تعظیم کے لئے بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس مجلس میں ایک نوجوان ایسا تھا جو بے ادب تھا۔ بے کار باتیں کرتا تھا اور ہستا تھا۔ حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم خشنے مار رہے ہو اور اللہ کا ذکر بھول گئے ہو اور تمہیں خبر نہیں کہ تم تین دن کے بعد قبر میں رہو گے۔ یہ بات سن کر وہ نوجوان بے ادبی سے باز آگیا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تیرے دن مر گیا۔ (شوہید المبہوۃ صفحہ ۳۶۳)

اور ایک دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ اہل سامروں کے یہاں دعوت ولیمہ تھی۔ مجلس میں ایک لڑکا ایسا تھا جو بڑا بے ادب تھا۔ بے ہودہ باتیں کرتا تھا اور آپ کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص اس کھانے سے کچھ نہ کھا سکے گا۔ کھانا سامنے آیا اور وہ شخص کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہی چاہتا تھا کہ اس کا غلام روتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ آپ کی ماں کو شے سے گر کر مر گئی۔ جلدی چلنے والے شخص کھانا کھائے بغیر اٹھ کر چلا گیا۔ (شوہید المبہوۃ صفحہ ۳۶۳)

میں قرآن مجید حفظ کر لے گا اور تیری عمر ۹۳ سال ۶ ماہ اور ۷ دن کی ہو گی اور تیری موت تسلیتی کی حالت میں باریل کے مقام پر واقع ہو گی۔

ان کے صاحبزادے ابو عبد اللہ محمد بیان ہے کہ ۵۶۱ ہجری میں میری پیدائش شہرِ موصل میں ہوئی۔ میرے والد نے مجھے قرآن مجید حفظ کرنے کے لئے ایک نایبنا کو مقرر فرمایا اور جب انکا نام اور وطن دریافت کیا گیا تو انہوں نے اپنا نام علی اور وطن بغداد بتایا۔ اس وقت میرے والد کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا اور ان کی وفات بھی حضرت کے مطابق تسلیتی کی حالت میں باریل کے مقام پر ہوئی۔ (فلائد الجواہر صفحہ ۱۲۶)

اور شیخ زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی حج سے واپسی پر چہلی بار بغداد شریف پہنچے، لیکن وہاں ہماری کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ اس وقت ہم لوگوں کے پاس صرف ایک چھتری باقی پچھی تھی جسے بیچ کر ہم لوگوں نے کھانا خریداً لیکن وہ کھانا نہایت بدمزہ تھا۔ اس لئے ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانہ نہیں سکے۔ اس کے بعد ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے وعظ کہتا بند کر دیا اور فرمایا کہ دو غریب و مسکین حجاز سے یہاں آئے ہیں جن کے پاس ایک چھتری کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے وہ چھتری بیچ کر کھانا خریداً اگر وہ کھانا ان کو اچھا نہیں معلوم ہوا اس لئے ان کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ یہ سن کر ہم لوگوں کو بہت تجھب ہوا اور ہم دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ پھر حضرت نے وعظ ختم فرمانے کے بعد دستِ خوان بچانے کا حکم دیا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چوزہ کی تھی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں شہد کھاؤں گا۔ حضرت نے چوزہ کی تھی اور شہد لانے کا حکم دیا۔ جب خادم دونوں چیزیں لے کر آیا تو شہد میرے ساتھی کے سامنے رکھ دی اور تھیں میرے سامنے۔ یہ دیکھ کر حضرت نے فرمایا دونوں چیزیں بدل کر رکھو۔ یہ سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک چیخ ماری اور کوڈ کر حضرت کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا اے دیا مر مصر کے واعظ! مر جا۔

میں نے عرض کیا کہ میں تو سورہ فاتحہ بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہ بشارت تمہیں سناؤ۔ چنانچہ حضرت کے فرمانے کے مطابق میں نے بغداد شریف میں وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب میں نے حضرت سے مصعرکی واپسی کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا۔ جس وقت تم مشت چھپو کے تو وہاں

کہ اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔۔۔ اور دوسرا متعلق اس بات سے آگاہ ہوتا کہ وہ چوتھیا بخار کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ سب غیب کی باتیں ہیں، جنہیں آپ نے ظاہر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، ورنہ ان باتوں کے متعلق وہ ایسا ہرگز نہ فرماتے۔

### حضور سیدنا غوثِ اعظم شیخ عبدالقدیر جیلانی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارضاه عننا۔ المتوفی ۱۵۶۱ھجری)

- غوثِ صد اُن قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقدیر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ محتاجِ تعارف نہیں۔ علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ جانے کے لئے مندرجہ ذیل روایتیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ عَنْهُ فِي لُوحِ الْمَحْفُوظِ وَأَنَا غَائِصٌ فِي بَخَارِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى۔ یعنی میری آنکھ لوح محفوظ میں رہتی ہے اور میں اللہ کے علموں کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں۔ (زبدۃ الاسرار صفحہ ۸۱)

اور حضرت علامہ محمد سعید تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت ابوالحسن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم کو رات بھر میں کئی مرتبہ احلام ہوا اور اسے ہر مرتبہ خواب میں نئی صورت نظر آئی۔ جب صبح کو حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حالت بیان کرنا چاہی تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حضرت نے فرمایا رات میں تم کوئی بار احلام ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس لئے کہ جب میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو اس میں یہ درج تھا کہ توفلاں فلاں عورت سے زنا کرے گا۔ (یعنی حضرت نے ان عورتوں کے نام بھی بتا دیے) تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس نے بیداری کے واقعہ کو خواب میں بدل دیا۔ (فلائد الجواہر صفحہ ۱۳۰)

اور ابوالحسن حسین بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۱۵۶۰ھجری میں فرمایا کہ تم موصل شہر کی طرف چلے جاؤ! وہاں خدا تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ پہلے لڑکا پیدا ہو گا، اس کا نام محمد رکھنا۔ اس لڑکے کو ایک عجیب نام پینا چاہیے۔

قرآن مجید پڑھائے گا جس کا نام علی ہو گا اور تیرا بچہ سات سال کی عمر میں صرف سات

کھانا چاہتے ہیں؟ اس سے واقف ہوتا۔ دمشق والوں کا پہلے حملہ میں کامیاب نہ ہونے کو جانا اور بے وضو نماز پڑھنے کو جان لیتا۔ یہ سب غیر کی باتیں ہیں، جن کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ مجھے علم غیر حاصل ہے۔

## حضرت جنید بغدادی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ - المتوفی ۲۹۷ ہجری)

آپ حضرت سری سقطی علیہ الرحمۃ والرضاوں کے بھانجے اور مرید ہیں۔ تمام بزرگوں نے آپ کو سید الطائفہ یعنی صوفیوں کا امام اور پیشو اسلام کیا ہے۔ ان کے حالات میں حضرت داتا تاج بخش علی ہجویری ثم لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری زندگی میں لوگوں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ وعظ فرمائیں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تک میرے شیخ طریقت موجود ہیں، میں کلام نہیں کر سکتا۔

ایک رات خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا جنید! لوگوں کو اپنا کلام سناؤ! خدا تعالیٰ نے تمہارے کلام کو مخلوق کے لئے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ بیدار ہوئے تو دل میں خیال آیا، شاید اب میرا مقام شیخ طریقت سے اوپنچا ہو گیا ہے۔ اس لئے حضور ﷺ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔۔۔ صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب نماز سے جنید فارغ ہوں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی خواہش پر وعظ شروع نہ کیا۔ مثالیٰ بغدادی سفارش بھی رد کر دی۔ میں نے پیغام دیا، مگر راضی نہ ہوئے۔ اب تو حضور سید عالم ﷺ کا حکم ہو گیا ہے۔ ان کا فرمان بجالا!

حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ظاہر و باطن کے احوال سے پورے طور پر واقف ہیں۔ ان کا درجہ ہم سے اوپنچا ہے۔ اس لئے کہ وہ جنید کے اسرار سے واقف ہیں اور جنید ان کے حالات سے بے خبر ہے۔ (کشف الحجب صفحہ ۱۰)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جنید کا ایک مرید آپ سے ناراض ہو گیا اور سمجھا کہ اسے بھی مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اب اسے شیخ کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک دن وہ آپ کا

غازیوں کو مصر فتح کرنے کے لئے جنگ کی تیاری کرتے ہوئے پاؤ گے، لیکن ان سے کہہ دینا اب کی بارتم کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ دوسرے جملے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت کے ارشاد کے مطابق میں نے غازیوں سے کہا کہ اس مرتبہ تم کامیاب نہیں ہو گے، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور مصر پر حملہ کر دیا۔ ادھر جب میں مصر پہنچا تو وہاں خلیفہ کو ان کے مقابلہ کی تیاریوں میں لگا ہوا دیکھ کر میں نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مقابلہ کے لئے ضرور نہیں، جنگ میں یقیناً کامیابی آپ ہی کو حاصل ہوگی۔

دمشق والوں نے جب مصر پر حملہ کیا تو انہیں بری طرح نکلت ہوئی اور مصر کے خلیفہ نے مجھے اپنا مصاحب بنا کر حکومت کے تمام راز بتا دیئے اور جب دوسری مرتبہ دمشق والوں نے مصر پر حملہ کیا تو وہ کامیاب ہو گئے اور خلیفہ کو نکلت ہوئی۔ میرے اس جملہ پر کہ ”تمہیں اس مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ فتح حاصل ہوگی“، دمشق والوں نے مجھے بہت ہی انعام و اکرام سے نوازا۔ اس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں مجھے دونوں طرف سے ایک لاکھ دینار حاصل ہوئے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۲۳)

اور ابوالفرح بن جمای کا بیان ہے کہ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو سن کر یقین نہیں کرتا تھا اور ان کے ہونے کو ناممکن سمجھتا تھا، لیکن حضرت سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ اتفاقاً ایک ضرورت سے مجھے باب الازج جانا پڑا۔ واپسی پر ملاقات کی غرض سے میں حضرت کے مدرسہ میں گیا۔ اس وقت مسجد میں نماز کی اقامت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی عصر کی نماز ادا کر کے حضرت سے شرف ملاقات حاصل کریتا چلوں، لیکن جلدی میں مجھے یاد نہیں رہا کہ میں باوضو نہیں ہوں اور جماعت میں شامل ہو کر نماز میں نے پڑھ لی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صاحبزادے! اگر میرے پاس تم کوئی حاجت لے کر آتے تو میں اسے ضرور پوری کر دیتا، لیکن تمہاری غفلت کا تو یہ حال ہے کہ تم نے بغیر وضو ہی کے نماز پڑھ لی۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۰۸)

آنکھوں کا لوح حفظ میں رہنا، خادم کے کئی بار احتمام ہونے کو جان لیتا، ابوالحضر حسین صاحب کی اولاد کہاں ہوگی؟ ان کا لڑکا کس سے پڑھے گا؟ کتنے سال کی عمر میں اور کتنے دنوں میں قرآن مجید حفظ کر لے گا؟ اور ابوالحضر کتنے سال کی عمر میں کس حالت میں کہاں سریں گے؟ انساری ماںوں سے آگاہ ہونا۔ حج سے داویں ہونے والوں کی حالتوں کو جانتا اور وہ کیا

حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشنوی شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت بازیزید بسطامی علیہ الرحمۃ والرضوان کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ شہر "رے" کے علاقہ میں خرقان کی طرف سے انہیں خوشبو معلوم ہوئی اور اس خوشبو سے حضرت اس قدر مست ہوئے کہ چہرے کا رنگ کبھی سرخ ہوتا تھا اور کبھی سفید۔ ایک مرید نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہوا پاتا ہوں؟ فرمایا کہ اس طرف سے ایک دوست کی خوشبو آ رہی ہے، جہاں غفریب ایک بہت بڑا اللہ والا تشریف لانے والا ہے۔

بعد چندیں سال می زاید ہے می زند برآ سما نہا خر گئے

وہ اللہ والا اتنے سال کے بعد پیدا ہوگا جو آسمان کی بلندیوں پر اپنی آرام گاہ بنائے گا۔

حضرت ناش گفت نامش ابو الحسن حلیہ اش و اگفت زابرو تاذق

کسی نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا نام ابو الحسن ہے۔ پھر ان کا پورا حلیہ بیان فرمایا۔ ابرو کیسا ہوگا؟ ٹھوڑی کیسی ہوگی؟ سب بتادیا۔

قدِ او و حدِ او شکلِ او یک بیک و اگت زگیسو و رو

ان کے قد، حد، شکل و صورت اور بال وغیرہ کی حالتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔

حضرت کے بیان کے مطابق ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ پیدائش کو لوگوں نے نوٹ کر لیا۔

چوں رسید آں وقت و آں تاریخ راست زاں زمین آں شاہ پیدا گشت خاست

جب وہ وقت اور وہی تاریخ آئی تو خرقان میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ پیدا ہوئے۔

اس واقعہ میں حضرت بازیزید بسطامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے بہت پہلے ان کے بارے میں خبر دی۔ ان کا پورا حلیہ بیان فرمایا، شکل و صورت اور بال وغیرہ کے بارے میں بالتفصیل بتایا۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، جنہیں آپ نے ظاہر فرمائے کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔

نوٹ: حضرت بازیزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ۲۶۱ ہجری میں ہوا اور

حضرت ابو الحسن خرقانی کا ۳۳۵ ہجری میں۔ (نحوت الانس)

امتحان لینے کے لئے آیا۔ حضرت جنید اس کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہو گئے۔ اس نے کوئی بات پوچھی۔ آپ نے فرمایا۔ لفظی جواب چاہتے ہو یا معنوی؟ مرید نے کہا دونوں جواب چاہتا ہوں۔ فرمایا لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کر لیا ہوتا تو میرا امتحان لینے یہاں نہ آتا اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے ولایت سے خارج کیا۔ اس جملہ کے فرماتے ہی مرید کا چہرہ کالا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر نہیں کہ اولیاء واقف اسرار ہوتے ہیں۔ (کشف الحجب صفحہ ۲۰۹)

اور حضرت علامہ نبہانی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ محمد شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگل میں کوئی پر سے ایک ہرن کو پانی پیتے دیکھا۔ آپ کو بھی پیاس لگ رہی تھی۔ آپ جب کنوئیں کے قریب گئے تو ہرن بھاگ گیا اور پانی جو اوپر آپ کا تھا نیچے چلا گیا۔ آپ نے عرض کیا اے میرے پور دگار! کیا تیرے نزدیک میرا وہ مقام بھی نہیں جو اس ہرن کا ہے؟ آپ نے ایک بولنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا۔ ”تمہاری آزمائش کی گئی، مگر تم صبر نہ کر سکے، ہرن تو مشکیزے اور رسی کے بغیر کنوئیں پر آیا تھا اور تم یہ دونوں چیزیں لے کر آئے ہو“ پھر آپ نے کنوئیں کی طرف دیکھا تو بھرا ہوا تھا۔ آپ نے پانی پیا۔ طہارت کی اور اپنا مشکیزہ بھرا۔ پھر جو گئے اور واپس ہوئے، مگر مشکیزے کا پانی ختم نہیں ہوا۔

جب آپ حضرت جدید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ میرے باطنی احوال سے پورے طور پر واقف ہیں اور دوسرے واقع میں مرید کے دل کی کیفیت سے آگاہی کو ظاہر فرمائے آپ کا یہ کہنا کہ اولیاء واقف اسرار ہوتے ہیں اور حضرت محمد شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتے ہی ان کے کوئی والے واقعہ کے متعلق فرماتا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ حضرت جدید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ مجھے علم غیب حاصل ہے۔

### حضرت بايزيد بسطامي کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ - المتوفی ۲۶۱ ہجری)

آپ اپنے زمانہ کے امام الاولیاء اور سلطان الاصفیاء ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی میں کامل ہیں۔ آپ کی بزرگی ساری دنیا کو مسلم ہے۔ علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

## حضرت علی داتا گنج بخش ہجویری کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۱۳۶۵ھجری)

آپ اولیائے متقدمین میں سے ہیں، ظاہری اور باطنی علوم کے جامع ہیں۔ آپ کا مزار اقدس لاہور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار مُدنوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں چلہ کیا اور رخصتی کے وقت حضرت کی شان میں یہ شعر فرمایا۔

گنج بخش فیضِ عالم مظہر نورِ خدا  
ناقصان را پیر کامل کاملاں را رہنا

علم غیب کے بارے میں حضرت کا عقیدہ جاننے کے لئے مندرجہ ذیل واقعات ملاحظہ ہوں۔

خود حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے بیان کیا کہ وہ ایک دن حضرت ابوعلی بن حسین دقاقد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ متوكلوں کی کیفیت کے متعلق ان سے کچھ دریافت کرے۔ حضرت طبرستان کا بنا ہوا خوبصورت عمامہ (پگڑی) باندھے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے سوال کیا۔ ”توکل علی الحق“ کیا چیز ہے؟ فرمایا لوگوں کی پگڑیوں کو لاج کی نظر سے نہ دیکھنے کو توکل کہتے ہیں۔ یہ فرمایا اور پگڑی اتار کر بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دی۔ (کشف الحجب صفحہ ۲۲۲)

اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید فضل اللہ میہنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیشاپور سے طوس چار ہے تھے۔ راستے میں ایک ٹھنڈی وادی تھی۔ سردی کی وجہ سے آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک درویش آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے کمر بند کو چھاڑ کر آپ کے دوپوں میں لپیٹ دے۔ پھر اس خیال سے رک گیا کہ کمر بند بہت خوبصورت ہے۔ اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ طوس پہنچ کر وہ درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا۔ وہ سہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کمر بند چھاڑ کر پاؤں پر لپیٹ دینے کا خیال الہام تھا اور جو چیز روکنے والی تھی وہ وہ سہ تھا۔ (کشف الحجب صفحہ ۲۲۷)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابوالفضل محمد ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دفعو کروارہا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ جب ہر کام تقدیر سے ہوتا ہے تو آزاد لوگ

## امام الاولیاء حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۶۳۲ ہجری)

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ عراق کے ان بزرگوں میں سے ہیں جن پر حکومت باطنی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ عالم و فاضل تھے اور بہت فصح و بلیغ کلام فرماتے تھے۔ نہ صرف آپ کو علمِ لدنی حاصل تھا، بلکہ غیب کے حالات بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اکثر خارقی عادات کرامات کا آپ سے ظہور ہوتا تھا۔ کتاب و سنت پر شدت کے ساتھ عمل پیرا تھے اور شریعت و طریقت میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ مزارِ مقدس بغداد شریف میں ہے۔ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کے پاس غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاتِ خود تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شہاب الدین! تم مشاہیر کے آخری فرد ہو۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۹۱)

اور علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے مصاحب شیخ نجم الدین نقظیؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ سہروردی کے مجرۂ عبادت میں داخل ہوا۔ وہ ان کے چلہ کا آخری دن تھا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ شیخ ایک بہت بلند پہاڑ پر ہیں اور آپ کے سامنے جواہرات کا انجام لگا ہوا ہے اور آپ مٹھیاں بھر کر لوگوں کی جانب پھینکتے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ کر اٹھا رہے ہیں۔ جب موئی کم ہوتے تو وہ خود بخود بڑھ جاتے۔ جب آپ چلہ سے باہر آگئے تو میں اس واقعہ سے ذہن کو یکسر خالی کر سوگیا۔ دوسرے دن جب میں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہی تو آپ نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی فرمایا کہ صاحبزادے! تم نے جو کچھ سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ورنہ غیب کی باتوں کو وہ زبان پر ہرگز نہ لاتے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۹۱)

بقول حضرت تادنی علیہ الرحمۃ آپ غیب کے حالات بھی بتا دیا کرتے تھے اور بقول شیخ نقظیؒ آپ نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی فرمادیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ورنہ غیب کی باتوں کو وہ زبان پر ہرگز نہ لاتے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خود اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں علمِ غیب رکھتا ہوں۔ درمیان میں ہزاروں جیبات ہونے کے باوجود کعبہ، معظمہ کو بھیں سے دیکھ رہا ہوں اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔

## زبدۃ العرفاء حضرت علامہ شٹنوفی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۱۳۷۱ھجری)

آپ کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے حسن الماحضرہ میں الامام الاوحد یعنی بن نظیر امام تحریر فرمایا ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے الدولۃ المکیۃ میں آپ کو عارفِ الجبل، ولیِ الامل اور زبدۃ العرفاء لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب بہجۃ الاسرار شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابوالعفاف موسیٰ بن عثمان نے ۶۶۳ھجری میں ہم سے شہر قاہرہ میں بیان کیا کہ میرے والد ماجد ابوالعالیٰ عثمان نے ہمیں ۶۱۳ھجری میں شہرِ دمشق میں خبر دی کہ ہمیں دو بزرگ حضرت ابو عمر و عثمان صریفینی اور حضرت ابو محمد عبد الحق حریکی نے ۵۵۹ھجری میں بغداد شریف میں خبر دی کہ ہم ۳ صفر بروز یکشنبہ (اتوار) ۵۵۵ھجری میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر تھے تو حضرت نے وضو کر کے کھڑاؤں پہنی اور دور کعت نماز پڑھی۔ سلام کے بعد ایک عظیم نفرہ مارا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں چھکی۔ پھر دوسرا نفرہ مار کر دوسری کھڑاؤں چھکی۔ وہ دونوں ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر حضرت نے تشریف رکھی، مگر ہبہت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ۲۳ دن کے بعد ہم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا ہمارے پاس حضرت کی ایک نذر ہے۔ ہم نے حضرت سے اس نذر کے لینے میں اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا لے لو! انہوں نے ایک من ریشم، خرز کے تھان، سونا اور حضرت کی کھڑاؤں جو اس روز ہوا میں چھکی تھی پیش کی۔

ہم نے ان سے پوچھا یہ کھڑاؤں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا ہم ۳ صفر یکشنبہ کو سفر میں تھے کہ بہت سے ڈاکوں دوسراوں کے ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے مال لوٹ لئے اور کچھ آدمیوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک نالے میں مال تقسیم کرنے کے لئے اترے۔ نالے کے کنارے ہم تھے۔ فَقُلْنَا لَوْ ذَكَرْنَا الشَّيْخَ عَبْدَالْقَادِرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَ نَذَرْنَا لَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِنَا إِنْ مَلِمْنَا۔ یعنی ہم نے کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم

کیوں کرامت کی امید پر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عزیزِ مکن! میں تیرے دل کی کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیئے کہ ہر چیز کے لئے سب ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کسی شخص کو تخت و تاج سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے پروردگر دیتا ہے تاکہ وہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔  
(کشف الحجوب صفحہ ۲۲۸)

اور حضرت داتا حنخ بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابوالقاسم بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اپنے حالات و مشاہدات بیان کر رہا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ ناقد وقت ہونے کی حیثیت سے میری کیفیت پر نظر فرمائیں۔ وہ نہایت توجہ سے سن رہے تھے۔ میں نے پندرہ طفیل اور زور جوانی میں بیان کو طول دیا اور دل میں سوچا کہ غالباً یہ بزرگ ان مقامات سے نہیں گزرے ہیں۔ ورنہ اس انہاک اور نیازمندی سے نہ نشترے۔ انہوں نے میرے دل کی کیفیت کو سمجھ لیا اور فرمایا جان پدر! میرا خصوص اور انہاک تیرے لئے یا تیرے احوال کے لئے نہیں ہے بلکہ اس ذات کے لئے ہے جو خالق احوال ہے۔ یہ چیزیں ہر طالب کو پیش آتی ہیں۔ تیرے لئے کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ (کشف الحجوب صفحہ ۲۵۰)

ایک بزرگ کا لائق کی نظر سے گپڑی کے دیکھنے کو جان لینا، دوسرے کا کمر بند پھاڑنے کے ارادہ سے واقف ہونا اور تمیرے وچھتے کا دل کی کیفیت سے آگاہ ہونا، سب غیب کی باتیں ہیں جن کو حضرت داتا حنخ بخش علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائیں کہ بزرگان دین کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔  
اور سفیہۃ الاولیاء میں ہے کہ جب حضرت داتا حنخ بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور میں قیام فرمایا تو مسجد کی تعمیر شروع کی جس کی محراب لاہور کی دوسری مسجدوں کی بہ نسبت جنوب کی جانب سچھ زیادہ جھلکی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ وہاں کے علماء نے اعتراض کیا، مگر آپ خاموش رہے۔ پھر جب مسجد تیار ہوئی تو آپ نے شہر کے تمام علماء اور فضلاء کو دعوت دی اور خود امام ہو کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد سب لوگوں کے من قبلہ کی جانب کے کھڑا کیا اور فرمایا دیکھو! قبلہ کس طرف ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سب لوگوں کی نگاہ ہوں سے سارے حجایات اٹھ گئے۔ کعبہ، معظمه سامنے ہو گیا اور اسے ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ (حدائق الحکیم صفحہ ۱۹۸)

لور چیک عجمی نے بحثا بھوا گوشت کھاتا چاہا لور عراقی نے چاول کے ساتھ بیج لور شامی نے شامی سب کھاتا چاہا لور یمنی نے انداز میں برشت لور کسی نے اپنی خواہش دوسرے کو نہیں بتائی لور عنقریب ان کے کھانے ان کی خواہشات کے مطابق بہت زیادہ ہمارے پاس آئیں گے۔ **وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.**

ابوالجہد نے فرمایا خدا کی قسم ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت شیخ کے فرمانے کے مطابق پانچوں آگئے اور ان کے طیوں میں ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ میں نے مصراویٰ سے اس کی ران کے زخم کا حال پوچھا تو اسے میرے دریافت کرنے پر بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ یہ زخم مجھے تم سے بر سر پہلے لگا تھا۔ پھر ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق کھانے کی تمام قسمیں تھیں۔ اس نے سب کو حضرت شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر شیخ نے اسے حکم فرمایا تو اس نے ہر ایک کے سامنے اس کی خواہش کی چیز رکھ دی اور ان سے فرمایا جو تم چاہتے ہو وہ کھاؤ تو ان لوگوں پر غشی طاری ہو گئی۔

جب افاقہ ہوا تو یمنی نے حضرت شیخ سے عرض کیا کہ اے سردار! کیا تعریف ہے اس شخص کی جو حقوق کے بھیدوں سے آگاہ ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ اس نے جان لیا کہ تو کافر ہے اور تیرے کپڑوں کے نیچے زیارت ہے۔ یہ سن کر وہ شخص جیخ پڑا اور شیخ کی خدمت میں کھڑے ہو کر اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا! ہر وہ شخص جس نے مشائخ میں سے تجھے دیکھا تو یقیناً تیرا حال جان لیا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر ہے۔ اس لئے وہ تیری بات سے رک گئے۔

اور بلاشبہ ان کی وفات ولیٰ ہوئی جیسی کہ حضرت شیخ نے خبر دی تھی اسی وقت مذکور پر اور یعنہ اسی جگہ بلا تقدیم و تاخیر کے اور عراقی شیخ کے اسی زاویہ میں مہینہ بھر یہاں رہنے کے بعد مرا اور میں اس کے جنازہ کے نمازوں میں سے تھا اور شامی مرآہمارے پاس حریم میں۔ میرے گھر کے دروازہ پر پڑا تھا۔ مجھے آواز دی گئی میں باہر آیا تو ناگاہ وہ ہمارا رفیق شامی تھا۔ اس کی موت میں اور اس وقت میں کہ شیخ نے فرمایا تھا بالکل ٹھیک سات برس تین مہینے سات دن تھے۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۰۰)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اس واقعہ کے کل غبیوں کی تفصیل یوں تحریر فرماتے ہیں۔ عنقریب ہمارے پاس پانچ آدمی آئیں گے۔ ان میں ایک عجمی ہے، دوسرا عراقی، تیرا مصری، چوتھا شامی اور پانچواں یمنی۔ یہ کل آٹھ غیب

حضرت غوثِ اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر کچھ مال حضرت کے لئے نذر پیش کریں۔

ہم نے حضرت کو یاد ہی کیا تھا کہ دو عظیم نفرے سے گئے جن سے جنگل گونخ اخھا اور ہم نے ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے کہ ان پر کوئی اور ڈاکو آپڑے۔ وہ بھاگ کر ہمارے پاس آئے اور بولے اپنا مال لے لو اور دیکھو، ہم پر کسی مصیبت آپڑی۔

ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک کھڑاؤں پانی سے بھیکی ہوئی رکھی ہے۔ ڈاکوؤں نے ہمارے سب مال ہمیں واپس کر دیئے اور کہا کہ اس واقعہ کی کوئی عظیم الشان خبر ہے۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۲۷)

اور حضرت علامہ شٹنونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو شیخ ابوالفتوح داؤد بن ابوالمعالی نصر بن شیخ ابو الحسن علی بن شیخ ابوالمجد مبارک بن احمد بغدادی حریمی خبلی نے۔ انہوں نے کہا خبر دی مجھ کو میرے والد نے کہ میں نے اپنے دادا ابوالمجد سے نا وہ فو ماتے تھے کہ میں ایک دن حضرت شیخ مکارم علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس ان کے گھر نہ رخاصل پر تھا (جو حضرت شیخ علی بن ہبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبیل القدر خلفاء میں سے ہیں)۔

میرے دل میں خیال گزرا کہ کاش میں حضرت کی کچھ کرامت دیکھتا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف توجہ کی اور فرمایا۔ عنقریب پانچ آدمی ہمارے پاس آئیں گے۔ ان میں سے ایک گورا سرخ رنگ والا ہے جس کے رخسار پر ٹل ہے۔ اس کی عمر کے صرف ۹ مہینے باقی ہیں۔ پھر اسے بطاچ میں شیر پھاڑ ڈالے گا اور خدا تعالیٰ اسے دیں سے اٹھائے گا اور دوسرا عراق کا رہنے والا جو سرخ و سفید اور کانا و لٹکڑا ہے وہ ہمارے پاس ایک مہینہ پیار رہ کر مرجائے گا اور ایک مصر کا رہنے والا گندمی رنگ کا ہے۔ اس کے باہم ہاتھ میں چھ انگلیاں ہیں اور اس کی باہم ران میں نیزے کے زخم کا نشان ہے جو اسے تیس برس پہلے لگا تھا۔ وہ ہندوستان میں تجارت کرتے ہوئے تیس برس بعد مرے گا۔

اور ایک شامی گندم گوں ہے جس کی انگلیوں میں گٹھا ڈا ہوا ہے۔ وہ زمین حرمیں میں تیرے گھر کے دروازہ پر سات برس تین مہینے سات دن کے بعد مرے گا اور ایک یمن کا رہنے والا جو گورے رنگ کا ہے وہ کافر ہے۔ اس کے لباس کے نیچے زنار (جینو) ہے۔ تین برس ہوئے وہ اپنے ملک سے نکلا ہے اور اب تک اپنا کافر ہونا اس نے کسی کو نہیں بتایا تاکہ وہ مسلمانوں کو جانچ کر کون اس کا حال ظاہر کرتا ہے۔

## امام الاولیاء حضرت بہاؤ الدین نقشبند بخاری کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتوفی ۹۱۷ھجری)

آپ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مرہد اعظم ہیں اور اکابرین آئمہ صوفیہ کے قائد ہیں۔ نقشبندی سلسلہ آپ ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت ۷۴۷ھجری میں ہوئی اور وفات ۹۱۷ھجری میں۔ آپ کا مزار مبارک بخارا سے چار کلو میٹر دور قصر عارفان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ علم غیب کے بارے میں حضرت کا عقیدہ جانتے کے لئے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان کے ایک خادم کا بیان ہے کہ میں شہر مرود میں حضرت کی خدمت میں تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا جو بخارا میں تھے۔ اس لئے کہ مجھے اپنے بھائی شمس الدین کی موت کی خبر ملی تھی۔ میں حضرت سے اجازت لینے کی جرأت نہ کر سکا۔ میں نے امیر حسین سے التاس کیا کہ مجھے حضرت والا سے بخارا جانے کی اجازت دلوادیں۔ حضرت نمازِ جمعہ کے لئے نکلے اور جب مسجد سے واپس ہوئے تو امیر حسین نے میرے بھائی کی موت کا ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسی خبر ہے وہ تو زندہ ہے اور یہ دیکھو اس کی خوشبو مہک رہی ہے۔ میں تو اس کی خوشبو کو بالکل قریب پاتا ہوں۔ ابھی حضرت کا ارشاد گرامی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بھائی بخارا سے آگیا۔ اس نے آ کر حضرت کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا امیر حسین! یہ دیکھو شمس الدین ہیں۔ حاضرین پر اس واقعہ کا بڑا اثر ہوا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۶۳۲)

اور حضرت علامہ نبہانی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا میں تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مولیٰ نجم الدین سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں چوری کا حکم دوں تو چوری کرو گے؟ وہ بولے نہیں حضور! آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کیا حقوق اللہ میں کوتا ہی ہو تو اس کا مدارک توبہ سے ہو جاتا ہے لیکن چوری کا تعلق تو حقوق العباد سے ہے اس کی تلافی توبہ سے نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر ہمارا حکم نہیں مان سکتے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دو۔ مولیٰ نجم الدین بہت پریشان ہوئے۔ توبہ کی اور عہد کیا کہ اب حضرت کے کسی حکم کی بھی نافرمانی نہیں ہوگی۔ لوگوں نے ان کی سفارش کی اور

ہوئے۔ پھر عجمی کے متعلق گیارہ غیبیوں کی خبر دی کہ وہ گورا ہو گا، اس کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی ہو گی، اس کے تل ہو گا، تل رخسار پر ہو گا اور وہ رخسار داہنا ہو گا۔ گوشت کی خواہش کرے گا اور خواہش بھنے ہوئے گوشت کی ہو گی نہ کہ پکے ہوئے کی ہو گی اور نہ سوکھے کی۔ وہ نومہینہ بعد مر جائے گا اور اس کی موت شیر کے چھاؤنے سے ہو گی اور بطاخ میں ہو گی اور وہیں دفن کیا جائے گا اور وہاں سے منتقل نہ ہو گا اور وہیں سے اس کا حشر ہو گا۔

اسی طرح عراقی متعلق گیارہ غیبیوں کی خبر دی۔ وہ گورا ہے، اس میں سرخی جملکتی ہے، اس کی آنکھ میں مکھلپی ہے، اس کے پاؤں میں لٹنگڑاپن ہے، وہ بُلٹج چاہے گا اور یہ کہ اسے چاولوں کے ساتھ کھائے گا اور یہ شخص بیمار ہو گا۔ ایک مہینہ تک مرض میں بیٹلا رہے گا اور اسی سے مر جائے گا، یہیں مرے گا اور ایک مہینہ بعد مرے گا۔

اور مصری کے متعلق پندرہ غیبیوں کو بیان فرمایا۔ وہ گندم گوں ہو گا، چھا گنگر ہو گا، چھٹی انگلی باہمیں ہاتھ میں ہو گی۔ اس کے نیزے کا زخم ہو گا، ران میں ہو گا، باہمیں ران میں ہو گا اور یہ زخم اس کا پورا نہ ہو گا اور تیس برس پہلے کا ہو گا اور وہ شہد کی خواہش کرے گا، شہد خالص نہیں بلکہ کھنی سے ملا ہوا، وہ تاجر ہو گا، اس کی تجارت گاہ ہندوستان میں ہو گی، اپنی آخری عمر تک تجارت ہی کرتا رہے گا، وہ ہندوستان میں مرے گا اور اس کی موت تیس برس کے بعد ہو گی۔ اور شامی کے متعلق نو غیبیوں کی خبر دی۔ وہ گندی رنگ کا ہو گا جس میں سفیدی غالب ہو گی، موٹے موٹے گھٹھے پڑی ہوئی انگلیوں والا ہو گا، سیب کی خواہش کرے گا، شامی سیب چاہے گا، زمین حریم میں مرے گا، اس کی موت ابوالاجد کے گھر کے دروازے پر ہو گی۔ اس کی عمر میں سات برس مہینوں میں سے تین مہینے اور دنوں میں سے سات دن باتی رہ گئے ہیں۔ (الدولۃ الالکیہ صفحہ ۱۷۱)

پہلے واقعہ میں دور دراز مقام سے قافلہ والوں کے یاد کرنے کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جان لیتا، پھر ان کو کس طرح کی مدد چاہیئے۔ اس سے واقف ہونا اور ڈاکوؤں کے وہ سردار ہیں اس سے آگاہ ہونا۔ اور دوسرے واقعہ میں حضرت شیخ مکارم علیہ الرحمۃ والرضوان کا پانچ آدمیوں کے بارے میں گزشتہ اور آئندہ کی تمام خبریں دینا سب غیب کی باتیں ہیں۔ ان واقعات کو لکھنے سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کو علم غیب ہوتا ہے۔ علامہ فطہونی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اگر وہ ایسا اعتقاد نہ رکھتے تو ان واقعات کو اپنی کتاب بہجۃ الاسرار شریف میں ہر گز تحریر نہ فرماتے۔

ہے، بلکہ آپ نے واضح لفظوں میں اپنا یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ زمین گروہ اولیاء کے نزدیک ایک ناخن کے برابر ہے۔ انکی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں۔ (نفحات الانس صفحہ ۲۲۲)

## علامہ جلال الدین محمد رومی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الم توفی ۶۷۲ ھجری)

آپ واقع اسرار شریعت اور دانائے رموز طریقت ہیں۔ نام آپ کا جلال الدین محمد ہے، لیکن عام طور پر مولانا روم کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ پیدائش ولی تھے۔ کمنی ہی میں تین چار روز کے بعد صرف ایک مرتبہ کچھ کھاتے تھے اور کرماں کاتبین وغیرہ کو پانچ ہی سال کی عمر میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کی تصنیف ”مثنوی معنوی“ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش ۶۱۳ ھجری اور وفات ۶۷۲ ھجری میں ہوئی۔ قونیہ (ٹرکی) میں آپ کا مزار مبارک زیارت گاؤں خاص و عام ہے۔ علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفرمایا اور جب موزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اس کو پہنیں تو ایک چیل موزہ کو لے کر ہوا میں اڑ گئی اور اپر جانے کے بعد اس کا منہ نیچے کر دیا تو اس میں سے ایک سانپ گرا۔

پس عقاب آں موزہ را آؤ رہ باز گفت ہیں ڈتاں و رو سوئے نماز  
اس کے بعد چیل نے اس موزہ کو واپس لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا  
اور عرض کیا کہ اب آپ اسے پہن کر نماز کے لئے تشریف لے جائیے!

یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں اور ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں تو انہوں نے موزہ میں سانپ کے ہونے کو کیوں نہیں جان لیا؟ اس شبہ کا جواب اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اسے مولانا روم علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

گرچہ ہر غبے خدا مارا نمود دل دراں لختے بحق مشغول بود  
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر غیب کو مجھ پر ظاہر فرمایا ہے، لیکن میرا دل اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھا۔ اس لئے میں سانپ کو نہیں دیکھ سکا۔  
رہی یہ بات کہ چیل کو کیسے معلوم ہو گیا کہ موزہ میں سانپ ہے؟ تو اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے چیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔

معافی کی التجا کی تو حضرت نے انہیں معاف کر دیا۔

معافی کے بعد مولیٰ نجم الدین اور کچھ غلاموں کو ساتھ لے کر حضرت چل پڑے۔ جب باب سرفقد کے محلہ میں پہنچے تو ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس کی دیوار توڑ کر اندر گھس جاؤ اور فلاں جگہ ایک تھیلا سامان سے بھرا ہوا پڑا ہے اسے لے آؤ۔ سب لوگوں نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد کہتے بھوکنے لگے۔ آپ نے مولیٰ نجم الدین اور کچھ غلاموں کو اس گھر کی طرف بھیجا۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو دوسری دیوار توڑ کر چور اندر گئے ہیں، مگر کوئی چیز ان کو نہیں ملی۔ یہ چور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم سے پہلے دوسرے چور آئے ہیں اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں۔ حضرت کے ساتھی یہ بات سن کر دیگ ہو گئے۔

گھر کا ماں ایک باغ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ صحیح سویرے حضرت نے سارا سامان اپنے ایک مرید کے ہاتھ سے بھیج دیا اور مرید سے فرمایا اسے بتا دینا کہ تیرے گھر چوری ہونے والی ہے۔ فقیروں کو اس بات کا علم پہلے ہو چکا تھا۔ اس لئے چوروں کے آنے سے پہلے انہوں نے کپڑے اور سامان وہاں سے نکال لیے ہیں۔ یہ حکم دے کر حضرت نے مولیٰ نجم الدین کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا، اگر شروع ہی میں ہمارے حکم کی قابل کرتے تو بہت زیادہ حکمتیں پاتے۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۳۰)

اور حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پیر شیخ قطب الدین جو حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان کے مرید ہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں جب کہ لڑکا تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ نقشبند نے مجھ سے فرمایا فلاں کبوتر خانے میں جا اور وہاں سے چند کبوتر لے آئے! جب میں کبوتر خانے میں گیا تو میں نے ایک کبوتر کا بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور باقی کبوتر ذبح کر کے حضرت خواجہ کے پاس لے آیا۔ کبوتر پکائے گئے اور حاضرین پر پکا ہوا گوشت تقیم ہوا تو مجھے نہیں دیا گیا اور فرمایا کہ تم نے اپنا حصہ زندہ لے لیا ہے۔ (فتحات الانس صفحہ ۲۲۵)

مشش الدین کی موت کی خبر کو رد فرمایا کہیا کہ وہ زندہ ہے، باب سرفقد محلہ کے ایک گھر میں چوری ہونے والی ہے اور قیمتی سامان کھاں رکھے ہوئے ہیں۔ ان باتوں کو جانتا اور کبوتر کا بچہ لینے سے واقف ہوتا۔ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں جنہیں ظاہر فرمایا کہ حضرت خواجہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب عطا کیا

اس کی مثال یوں ہے کہ استاد شاگردوں کے سامنے تقریر کرتا ہے، لیکن ان میں جس طالب علم کا دل کسی دوسرے خیال میں لگا ہوا ہے وہ بہرانہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں سنتا ہے۔ اس لئے کہ استاد کی تقریر کی جانب اس کی توجہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جلد میں لاڈ پسکر کے ذریعے تقریر کرنے والا خوب بلند آواز سے بیان کرتا ہے، مگر جلد گاہ میں شیخ کے قریب بیٹھ کر سنتے والوں میں بھی جو شخص کسی دوسرے خیال میں ڈوبا ہوا ہے تقریر کی طرف توجہ نہ ہونے کے سبب وہ کچھ نہیں سنتا ہے۔

ایسا طرح بھی کوئی چیز نگاہ کے سامنے ہوتی ہے مگر توجہ نہ ہونے کے سبب نظر نہیں آتی۔ مثلاً شیش پڑیں کی آمد و رفت کا چارٹ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے مگر جس پڑیں کا وقت آپ جانتا چاہتے ہیں جب تک اس پر توجہ نہیں ہوگی آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گے اور جیسے الماری میں کتابیں لگی ہوئی ہیں جن کی پیشہ پران کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یا دواؤں کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں جن پران کے نام درج ہیں۔ آپ کسی کتاب یا دواؤ کی شیشی کو الماری سے نکالنے کے لئے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ساری کتابیں اور دواؤں کی شیشیاں آپ کی نظر کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ میں سب کا عکس بھی آ گیا، مگر اوپر سے نیچے تک بار بار آپ دیکھتے ہیں تو جس کتاب یا شیشی کی آپ کو تلاش ہے جب تک آپ کی اس پر توجہ نہیں ہوگی نگاہ کے سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آئے گی۔

ایسا طرح غیب کی ساری چیزیں اللہ کے محبوب داتائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہیں لیکن جب کبھی کسی چیز پر آپ کی توجہ نہیں ہوئی تو وہ آپ کو نظر نہیں آئی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جرجیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شقی صدر یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کرنے کے بعد جب آپ <sup>ؐ</sup> کے دل کو آپ زم زم سے ڈھویا تو اس کے بعد فرمایا قلب سدید فیہ عنان تُبصَّرَانْ وَأَذْنَانْ تَسْمَعَانْ۔ یعنی قلب ہر قسم کی کبھی سے پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ (فتح الباری جلد ۱ صفحہ ۲۱۰)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی ہی آنکھیں اور کان غیب کی باتیں دیکھنے اور سننے کے لئے ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود فرمایا اینی آرائی مالا تَرَوْنَ وَآتَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ یعنی میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور

مار در موزہ پہ یتم از ہوا نیست اذ من عکسِ ثبت اے مصطفیٰ  
سانپ کو موزہ کے اندر ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خوبی میری ذات میں نہیں  
ہے بلکہ اے پیارے مصطفیٰ ﷺ یا آپ کے عکس اور پرتو کی برکت ہے کہ میرے لئے ہر  
چیز روشن ہو گئی۔ (مشنوی شریف جلد سوم)

اور حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سید  
عالم ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے میرے پیارے  
صحابی! تم نے کس حال میں صحیح کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اس حال میں صحیح  
کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور مؤمن ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے ایمان کی  
کچھ نشانیاں بیان کرو۔

گفت خلقاں چوں بہ بیند آسام من یہ یتم عرش را با عرشیاں  
عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جس طرح تخلوق آسام کو دیکھتی ہے اسی طرح میں عرش  
کو عرشیوں یعنی فرشتوں کے ساتھ دیکھتا ہوں۔

ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من هست پیدا ہم چوبت پیش فتن  
آٹھوں جنتیں اور ساتوں دوزخیں میرے سامنے اس طرح ہیں جیسے کہ پچاری کے  
سامنے بت ہوتا ہے۔

کہ بہشتی کرد و بیگانہ کی ست پیش من پیدا چو مور و ماہی ست  
جنتی اور دوزخی مجھ پر ایے ہیں جیسے آنکھ والے کے سامنے جیونٹی اور محچلی۔  
ہیں بگوئیم یا فرو بندم نفس لب گزیش مصطفیٰ یعنی کہ بس  
حضور مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں یا حکم ہو تو خاموش ہو جاؤں۔ پیارے  
مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا بس کرو۔ (مشنوی شریف جلد اول)

ان واقعات کو مولانا روم علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی مشنوی شریف میں لکھ کر اپنا یہ  
عقیدہ واضح کر دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ حضرت  
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیب کی باتیں جانتے تھے اور پہلے واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ  
رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والعلیٰ نے اگر بھی کسی چیز کو نہیں جانا تو اس لئے کہ اس طرف  
حضور ﷺ کی توجہ نہیں تھی جیسے کہ آپ کا قلب مبارک یادِ اہمی میں مشغول تھا تو موزہ میں

## حجۃ الاسلام حضرت علامہ امام غزالی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۵۰۵ ہجری)

آپ خصوصیات نبوت کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا يُدْرِكُ مَا سَيَكُونُ فِي الْغَيْبِ إِمَّا فِي الْيَقِظَةِ أَوْ فِي النَّمَامِ إِذْ بِهَا يُطَالِعُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فَيَرَى مَا فِيهِ مِنَ الْغَيْبِ.

ترجمہ: بے شک نبی کے لئے ایک ایسی صفت ہوتی ہے جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں یا خواب میں اس لئے کہ اسی صفت سے وہ لوح محفوظ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو اس میں غیب کی جتنی باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ (الاحیاء العلوم جلد ۲ صفحہ ۱۹۳)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

مَهْمَا صَفَا الْبَاطِنُ إِنْكَشَفَ فِي حَدَّقَةِ الْقَلْبِ مَا سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ.

ترجمہ: جب باطن صاف ہو جاتا ہے تو آئندہ زمانہ میں جو چیز ہونے والی ہے وہ دل کی آنکھ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ (الاحیاء العلوم جلد ۲ صفحہ ۵۰۳)

ان تحریروں سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی غیب داں ہوتے ہیں، اس لئے کہ ان کی ذات میں غیب جانے کی ایک خوبی ہے بلکہ اللہ کے دوسرے محبوب بندوں کے دلوں میں بھی غیب کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

## سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۶۳۳ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے دعا گو فقیر حیر اضعف العباد معین الدین حسن بجزی کو خاص شہر بغداد خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہاروی نور اللہ مرقدہ (متوفی ۷۱ ہجری) کی پابوی حاصل ہوئی تو اور مشارعؒ کبار بھی خدمت میں حاضر تھے۔ جیسے ہی اس فقیر نے پابوی کے لئے زمین پر سر کھا ارشاد ہوا کہ جا درکعت نقل شکرانہ ادا کر۔ حضور کراشد کے مطابق دورکعت پڑھ کر حاضر ہوا تو پھر فرمایا

میں ہے باقی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مخلوٰۃ صفحہ ۲۵۷)

لہذا جس طرح ظاہری آنکھ اور کان ہمیشہ دیکھتے اور سنتے ہیں، مگر جب کبھی توجہ نہیں ہوتی تو کان نہیں سن پاتے اور نہ آنکھیں دیکھ پاتی ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب دانتے غیوب ﷺ کے دل کی آنکھیں اور کان ہمیشہ غیب کی باقی سنتے دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن جب وہ یادِ الہی میں غرق ہو جاتا ہے یا توجہ دوسری طرف ہوتی ہے تو اس وقت غیب کی باقی حضور علیہ اصلوٰۃ والسلام کو معلوم نہیں ہو پاتیں۔

اور حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ ست پیش اولیاء از چه محفوظ ست محفوظ از خطا  
لوح محفوظ اولیاء اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ لوح محفوظ ایسا ہے جو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہے۔  
اور تحریر فرماتے ہیں۔

کاملاں از دور نامت بشوند تابقر تارو پودت در رؤند  
اے مخاطب! اولیائے کرام دور سے تیرا نام سنتے ہیں، یہاں تک کہ تیرے تنا باتا  
کی گہرائی میں چلتے ہیں یعنی تیرے رگ و ریشہ تک سے آگاہ ہیں۔

بلکہ پیش از زادن تو سالہا دیدہ باشدت ترا با حالہا  
بلکہ پیدا ہونے سے سالوں پہلے تمہارے حالات کو ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔  
حال تو داند یک یک مو بمو زانکہ پرہستند از اسرار ہو  
تمہارے ہر حال سے ذرہ ذرہ آگاہ ہیں، اس لئے کہ ان کے اندر اسرار ربیانی بھرے  
ہوئے ہیں۔

ان اشعار سے حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ والرضوان کا یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ اولیائے کرام کو بھی علم غیب حاصل ہے، اس لئے کہ ان کی نظروں کے سامنے لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور اولیائے کاملین لوگوں کے ایک ایک حال سے آگاہ ہیں بلکہ لوگوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ان کے حالات کو جانتے ہیں۔

## قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۶۳۲ ھجری)

آپ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ اور حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمۃ والرضوان کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ اکابر اولیاء اور جلیل القدر اصفیاء میں سے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک دہلی میں مہر دلی شریف زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

حضرت خواجہ امیر خورد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب شیخ شیوخ العالم فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمۃ والرضوان نے چاہا کہ مجاہدہ اختیار کریں تو آپ نے اس کے متعلق حضرت شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ”ٹے“ کرو! چنانچہ آپ نے تین روز تک کچھ نہ کھایا۔ تیسرا دن افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے یہ کچھ کر کہ یہ غیب سے آئی ہیں انہیں تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کوادرخت پر بیٹھا ہوا مردار کی آنٹوں کے نکڑے کھا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس کوئے پر پڑی۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کا جی متلا یا اور جو کچھ کھایا تھا وہ قے کے راستے باہر نکل گیا اور آپ کا پاک معدہ اس کھانے سے خالی ہو گیا۔

جب آپ نے یہ بات اپنے پیر سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا مسعود تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ تم نے تین روز کے بعد جو افطار کیا تھا وہ ایک شرابی کے کھانے سے افطار کیا تھا۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی کہ تمہارے معدے نے وہ کھانا قبول نہیں کیا۔ اب جاؤ! اور پھر ”ٹے“ کرو۔ تین روز کے بعد جو چیز تمہیں غیب سے ملے اس سے افطار کرنا۔ چنانچہ پھر آپ نے تین روز کا ”ٹے“ کیا، لیکن چھ روز گزر گئے اور کوئی کھانا آپ کو نہ پہنچا۔ انتہا درجہ کا ضعف پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ ایک پھر رات گزر گئی۔ ضعف اور بڑھ گیا اور بھوک کی حرارت سے نفس جلنے لگا۔ آپ نے مبارک ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور زمین سے چند سگریزے (پتھر کے نکڑے) اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لئے۔ آپ کے دہن مبارک کی برکت سے وہ سگریزے شکر ہو گئے۔ حکیم سنائی نے کیا اچھا ہے۔

قبلہ رُو بیٹھ! میں قبلہ رُو بیٹھا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا تو حکم ہوا کہ ایکس بار درود شریف اور اکیس بار سبحان اللہ پڑھ۔ میں اس سے فارغ ہوا تو اس وقت حضور نے کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کیا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آج تھک کو خدا تک پہنچا دوں اور خدا رسیدہ کر دوں۔ اس کے بعد ہی حضور نے دستِ مبارک میں مقر ارض (پیغمبر) لے کر اس دعا گو کے سر پر چلانی اپنی اور غلامی میں لے لیا۔ پھر کلاہ چہار گوشہ اس عقیدت کیش کے سر پر رکھی اور اعزاز بخشنا اور طیم خاص عطا فرمائی اور فرمایا بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا ارشاد ہوا کہ ہمارے خانوادہ میں ایک رات دن کا مجاہدہ آیا ہے۔ جا آج کے دن اور آج کی رات ذکر میں مشغول ہو!

چنانچہ یہ درویش حضور کے حکم و ارشاد کے مطابق کامل ایک شبانہ روز طاعت اور عبادت میں مشغول رہا۔ دوسرے روز جب خواجہ نور اللہ مرقدہ کی خدمت با برکت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ بیٹھ جا اور ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ! جب میں پڑھ چکا تو فرمایا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھے! میں نے دیکھا۔ فرمایا اب تو کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرشِ اعظم تک۔ پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھے۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ اب تو کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الہری تک۔ پھر فرمایا ایک ہزار بار سورہ اخلاص اور پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا، فرمایا کہ اب پھر آسمان کی طرف دیکھے! جب میں نے دیکھا۔ فرمایا کہ اب کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے کہا جا ب عظمت تک۔ پھر فرمایا کہ آنکھ بند کر۔ میں نے آنکھ بند کر لی۔ پھر فرمایا آنکھ کھول دے۔ میں نے آنکھ کھول دی تو مجھ کو دو انگلیاں دستِ مبارک کی دکھلائی دیں۔ فرمایا کہ اس میں کیا دکھلائی دیتا ہے؟ میں نے کہا انحرافہ ہزار عالم معلوم ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ اب تیرا کام پورا ہو گیا۔ (انیں الارواح صفحہ ۵)

حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریر سے ثابت ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے کہ پیر و مرشد کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں اوپر عرشِ اعظم تک اور نیچے تحت الہری تک دیکھتا ہوں اور پھر کہا جا ب عظمت تک دیکھتا ہوں اور دو انگلیوں میں انحرافہ ہزار عالم معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت قطب الاقطاب بختیار کا کی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس فرمان سے کہ تم نے تین روز کے بعد جو افطار کیا تھا وہ ایک شرابی کے کھانے سے افطار کیا تھا اور اس فرمان سے کہ اوپر عرش تک اور نیچے تحتِ الٹری تک میرے لئے کوئی جواب نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے علم غیب حاصل ہے اور خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید والے واقعہ سے ان کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ والے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔

## شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر کا عقیدہ (علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۱۷۰۷ھجری)

آپ حضرت قطب الاقطاب بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ اور سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ ہی کی نگاہ فیض نے حضرت نظام الدین اولیاء کو سلطان المشائخ اور محبوب الہی بنا دیا۔ آپ کا مزار مبارک اجودھن (پاک پتن شریف) پاکستان میں ہے۔ علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو!

حضرت خواجہ امیر خورد کرامی تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز فخر کی نماز ادا کر کے ذکر حق میں مشغول تھے اور سرز میں پر رکھے ہوئے مستقر تھے۔ اسی حالت میں بہت دری گزر گئی۔ سردی کا موسم تھا۔ سرد ہوا میں چل رہی تھی۔ اس لئے آپ کی پوتیں لائی گئی اور آپ کے جسم مبارک پر ڈالی گئی۔ کوئی خادم اس جگہ نہ تھا صرف میں تھا۔ اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور بلند آواز سے سلام کیا۔ شیخ اس وقت بھی سرز میں پر رکھے ہوئے تھے اور پوتیں اوڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت شیخ نے پوچھا یہاں کوئی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس وقت جو شخص آیا وہ بڑا پیٹھ، کوتاہ گردن تنگ وہن اور زرد گوں ہے۔ میں نے دیکھا تو ایسا ہی تھا، میں نے عرض کیا، جی ہاں وہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا زنجیر لپیٹے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر لپیٹے ہوئے تھا۔ پھر فرمایا کہ کان میں کوئی چیز ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس کے کان میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے کان میں ایک

سُنگ در دست تو گھر گردد

زیر در کام تو ہلکر گردد (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۱)

اور حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ۵۸۲ ہجری کو جب اس دعا گونے دولت پا بوسی حاصل کی تو حضور قطب الاسلام بختیار کا کی نے اسی وقت کلاہ چہار تر کی میرے سر پر کھلی اور بہت سی شفقت فرمائی۔ اس دن میں قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا علاء الدین کرمانوی سید نور الدین غزنوی، شیخ نظام الدین ابوالمویید مولانا شمس الدین ترک، خواجہ محمود موزہ دوز اور دیگر عزیز بھی حاضرِ خدمت تھے کہ اولیاء اللہ کی کشف و کرامات کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تعالیٰ بقایہ یہ لفظ زبان مبارک پر لائے کہ مجھ کو اس قدر روشنی حاصل ہے کہ اگر آسمان پر نظر بھر کر دیکھتا ہوں تو عرش تک صاف نظر آتا ہے اور کوئی حاجب حال نہیں ہوتا اور جب زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو تحت الہری تک سب معلوم ہو جاتا ہے۔

ملخصاً (ملفوظات خواجگان چشت حصہ اول۔ فوائد السالکین صفحہ ۱۱۳)

اور حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوائد السالکین کی مجلس دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الاقطاب بختیار کا کی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری دونوں کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ اس کو بھی شیخ عثمان کہتے تھے اور وہ خواجہ ابو بکر شبلی کے مریدوں میں سے تھا۔ اس کا کمال و بزرگی دریافت کر کے ہم اس کے پیچھے ہوئے۔ جس جگہ وہ بزرگ جاتا اور جس طرف کو قدم اٹھاتا میں اور قاضی حمید الدین ناگوری اس کے قدم پر قدم رکھتے چونکہ وہ پیر روشن ضمیر تھا۔ ہماری متابعت سے مطلع ہوا اور پلٹ کر ہم سے کہا کہ اس ظاہری متابعت سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں ہر روز ہزار قرآن ختم کرتا ہوں۔ ہم یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور اپنے دل میں یہ سوچنے لگے کہ شاید ہر سورہ کا شروع پڑھ کر ہزار پورے کر لیتے ہوں گے۔ یہ خیال ہمارے دل میں گزرا ہی تھا کہ اس بزرگ نے سراونچا کر کے فرمایا حرفاً بعد حرف می خوانیم۔ یعنی ایک ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلوب یہ ہے کہ ایک حرف نہیں چھوڑتے۔ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔

(ملفوظات خواجگان چشت حصہ اول صفحہ ۱۲۰)

اجودھن (پاک بیٹن) پہنچ کر شیخ شیوخ العالم کے ہاتھ پر توبہ کرے۔ راستے میں ایک گانے والی اس کے ساتھ ہو گئی۔ اس گانے والی نے بہت چاہا کہ وہ مرد اس کی محبت میں گرفتار ہو اور اس سے تعلق پیدا کرے لیکن چونکہ وہ مرد بچی نیت رکھتا تھا اس لئے اس فاحشہ کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک جگہ وہ دونوں ایک بھلی میں سوار ہوئے۔ وہ عورت اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ چونکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی اس حالت میں مرد کے دل میں کچھ معمولی سی اس کی خواہش ہوئی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرے یاد دست درازی کرے لیکن عیناً سی وقت میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آیا اور ایک طماںچہ اس شخص کے منہ پر مار کر کہا افسوس ہے کہ تم فلاں بزرگ کے پاس توہہ کی نیت سے جا رہے ہو اور تمہاری یہ حرکتیں ہیں۔ وہ شخص فوراً متنبہ ہوا۔ الغرض جب وہ شخص شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس روز تمہاری بڑی حفاظت کی۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۶۵)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان الشاخ قدس سرہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ فرید الحق والدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید محمد شاہ غوری تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا نہایت رائخ العقیدہ معتقد اور سچا مرید تھا۔ ایک روز وہ نہایت پریشان و مضطرب آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی نہایت سخت یہاں ہے۔ میں نے اسے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اس میں کچھ رمت جان باقی تھی۔ شاید کہ اب اس کا انتقال بھی ہو چکا ہو۔ اس وجہ سے میں سخت مضطرب اور پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا جیسا تم اس گھڑی پریشان ہو، میں تمام عمر اسی طرح پریشان رہا ہوں، لیکن میں کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ پھر اس سے فرمایا جاؤ! تمہارا بھائی صحت یاب (ٹھیک) ہو چکا ہے۔ محمد شاہ جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی تدرست ہو چکا تھا اور بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۶۵ اجری)

اور خوجہ امیر خود کرمانی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الرحمۃ والرضوان کے تمام صاحبزادوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ کو اجودھن کی فصیل کے باہر اس مقام پر دفن کیا جائے کہ جہاں شہداء مدفون ہیں۔ اسی نیت سے آپ کے جنازے کو فصیل سے باہر لے کر آئے۔ عین اس موقع پر میان خواجه

بالا ہے۔ فرمایا جاؤ! اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے قبل اس کے کہ رسولی ہو۔ اب جب میں نے مزکر اس کی جانب دیکھا تو وہ خود چاہ کتا۔ (سرالاولیاء صفحہ ۱۵۹)

اور خواجہ امیر خرد کرمانی نظای تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان الشاخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اجوہن (پاکپتن) جا رہے تھے کہ سری کے جنگل میں مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ آدمی جو ہمارے ساتھ جا رہا تھا اس نے سانپ کاٹنے کی جگہ کو باندھ دیا۔ زہر کا اثر جاتا رہا اور میں اچھا ہو گیا۔ جب ہم اجوہن (پاک پتن) پہنچتے تو بے وقت ہو چکا تھا اور شہر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم حصار کی دیوار کو دکھل ہو جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ حصار (چہار دیواری) میں ہر طرف سوراخ پیدا ہو گئے۔ الغرض تمام ساتھی اور پرچڑھ گئے اور میں ڈر رہا تھا۔ ساتھیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپر پڑھا لیا۔ جب صحیح ہوئی تو ہم شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سب کی خیریت دریافت کی اور مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا سانپ کا کاشنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آیا ہے۔ (سرالاولیاء صفحہ ۱۶۰)

اور حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی تحریر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا بزرگوار سید السادات سید حسین سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز نے شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھتا چاہا۔ کاغذ لے کر سونھنے لگے کہ خط میں ان کو القاب کیا لکھوں؟ پھر آپ کے دل میں آیا کہ خطاب ان کا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہی لکھوں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے آپ نے آسان کی طرف سراہیا تو لوح محفوظ میں ان کا لقب شیخ الاسلام لکھا ہوا دیکھا۔ تو آپ نے بھی خط میں یہی القاب لکھا۔ کسی اللہ کے ولی نے کہا ہے۔

فُلُوبُ الْعَارِفِينَ لَهَا غَيْرُونَ  
تَرَى مَالًا يَرَاهُ النَّاظِرُونَا

ترجمہ: عارفوں کے دلوں کو وہ آئندھیں نصیب ہیں جن سے وہ ایسی چیزیں

دیکھتے ہیں کہ جنہیں عام دیکھنے والے نہیں دیکھتے۔ (سرالاولیاء صفحہ ۱۶۱)

اور خواجہ امیر خورد کرمانی تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان الشاخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص دہلی سے اس لئے روانہ ہوا کہ

ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علمِ غیب عطا فرمایا ہے۔ اگر حضرت کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو ان باتوں کو وہ زبان پر ہرگز نہ لاتے۔

## سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۲۵ھجیری)

حضرت خواجہ امیر خرد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں کھانا لایا۔ کھانا لاتے وقت راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلطان المشائخ اپنے دستِ مبارک سے میرے منہ میں نوالہ رکھیں تو یہ میری کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ جب وہ شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچا تو دسترخوان بڑھایا جاچکا تھا اور سلطان المشائخ اس وقت پان کھار ہے تھے۔ سلطان المشائخ نے تھوڑا سا پان اپنے منہ سے نکال کر اس کے منہ میں رکھا اور فرمایا لو یہ اس نوالے سے بہتر ہے۔  
(سرالاولیاء صفحہ ۲۲۲)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز دو مرید سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے وضو میں ایک نے احتیاط نہیں کی تھی۔ جب وہ سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے تو سب سے پہلے جوابات آپ نے ان سے کی وہ یہ تھی کہ وضو میں احتیاط کرنی چاہیئے کہ وضو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ (سرالاولیاء صفحہ ۲۲۳)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا وجیہ الدین، حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ جب وہ کڑہ کے باغات میں پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو زاہدوں کی سی صورت بنائے ہوئے عبا پہنچے اور مصلٹی کا ندھر پر ڈالے ہوئے سامنے آیا اور مولانا کو سلام کیا۔ پھر اس طرح گفتگو شروع کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ مختلف علوم میں میری کچھ علمی مشکلات ہیں، جنہیں میں آپ سے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا اچھا! اس شخص نے نہایت داشمندانہ طریقے پر اپنے سوالات شروع کئے۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیئے، لیکن مولانا اس کی تقریر سن کر حیران تھے کہ وہ آدمی اس شہر کے رہنے والا نہیں، پھر اس نے اتنے علوم کہاں سے حاصل کئے۔ جب وہ ان علمی مباحثت سے فارغ ہو چکا تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ

نظام الدین جو آپ کے محبوب ترین صاحبزادے تھے اور وہ سلطان غیاث الدین بلبن کے ملازم تھے اور قصبه پیالی میں مقیم تھے، پنجھ۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ شیخ شیوخ العالم انہیں بلا رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین فوراً ہی اجازت لے کر اجودھن (پاک پٹن) کے لئے روانہ ہو گئے۔ وہ اس رات میں اجودھن پنجھ، جس رات میں شیخ شیوخ العالم نے وفات پائی۔ لیکن شہر میں داخل نہ ہو سکے کہ شہر کی فضیل کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے مجبوراً فضیل کے باہر رات گزار دی۔ وفات کی رات میں آپ بار بار فرماتے تھے کہ نظام الدین تو آگیا ہے لیکن کیا فائدہ جب اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب صبح ہوئی اور خواجہ نظام الدین شہر میں داخل ہونے کے ارادے سے روانہ ہو کر فضیل کے دروازے تک پنجھی تھے کہ سامنے سے آپ کا جنازہ آتا ہوا نظر آیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۷۴)

اور لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ عارف کو شیخ شیوخ العالم نے سیستان کی طرف بھیجا تھا اور ان کو بیعت کی اجازت دی تھی۔ ان کا واقعہ یوں ہوا کہ اُج اور ملتان کا ایک بادشاہ تھا اور یہ بزرگ اس کے امام تھے یا کوئی اور تعلق تھا۔ اس بادشاہ نے سوروپے دے کر انہیں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے پچاس روپے خود رکھ لئے اور پچاس روپے حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔ جب انہوں نے صرف پچاس روپے حضرت کی خدمت میں پیش کئے، تو شیخ نے مکرا کر فرمایا کہ عارف! تم نے خوب برادرانہ حصہ تقسیم کیا ہے۔ یہ سن کر شیخ عارف نہایت شرمندہ ہوئے اور فوراً دوسرے پچاس روپے بھی آپ کی خدمت میں پیش کئے بلکہ کچھ اپنے پاس سے مزید اضافہ کر کے دیئے اور نہایت معدودت کی اور بیعت کے لئے اتنا کی۔ شیخ شیوخ العالم نے انہیں بیعت کر لیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۳۰۱)

سر بجدہ میں رکھے ہوئے آنے والے کا پورا حلیہ جانا، سانپ کا نٹے اور دیوار پر چڑھنے کا علم ہونا، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لقب کو لوٹ حفظ میں دیکھنا، فاحشہ عورت کے متعلق مرد کی نیت کو جانا، محمد شاہ غوری کے بھائی کی تدرستی سے آگاہ ہونا، اپنے صاحبزادے خواجہ نظام الدین کی آمد کو جان لینا اور نذر میں بھیجے ہوئے روپوں کی تعداد سے واقف ہونا۔ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں۔ شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام باتوں کو بیان فرمایا اپنا یہ عقیدہ

میں نے اس خیال سے توبہ کی۔ اس واقعہ کو تین روز گزرے تھے کہ خلیفہ ملک یار پرال میرے لئے ایک گھوڑی لے کر آیا اور مجھ سے کہا اسے قبول کیجئے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ایک درویش ہو میں تم سے یہ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تین راتوں سے میں برابر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے شیخ مجھ سے برابر فرمائے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس گھوڑی لے کر جاؤ! میں نے کہا بے شک تمہارے شیخ نے تم سے کہا ہے لیکن اگر میرے شیخ بھی مجھ سے کہیں گے تو میں یہ گھوڑی تم سے لے لوں گا۔ اسی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ شیوخ العالم حضرت فرید الدین حنفی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ ملک یار پرال کی دل جوئی کے لئے وہ گھوڑی قبول کرلو! دوسرے روز وہ گھوڑی لے کر آیا تو میں نے اسے فرستادہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۶)

حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو بیان کر کے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ ملک یار پرال کے شیخ اور ہمارے شیخ حضرت فرید الدین حنفی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی غیب کی باتیں جان لیتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ہماری ضرورت اور گفتگو سے آگاہ ہو گئے اور خواب میں گھوڑی کے لینے دینے کا حکم فرمائے۔

اور حضرت خواجہ امیر خود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سلطان المشايخ حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ناگور میں ایک ہندو تھا۔ جب بھی اس پر حضرت شیخ حمید الدین کی نظر پڑتی تو آپ فرماتے کہ یہ ولی خدا پرست ہو گا۔ مرنے کے وقت با ایمان جائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ فرماتے تھے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۶۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیوخ العالم حضرت فرید الدین حنفی شکر علیہ الرحمۃ والرضوان کے خلیفہ تھے اور آپ کی مریدی کی بدولت اکابر شیوخ کے مرتبہ پر پہنچے۔ سلطان المشايخ حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں شیوخ العالم نے مجھے خلافت عطا فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ یہ خلافت نامہ ہانسی میں مولانا جمال الدین ہانسوی کو دھکایا لینا۔ میں خلافت سے پہلے جب شیخ جمال الدین کی خدمت میں جاتا تھا تو وہ میری تعظیم فرماتے اور کھڑے ہو کر ملاقات کرتے۔ جب میں خلافت کے بعد ایک روز ان سے ملنے گیا تو وہ خلاف عادت بیٹھے رہے۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ بات ان کی خلاف عادت

آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں سلطان المشائخ سے بارہ ملا ہوں۔ وہ اتنے بڑے عالم نہیں جتنے بڑے عالم آپ ہیں۔ پھر اس کے باوجود نبض ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مولانا وجیہ الدین نے فرمایا ہرگز نہیں۔ یہ تم کیا کہتے ہو۔ سلطان المشائخ علم کے سمندر ہیں اور ان کا باطن علمِ لدنی سے آرات ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں نے متعدد مرتبہ شیخ نظام الدین سے ملاقات کی ہے وہ اتنا علم نہیں رکھتے۔ آپ ان کے پاس کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا وجیہ الدین فرمایا لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ تم کیا فضول باتیں کرتے ہو۔ وہ شخص جو قریب ہو کر مولانا سے باتیں کر رہا تھا۔ اچاک مولانا سے ذرا دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مولانا وجیہ الدین نے دوسری مرتبہ لا حول پڑھی۔ وہ مردود لا حول نہتے ہی اور پھر ذور جا کھڑا ہوا۔ اب مولانا نے بار بار لا حول پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص غائب ہو گیا۔ جب مولانا وجیہ الدین حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے تو قبل اس کے کہ وہ سلطان المشائخ سے ماجرا بیان کرتے، سلطان المشائخ نے نورِ باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ مولانا تم نے اس شخص کو خوب پہچانتا۔ اگر اس کے پہچانے میں ذرا بھی غلطی ہوتی تو وہ تمہاری راہ زندگی کر ہی چکا تھا۔ (الاولیاء صفحہ ۳۲۷)

کھانا لانے والے کی دلی تمنا سے واقف ہو جانا، وضو کرنے والے کی بے احتیاطی سے آگاہ ہو جانا اور مولانا وجیہ الدین کو راستہ میں پیش آنے والے واقعہ کا جان لیتا سب غیب کی باتیں ہیں۔ جن کو سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظاہر فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم غیب کی باتیں جان لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔

اور خوب جہا امیر خود کرمانی لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ غیاث پور کے قیام سے پہلے میں کیلو کھری کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے جایا کرنا تھا۔ گرم ہوا میں چلتی تھیں اور مسجد کا فاصلہ ایک کوس (تین کلومیٹر) تھا اور میں روزے سے تھا۔ مجھے چکر آنے لگے اور میں ایک دوکان پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں اس پر سوار ہو کر جاتا۔ بعد میں شیخ سعدی کا یہ شعر میری زبان پر آیا۔

ماقدم از سرکنیم در طلب دوستان

راہ بجائے برد ہر کہ باقدام فت

دوسری طرف ہے۔ الغرض ان دونوں کے درمیان کافی گنگو ہوئی۔ آخر میں خواجہ حسن افغان نے عقل مند سے کہا کہ اپنا رخ اسی طرف کرو جدھر کہ میرا رخ ہے اور اچھی طرح دیکھو کہ قبلہ کدھر ہے؟ عقل مند نے اسی طرف منہ کیا تو کعبہ کو اسی طرف دیکھا جس طرف کہ حضرت حسن افغان نے کہا تھا۔ (فوانی الدفوا صفحہ ۷۱)

اور حضرت حسن علی بھری لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حسن افغان ایک گلی سے گزر رہے تھے مسجد میں آذان کی آواز سن کر مسجد میں آئے۔ موڈن نے تکمیر کی۔ امام نے مصلی پر آ کر نماز شروع کی۔ کافی آدمی جماعت میں شامل ہوئے۔ خواجہ حسن افغان بھی جماعت میں شریک ہوئے۔ جب نماز ختم ہو گئی اور لوگ واپس ہونے لگے تو خواجہ حسن افغان آہستہ سے امام کے پاس آئے اور کہا امام صاحب! جب آپ نے نماز شروع کی تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے یہاں سے دہلی جا کر غلام خریدے اور واپس ہوئے۔ پھر ان غلاموں کو خراسان لے گئے۔ پھر وہاں سے ملتان واپس آئے اور پھر مسجد میں آئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے پریشان پھرتا رہا۔ امام صاحب! آخر یہ کیسی نماز ہے؟ (فوانی الدفوا صفحہ ۷۱)

علاقہ ملتان سے کعبہ شریف کو دیکھنا اور امام صاحب کے دل میں نماز کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے آگاہ ہوتا۔ دونوں باتیں غیب کی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بیان فرمایا کہ اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ کے فضل سے ہمیں علم غیب حاصل ہے اور شخص مذکور کو یہاں سے کعبہ شریف دکھا کر آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم تو غیب کی باتیں دیکھتے ہیں پر ضرورت پڑنے پر دوسروں کو بھی اسکی باتیں دکھادیا کرتے ہیں۔

## محمدوم الملک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۸۲۷ھ بھری)

محبوب یزادانی حضرت محمدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ گلبرگ شریف سے پنڈوہ شریف جاتے ہوئے جس روز خطہ بھار میں منیر شریف کے قریب پہنچے۔ اسی دن حضرت محمدوم الملک شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ حضرت محمدوم کچھوچھوی کو حضرت شیخ منیری کی ملاقات کا شوق تھا مگر حکم قضا و قدر نہ تھا کہ عالم

ہے۔ ابھی یہ خیال دل میں گز راعی تھا کہ انہوں نے بغیر میرے کچھ کہے فوراً فرمایا، مولانا نظام الدین! تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تمہارے لئے کھڑا نہیں ہوا لیکن اس کی وجہ دوسری ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب میرے اور تمہارے درمیان (شیخ کے خلاف عطا فرمانے کے بعد) محبت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے تو میں اور تم ایک ہو گئے۔ اب میرا خود اپنے لئے کھڑا ہونا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۹۳)

ان دونوں واقعات کے بیان سے حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ حضرت شیخ حمید الدین ناگوری اور حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما بھی غیب کے جانتے والے ہیں کہ ہندو خدا پرست ولی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ ناگوری واقف تھے اور حضرت ہانسوی دل کے خیال سے آگاہ ہو گئے۔

## حضرت شیخ حسن افغان کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۱۸۹ھجری)

حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک بار جب وہ حضرت قطب الاقطاب بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لئے آئے تو واپسی کے وقت حضرت بختیار کا کی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جوتے درست کئے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۲) حضرت حسن افغان انہیں بزرگ حضرت زکریا ملتانی کے مرید و خلیفہ ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے مشہور شیخ اور بزرگی کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ یہاں تک بقول حضرت محبوب اللہی حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے فرمایا اگر کل قیامت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ ہماری درگاہ میں کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ حسن افغان کو لا لایا ہوں۔ (فواتح الفواد ملفوظ حضرت محبوب اللہی صفحہ ۱) اب علم غیب کے بارے میں ایسے بلند مرتبہ بزرگ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

حضرت حسن علی بجزی قدس سرہ جو فواتح الفواد کے مرتب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں لوگ مسجد بنارہے تھے۔ خواجہ حسن افغان وہاں پہنچے اور مسجد بنانے والوں سے کہا کہ محراب اس طرح سیدھی کرو! قبل اس طرف ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک عقل مند وہاں حاضر تھا وہ آپ سے جھٹکنے لگا اور کہا کہ نہیں قبل

مزار پر فاتح خوانی کے لئے آتے تھے۔ حب عادت اس دن بھی تشریف لائے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ حضرت اصحاب و خدام اور ہمراہیان کے ساتھ قیام فرمائیں اور خود حضور بھی برائے فاتح مزار کے قریب ہی تھے۔ مولانا نے کسی سے پوچھا کہ کون بزرگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم سب غوغائی ہیں۔ مولانا کو اپنا رات کا جملہ یاد آ گیا۔ بے حد شرمندہ ہوئے اور بہت بہت معدترت چاہی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہ تھی۔ ہم نے اس سے بھی زیادہ ملائمیں برداشت کی ہیں۔ مولانا نے کچھ ایسی عاجزی سے حضرت کی دلجوئی کی کہ آپ کا دل خوش ہو گیا۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۵۳)

حضرت کی خدمت میں ایک فلسفی آیا اور آ کر آپ کی محفل میں بیٹھ گیا۔ اس کی شکل و صورت اور لباس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ جب آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو فرمایا کیوں بہر و پیا بنے ہو؟ تم صوفیاء کی نگاہ سے اپنی حقیقت نہیں چھپاسکتے۔ فلسفی اپنے دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں تائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا الحمد للہ، خدا نے تمہیں توبہ نصیب فرمائی۔ حضرت کے اس کشف پر اس کو بے حد حیرت ہوئی۔ اٹھ کر قدموں میں گر پڑا اور مرید ہوا۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۱۷)

حضرت شیخ نظام غیریب یمنی مرتب اطائف اشوفی میں لکھتے ہیں کہ جب دریا میں جہاز روانہ ہوا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس زمانے میں بھی کوئی ایسا عارف ہے جو دریا کے رہنے والے عارفوں اور عابدوں کی خبر دے۔ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا فوراً حضرت نے اس خادم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرزند نظام! فقراء کے لئے اس کا جان لینا ایک تذکرے توڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۸۰)

ہرات کا واقعہ ہے کہ وہاں کا ایک امیر حضرت سے بد عقیدہ ہو گیا۔ اس نے امتحان آپ کی دعوت کی۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے پنے گئے۔ ایک قاب میں دو مرغ مسلم بھی تھے۔ حضرت نے کھانے کے وقت ان مرغوں کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ میزبان امیر نے بہت اصرار کے ساتھ اسی قاب کو آپ کی طرف بڑھایا کہ حضور اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ خاص اہتمام سے پکوائے گئے ہیں۔ آپ نے قاب میں سے ایک مرغ اپنے اور دیگر درویشوں کے لئے لے لیا اور دوسرا مرغ امیر اور اس کے ساتھیوں کے طرف یہ کہہ کر بڑھا دیا کہ پہلا فقراء کے لائق تھا اور یہ تمہارے لئے موزوں ہے۔ امیر خاموش ہو گیا، لیکن مہمانوں کو اس کے چہرے پر شرمندگی کی سرفی دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بعد میں

اسباب میں دونوں بزرگ ایک دوسرے سے ملیں، لیکن شیخ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت فرمادی تھی کہ ایک سید، صحیح النسب تارک سلطنت، ساتوں قرأت کے حافظ آنے بھی والے ہیں، میرے جنازہ کی نماز وعی آ کر پڑھائیں گے۔ مخدوم الملک کا وصال ہو گیا۔ جنازہ تیار کر کے لوگ حب وصیت حضرت مخدوم صاحب کا انتظار کر رہے تھے جب کچھ دیر ہوئی تو شیخ جلالی نامی ایک شخص آپ کی علاش میں باہر نکلے۔ جب آبادی کے باہر پہنچے تو دور سے ایک قافلہ آتا نظر آیا۔ قافلہ کے قریب آنے پر شیخ جلالی بڑی بے تابی سے آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ جب آپ کے قریب پہنچے اور آپ کی پیشانی پر نور ولایت کو تباہ دیکھ کر پوچھا کہ حضور سید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! پھر حفظ قرآن اور ترک سلطنت کے متعلق پوچھا۔ جب انہیںطمینان ہو گیا کہ مخدوم الملک نے آپ ہی کی امامت کی وصیت فرمائی ہے تو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو آبادی میں لائے اور لوگوں سے ملایا۔ پھر سب نے آپ سے امامت کے لئے کہا۔ پہلے تو بطریق اکسار فرمایا کہ میں مسافر غریب الدیار ہوں۔ کسی دوسرے لائق امامت شخص سے نماز پڑھوایے! لیکن کچھ تو لوگوں کے اصرار اور زیادہ مخدوم الملک کی وصیت کے لحاظ سے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۹۷)

سید صحیح النسب، تارک سلطنت، ساتوں قرأت کے حافظ اور پھر وہ آنے بھی والے ہیں۔ ایسے بزرگ کے بارے میں بغیر کسی اطلاع کے نماز جنازہ کی وصیت فرمادی کہ حضرت شرف الدین بھی منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غائب کا علم عطا فرمایا ہے۔

### محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی کا عقیدہ (علیہ الرحمۃ والرضوان۔ المتوفی ۸۰۸ھجری)

جب آپ جائیں پہنچے اور سواد قصبه کے جنوب مشرق میں ایک بزرگ حضرت معروف شہید کا مزار ہے۔ اسی کے قریب اقامت گزیں ہوئے تو رات میں حب معمول آپ کے اصحاب ذکر جھر کر رہے تھے اور جلال اسم ذات کی گونج آس پاس کی آبادی متاثر ہو گئی۔ قریب ہی ایک مولانا اعلام الدین رہتے تھے۔ انہوں نے جو یہ آواز سنی تو فرمایا یہ غوغائی کہاں سے آئے ہیں۔ مولانا کا مستور تھا کہ ہر صحن معروف شہید کے

خطرات قلب کو جان لینا، سب غیب کی باتیں ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پچھوچھوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان ساری باتوں کو ظاہر فرمایا کہ اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ ہم غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں اور لوئے کی زنجیر کو سوتا بنا کر آپ نے یہ عقیدہ بھی ثابت فرمادیا کہ اللہ کے محظی بندوں کو چیزوں کی حقیقتیں بدل دینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔

**انتباہ:** غیب کی باتوں کو کشف و کرامت سے جان لینا یا الہام سے۔ اور نور باطن سے معلوم کر لینا یا روش ضمیری سے۔ بہر حال وہ علم غیب ہے۔

## حاضر و ناظر

حاضر کے لغوی معنی ہیں موجود، جانے والا اور شہر کا رہنے والا، ناظر کے معنی ہیں دیکھنے والا، غور و فکر کرنے والا اور کھیتی کی حفاظت کرنے والا۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ **الْحُضُورُ** بمعنی الْعِلْمُ شَائِعٌ وَ النَّظرُ بِمَعْنَى الرُّؤْيَا۔ ملخصاً۔ یعنی حاضر ہونا جانے کے معنی میں مشہور ہے اور ناظر ہونا دیکھنے کے معنی میں ہے۔  
(رد المحتار جلد سوم صفحہ ۳۰۷)

اور عرف شرع میں حاضر و ناظر کے معنی ہیں ساری دنیا کو دیکھنا اور دور و نزدیک کی آوازوں کو سننا یا تھوڑے سے وقت میں دنیا بھر کی سیر کر لینا اور آن واحد میں روحانی یا جسم مثالی کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر مدد کے لئے پہنچ جانا۔

اللہ کے محظی بندوں کا حاضر و ناظر ہونا حق ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بڑے بڑے علمائے کرام و بزرگان دین کا یہی عقیدہ ہے۔ ثبوت ملاحظہ ہو۔

## حضور سید عالم کا عقیدہ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وصال مبارک ۱۱ ہجری مطابق ۲۳۲ عیسوی)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔

نَعَيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَ جَعْفَرًا وَ أَبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِمْ خَبْرُهُمْ فَقَالَ أَخْذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخْذَ جَعْفَرًا فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخْذَ أَبْنَ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَلَرِفَانِ حَتَّى أَخْذَ الرَّأْيَةَ

لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک مرغ جس کا گوشت حضرت نے ملاحظہ فرمایا تھا مناسب قیمت دے کر خریدا گیا تھا اور دوسرا مرغ ظلم سے حاصل ہوا تھا۔ (محبوب بیز دانی صفحہ ۸۸)

ہرات سے یاغستان جاتے ہوئے اٹائے سفر میں حضرت کا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا جہاں کئی دن تک آبادی کا نام و نشان نہ ملا۔ تین روز تک بغیر کھائے پیئے قافلہ چلتا رہا۔ رفتائے سفر بے قرار ہو گئے اور جب برداشت سے باہر ہو گیا تو حضرت تک یہ بات پہنچائی گئی کہ قافلہ والے بھوک کی شدت سے ٹھھال ہیں اور اب آگے سفر ان کے لئے ناممکن ہو رہا ہے۔ حضرت نے قافلہ والوں سے کمر کھول دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لو ہے کی زنجیر ہو تو میرے پاس لاو! تلاش کرنے پر ایک قلندر نے دی۔ زنجیر آپ کی خدمت میں حاضر کی گئی۔ آپ نے اس پر توجہ ڈالی۔ کیا اسٹرنگہ سے وہ لو ہے کی زنجیر سونے کی ہو گئی۔ بابا حسین جو آپ کے خادم خاص تھے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ! یہاں سے کچھ فاصلے پر فلاں سمت ایک بازار ہے اسے فروخت کر کے تین دن کے کھانے پیئے کا سامان خرید لینا اور جو رقم فتح جائے اسے واپسی پر میرے پاس مت لانا بلکہ پانی میں ڈال دینا۔ چنانچہ بابا حسین نشان زدہ مقام پر پہنچے تو ان کی حرمت کی انتہاء رہی کہ ایک ایسی دیران جگہ میں کہ جہاں تین دن تک کوئی آبادی نہ مل سکی۔ راستے میں کھانے پیئے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ یہاں اتنا عظیم الشان بازار کہاں سے آگیا۔ بہر حال وہ بازار میں پھرتے پھراتے سونے چاندی کی دوکان پر پہنچے۔ اپنی زنجیر فروخت کی اور تین دن کا راشن خرید کر چانوروں پر لادا اور واپس ہوئے۔ راستے میں باقی رقم پانی میں پھینک دی اور قافلہ میں پہنچ کر حضرت کو اس کی اطلاع دے دی۔

آپ کے ایک مرید تنگر قلی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ بابا حسین نے باقی روے واپسی پر پانی میں پھینک دیئے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ رقم پانی میں پھینک کر ہاتھ ضائع کی گئی۔ اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ کسی فقیر اور ملی حاجت کو دے دی جاتی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تنگر قلی! تم خدا کے کاموں میں دخل دیتے ہو اور آرَحْمُ الرَّاحِمِينَ کو پروردش کا سبق سکھاتے ہو! تمہیں کیا خبر کہ ضائع ہوا کٹھیک ہوا۔

تنگر قلی سخت نام ہوئے اور حضرت سے بہت معافی چاہی۔ (محبوب بیز دانی صفحہ ۸۹)

مولانا اعلام الدین کی کہی ہوئی بات کو جان لینا، فلسفی کی حالت سے آگاہ ہو جانا، شیخ نظام کے خیالات پر مطلع ہونا، ظلم سے حاصل کئے گئے مرغ سے واقف ہو جانا اور تنگر قلی کے

## محمد شیں کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

جو حدیثیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقیدہ میں بخاری شریف اور زرقانی شریف کی لکھی گئی ہیں، ان حدیثوں سے حضور کا عقیدہ معلوم ہونے کے ساتھ حضرت امام بخاری اور حضرت علامہ زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی عقیدہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں۔ ورنہ ان حدیثوں کو یہ حضرات اپنی کتابوں میں ہرگز نہ لکھتے اور دیگر محمد شین کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

## حضرت امام ترمذی اور صاحب مشکوٰۃ کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلْمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَالَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ إِنَّمَا رواه الترمذی  
ترجمہ: میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا وہ رورہی ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ آپ روئی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک اور ریش اقدس (داڑھی مبارک) پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر حاضر ہوا تھا۔ (ترمذی، مشکوٰۃ صفحہ ۵۷۰)

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے کربلا شریف کے میدان جنگ میں جانا اور وہاں کے حالات کو ملاحظہ فرمانا، حاضر و ناظر کے معنی ہیں۔ حضرت امام ترمذی اور صاحب مشکوٰۃ علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث شریف کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں۔

سَيِّفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدٍ حَتَّى فَتحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ان لوگوں کے شہید ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید نے جہنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید کئے گیا پھر جعفر نے جہنڈے کو سنجالا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر ابن رواحہ نے جہنڈے کو لیا اور وہ بھی شہید کئے گئے۔ آپ یہ واقعہ بیان فرمารہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اب جہنڈے کو اس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے یعنی خالد بن ولید نے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۶۱)

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَمَا أَنْظُرْتُ إِلَى كَفْفَيْ هَذِهِ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دنیا کے پردے اٹھا دیئے ہیں تو میں دنیا کو اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی اس ہتھیلی کو۔ (زرقانی علی المواہب جلد ۷ صفحہ ۲۰۳)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم ﷺ کا اپنے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میں حاضر و ناظر ہوں۔ اسی لئے جنگ موت جو ملک شام میں ہو رہی ہے، مدینہ منورہ ہی سے اس کے سارے واقعات کو جانتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں بلکہ دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اُس کو میں اس طرح جانتا اور دیکھتا ہوں، جیسے اپنی ہتھیلی۔ اگر حضور ﷺ کا اپنے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ نہ ہوتا تو آپ ایسا نہ فرماتے۔

ان عبارتوں سے حضرت علامہ قاضی عیاض اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والصلوٰۃ حاضر و ناظر ہیں سب مسلمانوں کے گھروں میں ان کی روح مبارک موجود ہے۔ ان پر سلام عرض کیا جائے گا۔

### حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۹۱۱ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

**النَّظرُ فِي أَعْمَالِ أُمَّةٍ وَالْاسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالدُّعَاءُ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ وَالتَّرْدُذُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَالْبُرْكَةُ فِيهَا وَخُضُورُ جَنَازَةِ مِنْ صَالِحِي أُمَّةِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورُ مِنْ أَشْغَالِهِ كَمَا وَرَدَتْ بِنِيلَكَ الْحَدِيثُ وَالْأَثَارُ.**

ترجمہ: اپنی امت کے اعمال پر نگاہ رکھنا، ان کے گناہوں کے لئے استغفار کرنا، ان سے بلا دور ہونے کی دعا کرنا، زمین میں اوہر ادھر آنا جانا، اس میں برکت دینا اور اپنی امت میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ یہ چیزیں حضور علیہ الصلوٰۃ والصلوٰۃ کا مشغلہ ہیں۔

جیسے کہ اس کے متعلق حدیثیں اور آثار آئے ہیں۔ (انتباہ الاذکیاء صفحہ ۵۲)

اس عبارت سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کا عقیدہ ظاہر ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں کہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اپنی امت کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں اور زمین میں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں۔

### حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی بخاری کا عقیدہ (علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۵۲ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

باقندیں اختلاف و کثرت مذاہب کہ در علمائے امت ست یک کس رادیں مسئلہ خلاف نیست کہ آس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقت حیات بے شایبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی ست و بر اعمال امت حاضر و ناظر و مرطابان حقیقت را و متوجہاں آں حضرت رام غیض و مرتبی۔

## شارح بخاری علامہ عسقلانی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۸۵۲ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاءُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَّحَيَاَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأَمْتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِأَخْوَالِهِمْ وَ نِيَاتِهِمْ وَ عَزَائِمِهِمْ وَ خَوَاطِرِهِمْ وَ ذَلِكَ جَلِيلٌ عِنْدَهُ لَا خِفَاءَ بِهِ۔

ترجمہ: ہمارے علمائے کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کی حالتوں، نیتوں اور رازوں اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ آپ پر بالکل ظاہر ہیں۔ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ (مواہب الدینیہ جلد دوم صفحہ ۳۸۷)

حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس تحریر سے ظاہر ہوا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرکار اقدس طیلۃ اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس لئے کہ اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کی حالتوں کو جانتے ہیں۔

## حضرت قاضی عیاض اور ملا علی قاری کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ قَطْلِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

ترجمہ: جب گھر میں کوئی نہ ہو تو تم کہو اے نبی! آپ پر سلام اور اللہ

تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۵۲)

اس عبارت کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔

لَا إِنْ رُوحَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرَةٌ فِي بَيْوَتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ۔

ترجمہ: اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح مبارک مسلمانوں

کے گھروں میں موجود ہے۔  
(شرح شفا ملا علی قاری مع نیم الریاض جلد سوم صفحہ ۳۶۳)

چاہے زمین پر چاہے قبر میں یا کہیں اور۔ تو درست ہے۔ قبر سے ہر حال میں تعلق رہتا ہے۔ (مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ۲۵۰)

اور حضرت شیخ محقق تحریر فرماتے ہیں۔

بعض عرقاً گفتہ اند کہ ایس خطاب بجهت سریان حقیقت محمدیہ است در ز راز موجودات و افراد و ممکنات۔ پس آں حضرت در ذات مصلیان موجود و حاضر است۔ پس مصلی را باید کہ ازیں معنی آگاہ باشد و ازیں شہود غافل نبودتا انوار قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد۔

ترجمہ: بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب یعنی التَّحِيَاتِ میں حضور کو السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کہہ کر سلام عرض کرنا اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرہ ذرہ اور ممکنات کے ہر ہر فرد میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔ نمازی کو چاہیئے کہ اس بات سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے انوار اور معرفت کے بھیدوں سے روشن اور کامیاب ہو جائے۔ (اشعہ المعمات جلد اول صفحہ ۳۰)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان تحریروں سے ان کے عقیدے بالکل کھلمنہ کھلا ظاہر ہیں کہ اللہ کے محبوب داتائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اپنے ذکر کرنے والے کے ہم نشین ہیں، زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی حقیقت موجودات کے ہر ہر ذرے اور ممکنات کے ہر ہر فرد میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

**صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی کا عقیدہ**  
(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۹۰۷ء اہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ جِهَةِ الْأَجْسَامِ وَالظَّواہِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَبَوَاطِنِهِمْ  
وَقُوَّاهُمُ الرُّوحَانِيَّةُ مَلِكَيَّةُ وَلَدًا تَرَى مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تَسْمَعُ  
أَطِيَّةَ السَّمَاءِ وَتَشْمَعُ رَائِحةَ جِبْرِيلَ إِذَا أَرَادَ النَّزُولَ إِلَيْهِمْ.

ترجمہ: امت کے علماء میں اتنے اختلافات اور بہت سے مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ حضورؐ کی زندگی میں مجاز کی آمیزش و تاویل کا وہم نہیں ہے اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کی جانب توجہ رکھتے ہیں۔ حضورؐ ان سب کو فیض پہنچانے والے اور ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔

(سلوک اقرب اصل بالتجهیل سید المرسلین اخبار الاخیر مطبوعہ جمیعہ دیوبند صفحہ ۱۶۱)

اور حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں۔

ذکر کن اور او درود بفرست بروئے علیہ السلام و باش در حال ذکر گویا حاضر ست پیش تو در حالت حیات و می بینی تو اور امداد باجلال و تعظیم و بیت و حیاد بدائلکہ وے علیہ السلام می بیندومی شنود کلام ترا۔ زیرا کہ وے علیہ السلام متصف ست بصفات الہیہ و یکے از صفات الہی آنت آتا جلیسُ مَنْ ذَكَرَنِی۔

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور ان پر درود پڑھو اور ذکر کی حالت میں ایسے رہو کہ حضورؐ زندگی کی حالت میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو۔ ادب جلال، تعظیم، بیت اور حیا سے رہو اور جانو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیکھتے اور تمہارے کلام کو سنتے ہیں۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کا ہمنشین ہوں۔

(مدارج النبوة)

اور شیخ محقق علی الاطلاق تحریر فرماتے ہیں۔

اگر بعد ازاں گویند کہ حق تعالیٰ جسد شریف را حالت و قدرتے بخشیدہ است کہ در ہر مکانے کہ خواہ بد تشریف بخشد خواہ بعینہ خواہ بہشال خواہ برآسان خواہ بر زمین خواہ در قبر یا غیر وے صورتے دارد باوجود ثبوت نسبت خاص بقبر در ہمہ حال۔

ترجمہ: اگر اس کے بعد کہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ایسی حالت و قدرت بخشی ہے کہ جس جگہ چاہیں تشریف لے جائیں چاہے بالکل اسی جسم سے چاہے جسم مثالی سے چاہے آسان پر

جب وہ وقت آیا تو حضرت والا اس طرف متوجہ ہوئے اور توجہ کے دوران آپ کے بدن پر ملال ظاہر ہوا۔ حاضرین نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ کچھ دنوں کے سخت سفر نے تمکا دیا ہے۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو بیان کیا کہ وہاں ڈاکو آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود تھے۔ ڈاکوؤں نے پورے قافلہ کو لوٹا مگر میری بہلی محفوظ رہی۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۳۲)

سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ شریف سے جان لینا کہ دہلی میں حضرت شاہ عبدالرحیم کو انتہائی بھوک و پیاس کے سبب بہت کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ان کو کھانے پینے کے لئے خوشبودار زردہ اور خوشگوار شخص نہ اپنی مرمت فرماتا اور خود حضرت شاہ عبدالرحیم کا اجیر شریف سے دو منزل ادھر ڈاکہ پڑنے کو دہلی میں بیٹھے ہوئے دیکھنا اور عین وقت پر محمد فاضل کے بیٹے کی حفاظت کے لئے مثالی صورت میں وہاں پہنچ جانا یہ سب حاضر و ناظر کا کام ہے۔ لہذا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں بلکہ اولیاء اللہ بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہمارے باپ حضرت شاہ عبدالرحیم بھی ہیں۔

### حضرت علامہ نبہانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۳۵۰ ہجری)

امام الحمد شین عاشق رسول حضرت علامہ یوسفی بن اسحیل نبہانی علیہ الرحمۃ والرضوان علاقہ فلسطین میں ۱۲۶۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵۰ ہجری میں بمقام بیروت وصال فرمایا۔ آپ کی لکھی ہوئی چھوٹی بڑی کتابیں پچاس سے زیادہ ہیں۔

آپ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عدوی اپنی کتاب مشارق الانوار میں لکھتے ہیں کہ شہر بیجن کے ایک علوی کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی سرفراز چلی گئیں۔ ساتھ میں چند بیٹیاں بھی تھیں جن کو انہوں نے مسجد میں بٹھا دیا اور خود جا کر انہوں نے رئیس شہر سے ملاقات کی اور اس سے اپنا حالی زار بیان کیا، مگر مسلمان ہونے کے باوجود اس نے کوئی توجہ نہیں کی اور کہا اَقِيمِيْ عِنْدِي الْبَيْنَةَ اَنْكِ عَلَوِيَّةً۔ یعنی اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ محافظہ شہر کے پاس گئیں جو جموی کافر آتش پرست تھا۔ اس

ترجمہ: انیاۓ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں اور ان کے باطن اور روحانی قوتیں فرشتوں والی ہیں۔ اسی لئے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کی چیزیں اہست سننے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کی خوبیوں پالیتے ہیں جب وہ ان کی جانب اترتے ہیں۔ (شیم الریاض جلد سوم صفحہ ۵۲۵)

اس تحریر سے حضرت علامہ شہاب الدین خفیجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ثابت ہے کہ انیاۓ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں کہ وہ مشرقوں و مغربوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں۔

### حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۷۶۱ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ والد ماجد قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری نکسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی بنا پر روزہ توڑ دوں، مگر رمضان کے روزہ کی فضیلت کے ضائع ہونے کا غم لاحق ہوا۔ اسی غم میں قدرے غنوڈگی طاری ہوئی تو حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زردہ عطا فرمایا ہے۔ پھر انتہائی خوشگوار سخندا پانی بھی سے روزہ افطار کیا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۰۰)

اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ والد ماجد قبلہ نے فرمایا۔ محمد فاضل نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اجیسی بحیج دے اور راستے کی بدآمنی کے پیش نظر خود بھی اس کے ساتھ جاتا کیونکہ وہ بحفاظت واپس آجائے گا۔ ہاں البتہ واپسی پر اجیسی سے دو منزل ادھر ڈاکو قافلہ پر حملہ کریں گے، مگر اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں البتہ اسے سمجھا دیجئے کہ اس وقت اپنی بھلی الگ ایک طرف کھڑی کر دے۔

یہ سن کر سید عبدالرحمن روپڑے اور کہا جتاب! میں ایسا کہاں ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یاد فرمائیں۔ یہ سننا تھا کہ تمام حاضرین بھی روپڑے اور سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سب نے سید صاحب سے دعا کی درخواست کی اور واپس آ گئے۔ (الشرف المؤبد صفحہ ۹۸)

سرقد کے رئیس شہر سے علوی خاتون کا اپنا حال زار بیان کرتا، جواب میں رئیس شہر کا یہ کہنا کہ تم اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو اور محافظہ شہر جوی کا علوی خاتون کی خاطر و مدارات کرتا اور ان کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آتا۔ اور محمود گورنر کا یونچے بیٹھنا، سید صاحب کا بلند مقام پر تشریف رکھنا اور پھر گورنر کا اپنے دل میں یہ خیال لانا کہ یہ مجھ سے اونچے کیوں بیٹھے۔

ان ساری باتوں کو اللہ کے محبوب دانتے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنے اور جانے والے ہیں اور اسی قسم کی باتوں کے دیکھنے اور جانے والے کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ علامہ نبہانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اگر وہ حاضر و ناظر ہوتے تو ان واقعات و حالات کو وہ ہرگز نہ دیکھ پاتے اور نہ جان پاتے۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن سعید المعروف زیزیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی کے زمانہ میں حضرت شیخ محمد بن ابو بکر بن قوام علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفی ۲۵۸ ھجری) کے ساتھ عہد کر لیا۔ ایک بار مجھے بیت المقدس کی زیارت کا خیال ہوا تو میں نے حضرت سے حاضری کی اجازت چاہی۔ فرمائے گئے بیٹا! جوان ہو اور مجھے خوف ہے کوئی خرابی نہ ہو۔ میں نے بڑی زاری اور الحاج سے کام لیا تو مجھے یہ کہتے ہوئے اجازت مرحمت فرمائی کہ میراسر (بھید) تیری حفاظت یوں کرے گا جس طرح لو ہے کا پنجہ حفاظت کرتا ہے اور فرمایا جب دمشق کے دروازے پر محل کے سامنے آؤ تو شہر میں داخل ہو کر شیخ علی بن جمل کو پوچھنا اور ان کی زیارت کرتا وہ اللہ کے ولی ہیں۔

جب میں وہاں پہنچا تو ان کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے مجھے ان کا پتہ بتایا۔ میں نے ان کے گھر پہنچ کر دروازہ کھنکھایا تو ان کے گھر کا ایک آدمی لکلا اور مجھے کہا علی! تشریف لائیں۔ حضرت نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ علی نام کا ایک فقیر تمہارے پاس آئے گا۔ وہ حضرت شیخ ابو بکر بن قوام کا غلام ہے۔ اسے میرے آنے تک اندر آنے کی

نے آپ کا اور آپ کی بیٹیوں کا بڑا احترام کیا۔ اپنے گھر میں ان کے لئے الگ رہائش گاہ مقرر کی۔ غسل کا انتظام کیا اور بہترین کپڑے پہنائے۔ اس تعظیم و حکمریم کی برکت سے مجوہی کا پورا گھر مسلمان ہو گیا۔

رات کے وقت رئیس شہر نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور **لِوَاءُ الْحَمْدِ** حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور پر لہرا رہا تھا۔ حضور نے رئیس شہر سے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا حضور! آپ مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں، حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا **إِقْمَاعُ الْبَيْنَةِ عِنْدِكَ أَنْكَ مُسْلِمٌ**۔ اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ وہ شخص یہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تو نے اس علوی عورت سے جو کچھ کہا تھا، اسے بھول گیا اور جنت کے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محافظ شہر سے فرمایا **هَذَا الْفَضْرُ لَكَ وَلَا هُنْ لَكَ بِمَا فَعَلْتَ مَعَ الْعَلَوِيَّةِ وَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ**۔ یہ محل تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لئے ہے اور تم لوگ جتنی ہو۔

(الشرف المؤبد لآل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفحہ ۹۷)

اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ علامہ مقریزی فرماتے ہیں۔ مجھ سے رئیس شہر الدین محمد بن عبد اللہ عمری نے بیان کیا کہ میں ایک دن قاضی جمال الدین محمود عجمی کی خدمت میں حاضر ہوا جو قاہرہ کے گورنر تھے۔ وہ اپنے نائبوں اور خادموں کے ہمراہ سید عبدالرحمن موزن کے گھر تشریف لے گئے۔ ان سے اجازت طلب کی۔ وہ اپنے گھر سے باہر آئے تو انہیں گورنر کے اپنے یہاں آنے پر سخت حیرت ہوئی۔ وہ انہیں اندر لے گئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے اور سید عبدالرحمن کے سامنے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھے۔

سب لوگ جب اطمینان سے بیٹھے گئے تو گورنر نے سید صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرمادیجئے۔ انہوں نے کہا جناب کیا چیز معاف کر دوں؟ گورنر صاحب نے کہا کہ حضرت کل رات میں قلعہ پر گیا اور بادشاہ ظاہر برقوق کے سامنے بیٹھا تو آپ تشریف لائے اور مجھ سے بلند جگہ پر بیٹھے گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ کی مجلس میں مجھ سے اونچے کیوں بیٹھے ہیں؟ رات کو سویا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھیج کر دیا گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا **يَا مَحْمُودُ تَابِفُ إِنْ تَجْلِسَ تَحْتَ وَلَدِيْ**۔ محمود! تو اس بات سے عار محسوس کرتا ہے کہ میری اولاد سے نیچے بیٹھے۔

وہ خود حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۷)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی خاتون ملک فرگ میں رہتی تھی اور حضرت محمد بن احمد فرغل صعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۶۰ ہجری) کی معتقد تھی۔ اس نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے اس کے لڑکے کوشقادے دی تو وہ حضرت فرغل کے لئے دری بنائے گی۔ ایک دن آپ فرمانے لگے، اب ان لوگوں نے دری کے لئے پشمیں کا تاشروع کر دیا۔ اب انہوں نے سوت کوئلوں پر چڑھایا، اب وہ بننے لگے گئے ہیں۔ اب انہوں نے دری بھیج دی ہے۔ اب مقامِ مرکب پر وہ اتر گئے ہیں اور فلاں جگہ پر وہ ہیں۔ اب فلاں مقام پر وہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن فرمایا ابھی ایک سامنے آتا ہے اس نے دری پکڑ رکھی ہے اور دروازے پر پہنچ گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو واقعی ایسا ہی ہوا۔

(جامع کرامات اولیاء صفحہ ۶۸۶)

حضرت شیخ ابن قوام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خادم کے سارے واقعاتِ سفر کو بغیر کسی آله کے دیکھنا اور جانتا۔ اسی طرح حضرت فرغل علیہ الرحمۃ کا دری کے متعلق سارے حالات کو ملاحظہ فرمانا حاضر و ناظر کا معنی ہے۔ حضرت علامہ نہبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات کو کتاب میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ کے بعض ولی بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔



اجازت دے دینا۔ ان کے کہنے پر میں اندر جا کر بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ علی بن جمل تشریف لے آئے۔ میں نے اٹھ کر انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر فرمایا علی! گزشتہ رات حضرت شیخ محمد ابو بکر آئے تھے اور تمہاری خبر گیری کے لئے کہا۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس لئے کہ آپ سر شیخ میں یوں محفوظ ہیں جیسے کوئی پنجرے میں محفوظ رہتا ہے۔

میں ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ پھر بیت المقدس چلا۔ جب وہاں پہنچا تو شدید گری میں شہر سے باہر ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے جواب دے کر فرمایا بیٹا! بہت دریکردی ہے۔ میں صحیح سے تمہارا یہاں انتفار کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں ڈرایہ کوئی مخلوک آدمی نہ ہو۔ مجھے فرمایا علی! ڈرونیں۔ حضرت شیخ نے آکر مجھے تمہارے متعلق حکم فرمایا تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے کھانا منگوایا اور اسے تناول کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ جب نماز کا وقت آیا تو کہا اب اٹھیں۔ نماز حرمِ اقدس میں پڑھیں گے۔ ہم دونوں آدمی نکل کر حرمِ اقدس میں پہنچے۔ وہاں نمازیں پڑھیں اور گھر واپس آگئے۔ رات ہوئی تو وہ پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ جب انہیں محسوس ہوتا کہ میں جاگ رہا ہوں تو وہ بیٹھ جاتے اور جب میرے سوجانے کا یقین ہو جاتا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ (یہ سب اس لئے کہ ریا کاری نہ ہو)

میں کئی دن ان کے یہاں ٹھہرا رہا۔ پھر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت کے کے لئے نکلا۔ انہوں نے میرے ساتھ چل کر الوداع کہا۔ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار کے قریب پہنچا تو چار ڈاکو میری طرف بڑھے۔ جب میرے قریب آئے تو مبہوت ہو کر میرے پیچھے دیکھنے لگے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو سفید کپڑوں میں ملبوس مہ لپیٹے ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا۔ اس نے مجھے کہا اپنا راستہ چلتے جائیں۔ میں چلتا گیا وہ اس وقت تک میرے ساتھ رہا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر اور شہر سامنے نہیں آگیا۔ اب وہ کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے اور میں شہر میں داخل ہو کر زیارت کرنے لگا۔ جب میں اپنے شہر واپس پہنچا تو سب سے پہلے حضرت شیخ کی سلامی کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ نے میرے سر کے سب واقعات بیان فرمادیئے اور فرمانے لگے کہ اگر وہ منه کیا تو آپ نے میرے سر کے سب واقعات بیان فرمادیئے کہ اس امار لیتے۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ

- میں قیصر و کسری اور شجاعتی کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہوں، جیسے محمد ﷺ کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر لیتا ہے اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تقلیل ہوتی ہے اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا مستعمل پانی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور جب ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور تعظیماً ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔

(بخاری شریف جلد اول صفحہ ۳۷۹)

(۳) حضرت ابو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا۔  
 آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قَبْيَةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدْمَمْ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَدَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَتَدَرَّوْنَ الْوُضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصْبِبْ مِنْهُ أَخَدَ مِنْ بَلَالِ يَدِ صَاحِبِهِ۔

ترجمہ: میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والعلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ چہرے کے سرخ تباہ میں تشریف فرماتھے اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے حضور ﷺ کے وضو کا مستعمل پانی (ایک برتن) میں لیا اور لوگ اس پانی کی طرف دوڑ رہے ہیں تو جس کو اس میں سے کچھ حاصل ہو گیا اس نے (اپنے چہرے وغیرہ پر) اس کوں لیا اور جس نے نہیں پایا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری لے لی۔ (بخاری شریف جلد دوم صفحہ ۸۷)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پید عالم ﷺ کی تعظیم کرتے تھے، مگر آپ انہیں منع نہیں فرماتے تھے، جس سے واضح طور پر حضور ﷺ کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ مسلمان ان کی تعظیم کریں تو یہ شرک نہیں۔ اگر یہ بات شرک ہوتی تو حضور ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس سے ضرور منع فرماتے۔

(۴) حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

## تعظیم

تعظیم معنی ہے قول یا فعل سے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام و مشائخ عظام وغیرہ کی تعظیم جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بزرگوں کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

### حضور سید عالم کا عقیدہ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وصال مبارک ۱۱ ہجری مطابق ۶۳۲ عیسوی)

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحُمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤْفِرْ كَبِيرَنَا.

ترجمہ: جو ہمارے چھپٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم

و توقیر نہ کرے وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ (ترمذی۔ مخلوٰۃ صفحہ ۲۲۳)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم ﷺ کے نزدیک اپنے بڑے کی تعظیم کرنا شرک نہیں بلکہ ایمان کرنے والا حضور ﷺ کے راستے پر ہی نہیں۔

(۲) حضرت مسیح بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ حدیثیہ کے مقام پر حضور ﷺ سے صلح کی گفتگو کرنے کے لئے آئے۔ اس موقع پر صحابہ کو حضور ﷺ کی تعظیم کرتے ہوئے جوانہوں نے دیکھا تھا واپسی کے بعد مکہ شریف کے کافروں سے ان لفظوں میں انہوں نے بیان کیا۔

وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى  
وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مِلِكًا قَطُّ يَعْظِمُهُ أَصْحَابَهُ مَا يَعْظِمُ  
أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَنْخَمَ نَحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفَّ  
رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهُهُ وَجَلْدُهُ وَإِذَا أَمْرَهُمْ إِنْتَدِرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا  
تَوَضَّأُ كَادُوا يَقْتَلُونَ عَلَى وَضُوْنِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُ خَفَضُوا أَصْوَاتِهِمْ عِنْدَهُ  
وَمَا يُحَدِّثُنَّ إِلَيْهِ تَنْظَرُ تَعْظِيمًا لَهُ.

ترجمہ: قسم خدا کی میں بادشاہوں کے درباوں میں وفد لے کر گیا ہوں

ترجمہ: بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ (مقدمہ فتح الباری، شرح بخاری صفحہ ۵)

حدیث شریف کی تعظیم حقیقت میں رسول اللہ ﷺ کی تعظیم ہے۔ تو حضرت امام بخاری مرحومہ ﷺ علیہ نے حدیث رسول ﷺ کی اس طرح تعظیم فرمایا کہ اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم ﷺ کی تعظیم حق ہے۔

اور بعض صحابہ حدیث شریف لکھنے تھے (دیکھئے بخاری شریف جلد اول صفحہ ۲۲ سطر ۸) مگر وہ ہر حدیث شریف لکھنے سے پہلے نہ غسل کرتے تھے اور نہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت امام بخاری نے ہر حدیث کے پہلے غسل و نماز سے اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ رسول ﷺ کی تعظیم کا ہر طریقہ صحابہ سے ثابت ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر وہ طریقہ کہ جس سے حضور سید عالم ﷺ کی برائی ظاہر ہو، ان تمام طریقوں سے حضور ﷺ کی تعظیم جائز و محسن ہے۔

اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والصلیم نے اس حدیث کی تعظیم سے اپنی تعظیم کا حکم نہیں فرمایا لیکن امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے حدیث کی تعظیم سے حضور ﷺ کی تعظیم فرمایا کہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عام و تَعْزِيزُهُ وَ تُوَقِّرُهُ۔ یعنی رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر کرو (پارہ ۲۶ رکوع ۹) تعظیم کی تمام قسموں کو شامل ہے۔

### حضرت امام مالک کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۹۷۹ ہجری)

(۱) حضرت ابو مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرمانتے ہیں۔

کَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ.

ترجمہ: حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کی حدیث شریف کی تعظیم و تکریم کی خاطر بغیر وضو کے بیان نہیں فرماتے تھے۔

(شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۳۵)

(۲) حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ

إِنْ رَجُلًا أَمْ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِينَ فَرَغَ لَا يُصْلِي لَكُمْ فَارَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصْلِي لَهُمْ فَمَنَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ . وَحَسِبَتْ أَنَّهُ قَالَ إِنْكَ قَدْ أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

ترجمہ: ایک شخص اپنی قوم کو نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا اور رسول اللہ ﷺ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضور ﷺ نے اس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ شخص تم لوگوں کی نماز نہ پڑھائے۔ حضور ﷺ کی ممانعت کے بعد اس شخص نے نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے روک دیا اور رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اس کو آگاہ کیا۔ شخص مذکور نے حضور ﷺ سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے منع کیا ہے! راوی حدیث حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے خیال میں حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ و رسول گوازیت دی۔ (ابوداؤد۔ مشکلاۃ صفحہ ۷)

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جانب اس کی تعظیم کے لئے تھونکے سے منع کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکلاۃ جلد اول صفحہ ۳۵۵) تو امام پر چونکہ کعبہ شریف کی تعظیم لازم تھی، مگر اس نے نہیں کی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھانے سے اس شخص کو منع فرمادیا حالانکہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے جہاں سے وہ کعبہ شریف کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور پیدا عالم ﷺ کا یہ عقیدہ ہے کہ تعظیم کے لئے معظم یعنی جس کی تعظیم کرتا ہے اس کا سامنے ہوتا اور دیکھنا ضروری نہیں بلکہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا بھی اس کی تعظیم کی جائے گی۔

### حضرت امام بخاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۲۵۶ ہجری)

حضرت محمد بن یوسف قربری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا۔

مَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِ الصَّحِيفَةِ حَدَبَنَا إِلَّا أَغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ

ہر قسم کی تعظیم کا صحابہ سے ثابت ہوتا ضروری نہیں بلکہ مسلمانوں کا جذبہ دل جس طرح بھی رہبری کرے ہر طریقے سے سرکارِ اقدس ﷺ کی بڑائی ظاہر کرنا جائز ہے۔

**حضرت علامہ قاضی عیاض کا عقیدہ**

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۳۳ھجری)

(۱) خدائے عز و جل نے ارشاد فرمایا۔

وَتَعْزِيزُهُ وَتَوْقِيرُهُ.

ترجمہ: رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر کرو۔ (پارہ ۲۶ رکوع ۹)

اس آیت مبارکہ کو نقل فرمانے کے بعد حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْزِيزَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَالْزَمَّ الْكَرَامَةَ وَتَعْظِيمَهُ.

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی حرمت و توقیر کو واجب قرار دیا اور ان کی تکریم و تعظیم کو لازم فرمایا۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۲۸)

اس تحریر میں حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ واضح طور پر لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیمان کی تعظیم واجب ہے۔  
(۲) ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا.

ترجمہ: اے ایمان والو! رَأَيْنَا ملت کہو اُنْظُرُنَا کہو (پارہ ارکو ۳۴)

حضور ﷺ جب کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کی سمجھ میں نہ آتا تو عرض کرتے۔ رَأَيْنَا یا رَسُولُ اللَّهِ یعنی یا رسول اللہ ﷺ ! ہماری رعایت فرمائے اور اس بات کو دوبارہ فرم دیجئے۔ مگر یہودیوں کی بولی میں یہ گالی تھی۔ وہ لوگ حضور ﷺ سے یہ کلمہ گالی کے معنی میں کہنے لگے تو مسلمانوں کی نیت اگرچہ صحیح تھیں مگر ان کو رَأَيْنَا کہنے سے روک دیا گیا اور اس کی جگہ لفظ اُنْظُرُنَا یعنی ہم پر نظر رکھیں۔ کہنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کو لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

نُهُوَا عَنْ قُولُهَا تَعْظِيْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: صحابہ کرام حضور ﷺ کی تعظیم و تکریم کے لئے لفظ رَأَيْنَا کہنے

تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ کچھ پوچھنے کے لئے آتے تو خادمہ آپ کے دولت خانہ سے نکل کر دریافت کیا کرتی کہ حدیث شریف پوچھنے کے لئے آئے ہو یا نقیبی مسئلہ؟ اگر وہ کہتے کہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں تو امام موصوف فوراً باہر تشریف لے آتے اور اگر وہ کہتے کہ حدیث شریف کے لئے آئے ہیں تو حضرت امام مالک غسل فرمائے خوبیوں لگاتے پھر لباس بدل کر نکلتے۔ آپ کے لئے تخت بچھایا جاتا جس پر آپ وقار کے ساتھ بیٹھ کر حدیث شریف بیان فرماتے اور شروع مجلس سے آخر تک خوبیوں سلسلائی جاتی اور وہ تخت صرف حدیث شریف روایت کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔ جب امام موصوف سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا۔

أَحِبُّ أَنْ أَعْظَمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ اس طرح رسول اللہ ﷺ کی حدیث شریف

کی تعظیم کروں۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۳۵)

(۳) حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ حدیثیں بیان فرمائے تھے کہ اسی اثنامیں ایک بچھو نے آپ کو ۱۶ مرتبہ ذکر مارا جس سے ان کا رنگ بدل کر پیلا ہوا تھا، مگر انہوں نے حضور ﷺ کی حدیث شریف کو بیان کرنا بندہ کیا۔ جب آپ روایت حدیث سے فارغ ہو گئے اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کیا کہ آج آپ کے اندر میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

إِنَّمَا صَبَرْتُ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث شریف کی تعظیم میں صبر کیا۔

(شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۳۶)

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث کی تعظیم سے حضور سید عالم ﷺ کی تعظیم فرمائی اپنی عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی کریم افضل الصلوٰۃ والاعظم کی تعظیم حق ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چلتے پھرتے اور اشتعہ بیٹھتے ہر حال میں ایک دوسرے سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے لئے غسل کرنے، عطر لگانے، خوبیوں سلسلانے اور تخت بچھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ مگر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرنے کے لئے ان باتوں کا اہتمام فرمائی اپنی عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ

اور جن جگہوں میں آپ نے قیام فرمایا اور وہ ساری چیزیں کہ جن کو آپ کے دستِ مبارک نے چھوایا وہ آپ کے کسی عضو سے مس ہوئیں یا آپ کے نام سے پکاری جاتی ہیں ان سب کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۳۳۷)

یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو بہت ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو چیزیں حضور ﷺ سے نسبت رکھتی ہیں ان کی بھی تعظیم کی جائے گی۔

### صاحب ہدایہ علامہ مرغینیانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۹۳ھجری)

آپ کا نام نایی علی، کنیت ابو الحسن اور لقب برہان الدین ہے۔ والد گرامی کا نام ابو بکر ہے۔ مرغینیان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں جو فرغانہ کے شہروں میں سے ماوراء النہر میں ایک شہر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ۸۔ رب الرجب ۱۱۵ھجری پیر کے دن عصر کے بعد پیدا ہوئے اور ۵۲۲ھجری میں حج بیت اللہ و زیارتِ روضہ متورہ سرکار اقدس ﷺ سے مشرف ہوئے۔ آپ نے مفتی الشقلین بن جم الدین ابو حفص عمر نسفی، ابو الفتح محمد بن عبد الرحمن مرزوqi، شیخ الاسلام ضیاء الدین ابو محمد صاعد مرغینیانی، ابو شجاع ضیاء السلام عمر بن محمد بخشی بسطامی اور ابو عمر و عثمان بیکندری تلمیذ شش الائمه سرخی وغیرہ اساطین امت سے علم حاصل کیا جو اپنے زمانے کے ہر فن میں مرجح خلاق تھے۔

ان مقدس ہستیوں کے فیضانِ صحبت نے آپ کو کشورِ علم و فضل کا تاجدار بنادیا جس کی مکمل تصویر صاحب جواہرِ مضیہ نے اس طرح تکھنی ہے کہ صاحب ہدایہ امام وقت، فقیرہ بے بدل، حلاظہ دوراں، مفسر قرآن، محدث زمانہ، جامع علوم، ضابط فنون، پختہ علم والے تحقق، وسیع النظر باریک میں، عابد و زاہد، پرہیزگار، فائق القرآن، فاضل الاعوام، ماہر فنون، اصولی، بے مثل ادیب اور بے نظر شاعر تھے۔ علم و ادب میں آپ کا ثانی دیکھا نہیں گیا۔

آپ کے ہم عصر علماء فقیہہ النفس امام فخر الدین قاضی خاں، محمود بن احمد صاحبِ محیط و ذخیرہ، شیخ زین الدین ابو نصر احمد بن محمد عتابی اور محمد بن احمد بخاری مؤلف فتاویٰ ظہیریہ وغیرہ نے آپ کے فضل و کمال کا اقرار کیا ہے، بلکہ قاضی خاں اور زین الدین عتابی سے

سے رو کے گئے۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۲۹)

حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت فرمایا کہ حضور ﷺ کی تعظیم صرف کھڑے ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ رَاعِنَا کی جگہ اُنْظَرْنَا کہنا یہ بھی حضور ﷺ کی تعظیم ہے۔  
(۳) آپ تحریر فرماتے ہیں۔

مِنْ تَعْظِيمِ الصَّحَابَةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذْنَتْ قُرْبَشَةَ  
لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ وَجَهَهُ إِلَيْهِمْ  
فِي الْقَضِيَّةِ أَبْنِي وَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: صحابہ کرام نے جو رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کفار قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ شریف کے طواف کے لئے کہا۔ اس موقع پر کہ آپ کو حدیبیہ سے حضور ﷺ نے صلح کے معاملہ میں مکہ شریف بھیجا تھا تو آپ نے طواف کعبہ سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ اس کا طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کر سکتا۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۳۱)

معلوم ہوا کہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں حضور ﷺ کے طواف کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہ بھی حضور ﷺ کی تعظیم ہے۔

(۴) اور تحریر فرماتے ہیں۔

مِنْ أَعْظَامِهِ وَإِكْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَامُ جَمِيعِ أَسْبَابِهِ  
وَأَكْرَامُ مُشَاهِدِهِ وَأَمْكَنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعاِدِهِ وَمَا لَمَسَهُ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْغُرَفَ بِهِ.

ترجمہ: حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو حضور ﷺ سے نسبت رکھتی ہیں۔ ان کی تعظیم کی جائے اور کہ معظمه و مدینہ طیبیہ کے جن مقامات کو آپ نے مشرف فرمایا ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے

کہ ایام منہیہ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور کسی کو اپنے روزہ سے مطلع نہ کرتے۔ جب خادم کھانا لاتا تو آپ اس سے فرماتے کہ رکھ کر چلے جاؤ۔ جب وہ چلا جاتا تو آپ کسی طالب علم کو بلا کر کھلا دیتے۔

۱۳ ذوالحجہ ۵۹۳ھجری میں آپ کا وصال ہوا۔ سرقد میں آپ کا مزار اقدس زیارت گاہ خلائق ہے۔ (ماخوذ از حدائق الحفیہ واحوال امصنفوں)

رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ  
اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت

آپ مردہ نہلانے کے تخت کو دھونی دینے کی علت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

**لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَيِّتِ**  
ترجمہ: دھونی میں میت کی تعظیم ہے۔ (ہدایہ صفحہ ۱۵۸ جلد ا)

### حضرت ملا علی قاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۱۲ھجری)

(۱) حضرت ابو ایوب النصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلة و اتسلیم نے ارشاد فرمایا۔

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدِيرُوْهَا.

ترجمہ: جب تم پاخانہ (سندھ اس) جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ۔

(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۲۲)

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں۔

أَعْلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ تَعْظِيْمًا لَهَا

ترجمہ: کعبہ شریف کی جانب منہ اور پیٹھ نہ کرنے کا حکم اس کی تعظیم کے لئے ہے۔ (مرقاۃ جلد ا صفحہ ۲۸۳)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مسیح عالم گلیلی نے فرمایا۔

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَضُقُّ أَمَانَةً.

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۶۹)

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور گلیلی کے اس حکم کی علت بیان کرتے

منقول ہے کہ صاحب ہدایہ فقہ میں اپنے ہم عصروں پر فوکیت رکھتے تھے، بلکہ اپنے اساتذہ سے بھی سبقت لے گئے تھے۔

بہت سے اکابر علماء نے آپ سے فقہ حاصل کیا جن میں سے آپ کے دو صاحبزادے شیخ الاسلام جلال الدین محمد، نظام الدین عمر اور ابن الابن شیخ الاسلام عمار الدین، شمس اللائمه کردی، بربان الاسلام زرنوچی اور قاضی القضاۃ محمد بن علی سرقندی جیسے آفتاب و ماہتاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ کی جملہ تصنیفات بدایہ المبتدی، کفایۃ الہنفی، المشتی، الجنیس والمرید، مناسک الحج، نشر المذہب، مختار النوازل اور فرائض العثمانی وغیرہ نہایت گران قدر اور مفید ہیں۔ خاص کر ہدایہ تو آپ کا وہ بلند پایہ علمی شاہکار ہے جس کی دنیاۓ علم و فن میں کوئی نظر نہیں۔ اس مایہ ناز کتاب کے متعلق کسی نے مندرجہ ذیل قطعہ کہا جس میں مبالغہ نہیں ہے۔

إِنَّ الْهُدَىَيَةَ كَالْقُرْآنِ نَسَخَتْ مَا صَنَفُوا قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبٍ فَأَخْفَظْ قِرَائِتَهَا وَالزَّمْ تِلَاوَتَهَا يَسِّلُمُ مَقَالُكَ مِنْ زَيْغٍ وَمِنْ كِذْبٍ يُعْنِي قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں کی کتابوں کو منسوخ کر دیا تو ہدایہ اس معاملہ میں گویا قرآن کے مثل ہے کہ اس نے فقہ میں لکھی گئی ماقبل کی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ لہذا اس کو پڑھتے رہو اور اس کی خوانندگی لازم پکڑو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری گفتگو کبھی اور غلطی سے پاک رہے گی۔

ہدایہ کی تصنیف کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے چاہافقہ میں ایک مختصر کتاب لکھی جائے جس میں ہر طرح کے مسائل ہوں۔ تو قدوری و جامع صغیر سے اختاب فرمائے "بدایہ المبتدی" لکھا اور اس میں وعدہ فرمایا کہ بشرط فرست اس کی شرح کفایۃ الہنفی تصنیف کروں گا تو وعدہ کے مطابق کی ۸۰ جلدیں تحریر فرمائیں۔ پھر اندیشہ ہوا کہ شاید اتنی بڑی شرح سے لوگ پورا فائدہ نہ اٹھائیں کیون تو اس کا اختصار بنام ہدایہ تحریر فرمایا جو ایسی مقبول ہوئی کہ اب تک اس کے ۳۶ شروع و حواشی لکھے گئے اور بعض لوگوں نے اسے مکمل زبانی یاد کیا۔

تک اس کے ۳۶ شروع و حواشی لکھے گئے اور بعض لوگوں نے اسے مکمل زبانی یاد کیا۔ ماؤ ذوالقعدہ ۱۴۷۵ھجری بروز چہارشنبہ (بدھ کے دن) آپ نے ہدایہ کی تصنیف شروع کی اور نہایت عرق ریزی کے ساتھ مسلسل تیرہ سال تک اس طرح مصروف رہے

مجلس میں بہت لطف آیا اور پیروی کے لئے اسی قدر کافی ہے۔

(تفسیر روح البیان جلد ۹ صفحہ ۵۶)

معلوم ہوا کہ حضرت امام تقی الدین سکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضور پید عالم ﷺ کے خاص ذکر کے وقت تعظیم کے لئے کھڑا ہوتا جائز ہے اور حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ بھی اس عبارت سے واضح ہے کہ پیروی کے لئے اسی قدر کافی ہے۔

### قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کا کی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۶۳۳ ہجری)

سلطان الشاخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ رئیس نامی ایک شخص نے ایک بات خواب میں دیکھا کہ ایک قبہ ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم اس قبہ کے گرد جمع ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹے قد کا آدمی بار بار اس قبے کے اندر آتا جاتا ہے اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات لا کر انہیں بتاتا ہے۔ رئیس نے پوچھا کہ اس قبے میں کون ہے؟ اور یہ چھوٹے سے قد کا آدمی کون ہے جو قبے کے باہر آتا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس قبے میں حضرت رسالت مآب ﷺ تشریف فرمائیں اور وہ مرد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو قبے کے اندر آتے جاتے ہیں۔ رئیس کہتا ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ رسول ﷺ سے عرض کیجیے کہ میری تمنا ہے کہ میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور باہر آ کر فرمایا کہ رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ ابھی تجھ میں اس کی الہیت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، لیکن جا! اور میرا سلام۔ بختیار کا کی کو پہنچا اور ان سے کہہ کہ ہر رات جو تحفہ تم مجھ کو بھیجتے ہو وہ پہنچتا ہے لیکن تین راتیں ایسی گزریں کہ وہ تحفہ نہیں پہنچا۔ اس رکاوٹ کا باعث خدا کرے کہ خیر ہو۔ رئیس کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو فوراً حضرت خوجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سلام نہ تو تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۶، فوائد الغواد مجلس نہم صفحہ ۱۹۷)

ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ تَعْظِيمُ الْقِبْلَةِ لِتَعْظِيمِهَا۔

ترجمہ: قبلہ کی جانب تھوکنے سے اس کی تعظیم کے لئے منع کیا گیا ہے۔

(مرقاۃ جلد اصفہان ۲۵۵)

معلوم ہوا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تعظیم کے لئے معظم یعنی جس کی تعظیم کرتا ہے اس کا سامنے ہونا اور دیکھنا ضروری نہیں۔ اسی لئے پاخانہ کرنے والے اور نماز پڑھنے والے سے کعبہ شریف چاہے ہزاروں کلومیٹر دور نگاہوں سے او جمل ہو پھر بھی اس کو کعبہ شریف کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔

(۳) حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مردی ہے۔

کَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِرِ۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ان کے دروازہ مبارک پر ناخنوں سے

دستک دیتے تھے۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۳۲)

حضرت ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

آئُ ضَرُبًا خَفِيفًا وَذَاقَ لَطِيفًا تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا۔

ترجمہ: حضور ﷺ کی تعظیم و تکریم اور ان کی توقیر کے لئے ضرب خفیف سے

بہت ہلکی دستک دیتے تھے۔ (شرح اتفاق مع نیم الریاض جلد ۳ صفحہ ۳۹۵)

معلوم ہوا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ناخنوں سے ہلکی دستک دینا بھی صاحب خانہ کی تعظیم ہے۔

## حضرت امام تقی الدین سکلی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۱۵۶۷ھجری)

آپ دین کے امام و پیشواؤ اور بہت بڑے مجتہد تقریباً ایک سو پچاس کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا واقعہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں علماء کا مجمع تھا تو ایک نعت خواں نے نعت شریف کے دو شعر پڑھے۔

فَعِنْدَ ذَلِكَ قَامَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ وَجَمِيعُ مَنْ بِالْمَجْلِسِ فَحَصَلَ أَنَّ

عَظِيمٌ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَيَكْفِيُ ذَلِكَ فِي الْإِقْتِداءِ۔

ترجمہ: تو فوراً امام سکلی اور تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے اور اس

## حضرت کا جسم بے سایہ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حضرت پیر عالم نورِ حُجَّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ سورج کی روشنی میں اور نہ چاند کی چاندنی میں۔ یہی عقیدہ صحابہ، تابعین اور تمام بزرگان دین کا ہے جس کی تفصیل کتابوں میں مذکور ہے۔ اس مقام پر بطور اختصار چند اہم شخصیتوں کے عقیدے ملاحظہ ہوں

## امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال ۳۵ ہجری)

رئیس المفسرین حضرت علامہ امام نسفي رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۱ھ) تحریر فرماتے ہیں۔

قال عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْأَرْضِ  
لَنْ لَا يَضْعَ إِنْسَانٌ قَدَّمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّلِّ.

ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کوئی انسان اس پر اپنا قدم نہ رکھے۔ (تفیریمدارک جلد ۲ صفحہ ۱۰۳)

اس حدیث شریف سے حضور ﷺ کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہونے کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ واضح طور پر معلوم ہوا جس کی تائید خود حضور ﷺ سے بھی ثابت ہوئی کہ آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پیش کیا اور آپ نے اس کا انکار نہیں فرمایا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علامہ امام نسفي کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا، ورنہ اس حدیث شریف کو بلا تردید اپنی تفسیر میں ہرگز تحریر نہ کرتے۔

## حضرت ذکوان تابعی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت حکیم ترمذی نے آپ سے روایت کیا۔

## سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۲۵۷ھجری)

حضرت میر عبدالواحد بلگرائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۵۷ھجری) تحریر فرماتے ہیں۔

وقت سلطان المشائخ با جمع ازیاراں خود نشستے بوند ناگہاں برخاستند و باز

بنشستند حاضرین مجلس از حضرت ایشان پرسیدند که برخاستن چہ ہو۔ گفتند

درخانقاہ پیر دیگر ما سگے ہو۔ امروز بصورت آس سگ سگے دیگر درنظر من آمد

کہ در کوچ می گذشت من چعظیم آس سگ استادہ شدم۔ (سبع سنابل صفحہ ۵۹)

ترجمہ: ایک مرتبہ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء

قدس سرہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرماتھے کہ ناگاہ کھڑے ہو گئے۔ پھر

بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس نے آپ سے دریافت کیا حضور کس بناء پر کھڑے

ہوئے؟ فرمایا کہ ہمارے پیر دیگر کی خانقاہ میں ایک کتاب رہتا تھا۔ آج اسی

صورت کا ایک کتاب مجھے نظر آیا کہ اس کلی میں گزر رہا ہے۔ میں اس کے کی

تعظیم کی خاطر اٹھا تھا۔ (سبع سنابل شریف مترجم صفحہ ۱۳۳)

جس بزرگ کے نزدیک ایسے کتب کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوتا جائز ہے، سرکار اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں اس کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔



قَالَ ابْنُ سَعْيٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ظِلَّهُ  
كَانَ لَا يَقْعُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنَّهُ كَانَ نُورًا فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي  
الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَنْتَرِلُهُ ظِلٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثٌ  
فَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِعَانِهِ وَاجْعَلْنِي نُورًا.

ترجمہ: ابن سعی نے کہا یہ حضور ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اس لئے کہ وہ نور تھے۔ توجب چاند و سورج کی روشنی میں وہ چلتے تھے تو سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض آئندہ نے کہا کہ اس خصوصیت پر حضور ﷺ کی وہ حدیث شاہد ہے کہ جس میں آپ کی یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ! مجھے نور بنا دے۔ (خصائصِ کبریٰ جلد اصغریٰ ۲۸)

ان تحریروں سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ حضور ﷺ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ ساتھ ہی حضرت امام ابن سعی کا بھی یہی عقیدہ ثابت ہو گیا۔

### امام ربانی حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۳۵ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

نچار اور اسایہ نبود۔ در عالم شہادت سایہ ہر شخص از شخص لطیف ترست۔ و چون  
لطیف ترازوے در عالم نہ باشد اور اسایہ چہ صورت دارد۔

ترجمہ: پیشک حضور ﷺ کا سایہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم شہادت میں ہر چیز سے اس کا سایہ لطیف ہوتا ہے اور حضور ﷺ سے لطیف کائنات میں کوئی چیز نہیں تو پھر آپ کا سایہ کس صورت سے ہو سکتا ہے۔  
(مکتوبات شریف جلد ۲ صفحہ ۱۸۷)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

ہرگاہ محمد رسول اللہ از لطافتِ ظل نہ بود خدا نے محمد چکونہ ظل باشد۔

ترجمہ: جب محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے لطیف ہونے کے سب سایہ نہیں ہے تو حضور ﷺ کے خدا کے لئے کیسے سایہ ہو سکتا ہے۔  
(مکتوبات شریف جلد ۲ صفحہ ۲۳۷)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرَى لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ.

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہ سورج کی دھوپ

میں نظر آتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں۔ (خاص صِ کبریٰ جلد اصغر ۲۸)

حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث شریف کو روایت کیا تو ثابت ہو گیا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ کے جسم کا سایہ کسی چیز کی روشنی میں نظر نہیں آتا تھا اور اسی بنیاد پر حکیم ترمذی کا بھی یہی عقیدہ ثابت ہوا۔

### امام الزماں حضرت علامہ قاضی عیاض کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - متوفی ۵۳۳ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

مَا ذِكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلٌّ لِشَخْصٍ بِفِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لَأَنَّهُ كَانَ نُورًا.

ترجمہ: یہ جو بیان کیا گیا کہ سورج اور چاند کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا تو اس لئے کہ حضور ﷺ نور تھے۔

(شفا شریف جلد اصغر ۲۲۲)

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اس تحریر سے بالکل واضح ہے کہ نور ہونے کے سبب حضور ﷺ کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔

### حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان - متوفی ۹۱۱ ہجری)

آپ خاص صِ کبریٰ میں مستقل ایک باب مرتب کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

بَابُ الْأَيَّةِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرَى لَهُ ظِلٌّ.

ترجمہ: اس مجزہ کا بیان کہ حضور ﷺ کے جسم کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔

(خاص صِ کبریٰ جلد اصغر ۲۸)

پھر علامہ سیوطی حکیم ترمذی سے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرنے

کے بعد حضرت امام ابن سینؑ سے اس پر شہادت اس طرح پیش فرماتے ہیں۔

## وسیلہ

جس کے ذریعے کسی سے قرب اور زندگی حاصل کی جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ (اعریفات صفحہ ۲۲۵) محلبہ کرام اور تمام بزرگانِ دین بلکہ خود حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا یہی عقیدہ ہے کہ بزرگوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی تفصیل ملاحظہ ہو۔

## حضور سید عالم کا عقیدہ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وصالِ اقدس ایامی بمقابلہ ۶۳۲ عیسوی)

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِنِنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ وَإِنْ شِئْتَ صَرَّثْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَأَذْعُهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأْ فَيَخْسِنَ وُضُوءُهُ وَيُصَلِّي رَكْعَيْنِ وَيَدْعُ بِهِنَا اللَّهَعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَيْكَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هُنْكِي فَيَقْضِيْهَا اللَّهُمَّ شَفَعَةً فِيْ فَعَلَ الرَّجُلُ فَقَامَ وَقَدْ أَبَصَرَ.

ترجمہ: ایک اندھا آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آنکھ والا کر دے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کروں۔ اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے کہ وہ تیرے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا کہ دعا فرمائیں۔ حضور ﷺ نے اسے حکم دیا کہ اچھا وضو کرو۔ دور کعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو۔ اے اللہ! میں تھوڑے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد ﷺ کے وسیلہ سے توجہ کرتا ہوں جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں، تو اسے پوری فرمادے۔ اے اللہ! میرے بارے میں حضور ﷺ کی شفاعت قبول فرماتو وہ شخص جب آپ کے فرمانے کے

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تحریروں سے اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ لطیف چونکہ کائنات میں کوئی چیز نہیں، اس لئے آپ کا سایہ نہیں ہو سکتا۔

### شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی بخاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۵۲ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

نبوذ مرآں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را سایہ نہ در آفتاب و نہ در قم۔

ترجمہ: حضور ﷺ کا سایہ نہ سورج کی دھوپ میں پڑتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں۔ (مدارج المبہة جلد اصفہ ۲۱)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

چوں آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین نور باشد نور را سایہ نباشد۔

ترجمہ: حضور ﷺ سراپا نور ہیں اور نور کے لئے سایہ نہیں ہوتا۔

(مدارج المبہة جلد اصفہ ۱۱۸)

شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ ان تحریروں سے بالکل ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔

### سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۲۳۹ھجری)

آپ حضور سید عالم نور مجتبی ﷺ کے جسم اقدس کی خصوصیات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔  
وسایہ ایشان بر زمیں نہی افتاد۔

ترجمہ: آپ کا سایہ زمیں پرنہیں پڑتا تھا۔ (تفسیر عزیزی پارہ عم صفحہ ۲۱۹)

آپ کا عقیدہ اس تحریر سے بالکل واضح ہے۔

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتْخَلَوْهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ.

ترجمہ: پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عباس کے ساتھ دیباںی سلوک کرتے تھے جیسا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ لہذا اے لوگو! رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباس کے ساتھ حضور کا طریقہ اپناو اور انہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ! (فتح الباری شرح بخاری جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)

ان احادیث کریمہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ وہ حضور سید عالم ﷺ کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود وسیلہ بنایا اور دوسروں کو انہیں بنانے کا حکم دیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے اور پھر کسی صحابی نے ان کے اس قول عمل پر اعتراض نہیں کیا، جس سے غیر نبی کو وسیلہ بنانے پر صحابہ کا اجماع بھی ثابت ہو گیا۔

### حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال اقدس ۶۰ ہجری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

إِنَّ السَّمَاءَ قَحْكَثَ فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَهْلَ دِمْشَقَ يَسْتَسْقِيُونَ فَلَمَّا قَعَدَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبُرِ قَالَ إِنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدَ الْجَرْشِيَّ قَالَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَاقْبَلَ يَتَخَطَّلِي فَأَمْرَةُ مُعَاوِيَةُ فَصَعَدَ الْمِنْبُرَ فَقَعَدَ عِنْدَ رِجْلِهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدَ يَا يَزِيدَ ارْفِعْ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ فَرَفَعَ يَزِيدَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ أُوشِكَ أَنْ تَأْرَثَ سَحَابَةً فِي الْمَغْرِبِ وَهَبَّتْ لَهَا رِيحٌ فَسَقَيَنَا حَتَّىٰ كَادَ النَّاسُ لَا يَصْلُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ.

ترجمہ: بارش نہیں ہوئی تقط پڑ گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دمشق کے لوگ نماز استقاء کے لئے نکلے۔ جب حضرت امیر معاویہ منبر پر بیٹھے تو فرمایا یزید بن اسود جرشی کہاں ہیں؟ راوی نے کہا کہ لوگوں

مطابق کام کر کے کھڑا ہوا تو آنکھ والا ہو گیا۔

(ترمذی شریف جلد ۲ صفحہ ۱۹۶ خصائصِ کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۲۰۱)

امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور علامہ سیوطی نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا اور تبیہی نے الدلائل والدعوات میں اس حدیث شریف کو روایت کر کے فرمایا کہ صحیح ہے اور ابو قیم نے اسے معرفت میں روایت کیا۔

اس حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر شرک ہوتا تو حضور ﷺ اپنے وسیلہ سے دعا کرنے کے لئے اس ناپینا کو ہرگز حکم نہ فرماتے۔

### حضرت عمر فاروق اعظم کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال اقدس ۲۳ ہجری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا قَعَدْتُمْ أَسْتَسْقِي  
بِالْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا  
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ  
إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيَّنَا فَأَسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

ترجمہ: جب لوگ قحط میں بٹلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کہتے اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ہمیں تو سیراب فرماتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنی نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر مرتبہ پانی برس پڑتا۔ (بخاری شریف جلد اصفہ ۱۳۷)

حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۵۲ ہجری) اس حدیث

شریف کی شرح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

فَخَطَبَ النَّاسُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ فَاقْتَلُوْا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ

## حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۱۵۰ھجری)

آپ کا نام نامی نعمن، کنیت ابوحنیفہ اور لقب امام اعظم و امام اسلمین ہے۔ آپ فارس کے بادشاہ نوشریواں کی اولاد سے ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ نعمن بن ثابت بن نعمن بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزدگرد بن شہریار بن پرویز بن نوشریواں۔

آپ کے دادا مشرف با اسلام ہو کر کوفہ شہر میں سکونت پذیر ہوئے۔ وہیں آپ ۸۰ھجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ ثابت اپنے بچپن کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے ان کے لئے اور ان کی اولاد میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔

آپ کے زمانہ مبارکہ میں تقریباً پانیس صحابہ زندہ تھے، جن میں سے سات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ کی ملاقاتات ثابت ہے۔ خصوصاً حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن اوی، حضرت معقل بن یمار اور وائلہ بن الاصقع رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اور حضرت انس و حضرت جابر و حضرت وائلہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ نے حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔

حدیث شریف میں آپ کے متعلق بشارت بھی دی گئی ہے جیسا کہ محدث زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ”میں کہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حدیث شریف میں بشارت دی ہے جسے ابو نعیم نے حیلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْكَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرْبَيَا لَتَنَوَّلَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ۔ یعنی اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تو فارس کے جو اس مردوں میں سے ایک جو اس مرد ضرور اس تک پہنچ جائے گا۔

(تبیض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ اردو صفحہ ۶۲)

اور فرماتے ہیں کہ مجتم طبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْكَانَ الْدِيْنُ مُعَلِّقاً بِالثُّرْبَيَا لِتَنَوَّلَهُ نَاسٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ۔ یعنی اگر دین ثریا میں معلق ہو جائے تو یقیناً فارس کے لوگ اسے حاصل

نے انہیں پکارا تو وہ قدم بڑھاتے ہوئے نمودار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے حکم سے منبر پر چڑھے اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے دعا کی کہ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں یزید بن اسود کو سفارشی تھراہتے ہیں۔ یزید! اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیے! تو حضرت یزید نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری کہ مغرب کی طرف بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ ہوا بھی چلی اور ہم پر ایسی بارش ہوئی کہ اپنے گردوں تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۷ صفحہ ۳۲۲)

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کو ویلہ بنا جائز ہے اور آپ کے اس عمل کا صحابہ و تابعین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا تو اس مسئلہ میں ان کا اجماع بھی ثابت ہو گیا۔

### حضور سیدنا شیخ عبدالقار جیلانی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال اقدس ۵۶۱ ہجری)

حضرت علامہ نور الدین فطوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو ابو الحسن بن زکریا بغدادی نے۔ انہوں نے کہا (۶۲۹ ہجری) میں ہم کو قاضی القضاۃ ابو صالح بن حافظ ابو بکر عبدالرزاق بن شیخ الاسلام مجی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں خبر دی۔ انہوں نے کہا ہم کو شیخ ابو عبدالرزاق نے خبر دی اور (۶۹۰ ہجری) میں ہم کو شیخ ابو محمد الحسن فقیہ ابو عمران موسیٰ بن احمد بن الحسین قرقشی شافعی نے قاہرہ میں خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کہ (۶۱۳ ہجری) میں ہم کو شیخ پیشوَا ابو الحسن قرقشی نے دمشق میں خبر دی کہ میں نے شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے۔

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ حَاجَةً فَاسْتَلْوَهُ بِنِي.

ترجمہ: جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو میرے دیلے سے

طلب کرو۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۶۳)

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے دیلے کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

بخاری اور حضرت امام مسلم وغیرہ بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی سے باہر نہیں ہو سکتے۔

زرقانی شارح موطا نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد میں کئی قول نقل کئے ہیں۔ اول یہ کہ آپ کے مرویات پانچ ہو ہیں۔ دوسرے یہ کہ سات ہو ہیں۔ تیسرا یہ کہ ایک ہزار سے کچھ زائد ہیں۔ چوتھے یہ کہ ایک ہزار سات ہو ہیں۔ پانچویں یہ کہ چھ سو سو سیٹھ ہیں۔

اور غیر مقلدین جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف سترہ حدیثیں پہنچی ہیں اور ثبوت این خلدون کا حواہ پیش کرتے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے۔ اس لئے کہ یہ این خلدون کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ اس کا قول ہے بلکہ اس نے دوسرے کا قول حکایۃ نقل کیا ہے اور اغلب یہ ہے کہ اس نے سبعمائی تکھا تھا اور کاتب کی غلطی سے سبعة عشر ہو گیا۔ یا ازراہ حمد قصدا ایسا کیا گیا۔ اس لئے کہ بقول حضرت ملا علی قاری، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراہی ہزار مسائل حل فرمائے ہیں جن میں سے اڑتیں ہزار مسائل عبادات سے متعلق ہیں اور باقی مسائل معاملات کے بارے میں ہیں۔

تو اگر آپ کو صرف سترہ حدیثیں پہنچی ہوتیں تو اتنے زیادہ مسائل آپ ہرگز حل نہیں کر سکتے تھے، نہ علامہ ذہبی شافعی تذكرة الحفاظ میں آپ کا ذکر حفاظ حدیث میں کرتے، نہ اکابر علمائے حدیث آپ کو اپنا شیخ بناتے، نہ آپ کے لئے امام کا لقب تسلیم کرتے، نہ محدث زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی اور دیگر علمائے سلف آپ کے فضل و مناقب میں بڑی بڑی کتابیں لکھتے۔

غرضیکہ غیر مقلدوں کا یہ پروپیگنڈہ کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف سترہ حدیثیں پہنچی ہیں بالکل جھوٹ ہے۔ اسے وہی شخص صحیح مان سکتا ہے جسے آپ کے علم سے حمد ہو گا اور یا تو وہ آپ کے علم سے جاہل ہو گا، جو آپ کی مرویات کو دیکھنا چاہیے وہ موطا امام محمد، کتاب لآلہ نثار، کتاب الحج، سیر کبیر اور حضرت امام ابو یوسف کی کتاب الخراج، کتاب الامالی مجرد بن زیاد وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ ان میں امام اعظم کی روایت کردہ کئی سو حدیثیں صحیح اور حسن ملیں گی۔

آپ کی تصنیفات، فقہ اکبر، کتاب الوصیۃ، کتاب العالم و الحعلم اور کتاب المفقود وغیرہ ہیں۔ آپ کا وصال ۱۵۰ھجری میں ہوا۔ مزار القدس بغداد شریف کے خیز راں قبرستان میں

کر لیں گے۔ (تہمیض الحجیفہ اردو صفحہ ۷)

ان احادیث کریمہ میں "ابنائے فارس" اور "رجالی فارس" سے حضرت سیدنا امام عظیم ابوحنینہ اور ان کے اصحاب مراد ہیں۔

آپ نے چار ہزار مشايخ تابعین و تبع تابعین سے حدیث و فقہ حاصل کیا جن میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق، تاج مولیٰ ابن عمر، موسیٰ بن ابی عائشہ، سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، سعید بن مسروق، سلمہ بن کہل، سلیمان بن مهران اعمش، طاؤس بن کیسان، عبد اللہ بن دینار، عبد الرحمن بن ہرماعرجن، عطاء بن ابی رباح، عطاء بن یسار، محمد بن علی بن حسین بن علی الرضا، محمد بن عمر و بن احسن بن علی الرضا، ولید بن سرتخ مولیٰ عمر بن الخطاب اور ہشام بن عروہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

آپ نے تمام علوم میں کامل ہونے کے بعد گوشہ نشینی کا ارادہ فرمایا تو ایک رات آپ سرکارِ اقدس ﷺ کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابوحنینہ! آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری سنت زندہ کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے تو آپ گوشہ نشینی کا ارادہ ہرگز نہ کریں۔ اس بشارت کے بعد آپ درس و تدریس اور مسائل شرعیہ کے اجتہاد و استنباط میں مشغول ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کافہ ہب ساری دنیا میں پھیل گیا۔

آپ کے شاگرد بے شمار ہوئے جن میں سے سانحہ شاگردوں کا ذکر بعض محدثین نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان میں سے چند بزرگوں کے اسامی گرامی یہ ہیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، حسن بن زیاد لوزی، ابو مطیع بلخی، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن جراح، ذکریا بن ابی زائدہ حفص بن غیاث تختی، رئیس الصوفیہ داؤد طائی، یوسف بن خالد، اسد بن عمر و اور نوح بن مریم وغیرہ ہم۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

حضرت امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسائل کے اجتہاد اور احکام کے استنباط کی مشغولیت کے سبب روایت حدیث کا بہت کم موقع ملا۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امور خلافت کی مشغولیت کے سبب حدیث کی روایت کا اتفاق کم ہوا۔ مگر اس کے باوجود حضرت امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثوں کی پندرہ مندرجہ میں جمع کی گئی ہیں اور آپ کے شاگردا کابر محدثین کے شیوخ میں شمار کئے گئے ہیں۔ جیسے یحییٰ بن معین، وکیع بن جراح، مسر بن کدام، عبد اللہ بن مبارک، امام ابو یوسف، احمد بن حنبل اور بالواسطہ اصحاب صحابہ تھے یعنی حضرت امام

عی کی طرف رخ کرو اور ان سے شفاعت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی  
شفاعت قبول فرمائے گا۔ (شفا شریف جلد صفحہ ۳۳)

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ان کا عقیدہ ظاہر ہے کہ  
حضور ﷺ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے وسیلہ ہیں۔

### حضرت امام شافعی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۲۰۲ هجری)

علامہ خطیب بغدادی (متوفی ۳۶۳ هجری) تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي أَيَّامٍ هُوَ بِبَغْدَادَ كَانَ  
يَتَوَسَّلُ بِالْإِمَامِ أَبِي حَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَجْحِيُ إِلَى ضَرِيعَةٍ  
يَزُورُ فَيْسِلَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ فِي قَصَاءِ حَاجَةٍ.

ترجمہ: حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں بغداد میں تھے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کرتے۔ ان کی قبر پر حاضر ہو کر  
اس کی زیارت کرتے، انہیں سلام کرتے۔ پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے لئے  
اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے۔ (تاریخ خطیب بغدادی جلد اصفہان ۱۲۳)

اور علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۷۲ هجری) لکھتے ہیں کہ

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

أَلْ النَّبِيَّ ذَرِيعَتُنِي وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتُنِي

أَرْجُو بِهِمْ أَغْطِي غَدًا بِيَدِ الْيَمِينِ صَحِيفَتُنِي

ترجمہ: یعنی آل نبی میرے لئے ذریعہ نجات ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی  
بارگاہ میں میرے لئے وسیلہ ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے طفیل  
کل (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں  
دے گا۔ (صوات عن محقرۃ صفحہ ۱۸۰)

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ: ان روایتوں سے بالکل واضح ہے کہ

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کو اپنی حاجت کے لئے  
وسیلہ بناتے تھے اور آل رسول ﷺ کو اپنے لئے وسیلہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔

زیارت گاہ خاص و عام ہے جس پر سب سے پہلے سلطان ملک شاہ سلوتو نے ۱۹۵۹ء ہجری میں شاندار گنبد بنوایا اور آپ کے آستانہ عالیہ پر خیوب کے لئے مدرسہ حنفیہ قائم۔ (ماخذ از تحریض الصحیحہ، خیرات الحسان، حدائق الحنفیہ، مفید المفتی، سوانح امام اعظم)۔

آپ اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ میں حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں۔

**أَنْتَ الَّذِي لَمَّا تَوَسَّلَ بِكَ أَدْمُ مِنْ زَلَّةٍ فَازَ وَهُوَ أَبَا كَـا**

ترجمہ: یعنی آپ ہی وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے۔ قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ کے

باپ ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وجود سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے کہ اسی وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔

### حضرت امام مالک کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۱۷۹ھ/۷۹۶ء)

حضرت امام قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفی ۵۳۳ھ/۱۱۴۲ء) تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین ابو جعفر منصور یعنی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ جب حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار اقدس کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو اس وقت مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ خلیفہ منصور نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَذْعُونَ أَمَّ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا تَصَرَّفَ وَجْهُكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ بِإِلَاستَقْبِلِهِ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعُكَ اللَّهُ.

ترجمہ: اے ابو عبد اللہ! میں کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منہ کروں؟ حضرت امام مالک نے فرمایا کس طرح تم اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف سے پھیر سکتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ لہذا تم حضور علیہ السلام

ہیں تو آپ نے وقاریہ کا مختصر تحریر فرمایا۔ جب آپ کے صاحبزادے محمود نے مختصر الوقایہ حفظ کر لیا تو آپ سے وقاریہ کی شرح لکھنے کے لئے بہت اصرار کیا، جس میں مختصر الوقایہ کے بھی معلومات حل کئے جائیں۔ لہذا آپ نے صاحبزادے کی خواہش کے مطابق شرح وقاریہ لکھنا شروع کیا، مگر کتاب مکمل ہونے سے پہلے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا جس کا آپ کو بے انتہا قلق ہوا۔

وقایہ کی کل پندرہ شریحیں لکھی گئیں جن میں آپ کی شرح ایسی عمدہ ہے جو ساری دنیا میں مقبول ہو کر تمام مدارس عربیہ میں داخل درس ہوئی جس پر اب تک بیالیں حواشی لکھے گئے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء اس سے مستفیض ہوئے۔ یہاں تک کہ غیر مقلد جو تقلید کو گراہی قرار دیتے ہیں وہ بھی خفیہ مذہب کی اس کتاب شرح وقاریہ سے فائدہ اٹھانے پر مجبور ہوئے۔

اور آپ نے اصول فقہ میں ایک لطیف متن تفتح کے نام سے تصنیف کیا۔ پھر اس کی شرح تفتح تالیف فرمائی جس کی شرح حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی (متوفی ۹۲۷ھجری) نے تفتح کے نام سے کی۔ ان کے علاوہ المقدمات الاربعہ، تعلیم العلوم (اقسام علوم عقلیہ میں) و شاخ (علم معانی میں) شرح فصول احمسین (نحو میں) کتاب الشروط اور کتاب المحاضرہ وغیرہ آپ کی اہم تصنیفات ہیں۔

۷۴۷ھجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک شارع آباد بخارا میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

آپ شرح وقاریہ اول کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

**الْعَبْدُ الْمُتَوَسِّلٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَقْوَى الدُّرِيْعَةِ.**

ترجمہ: میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ کا دیلہ زیادہ طاقت و رذریعہ کا ذہونڈنے والا ہوں۔

مولانا عبدالجی صاحب فرنگی محلی المتوسل کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

**دَلْتُ الْأَحَادِيثَ عَلَى جَوَازِ التَّوْسِلِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحةِ وَالنِّوَاتِ الْفَاضِلَةِ.**

ترجمہ: نیک اعمال اور بزرگانِ دین سے توسل کا جواز حدیثوں سے ثابت ہے۔

اور **أَقْوَى الدُّرِيْعَةِ** کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

**الْمُرَادُ بِهِ إِمَامُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَامُ**

**الْقُرْآنِ وَإِمَامُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ وَإِمَامُ عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ**

**وَالْأَحْكَامِ الشَّامِلَةِ لِلْفِقْهِ وَالْأَصْوُلِ وَالْكَلَامِ وَإِمَامُ عِلْمِ الْفِقْهِ.**

## حضرت امام احمد بن حنبل کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۲۳۱ ہجری)

حضرت علامہ نبھانی علیہ الرحمۃ والرضاوں تحریر فرماتے ہیں۔

تَوَسَّلَ الْأَمَامُ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ بِالْأَمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى تَعْجَبَ إِبْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَمَامِ أَخْمَدَ بْنُ حَنْبَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْأَمَامُ أَخْمَدُ إِنَّ الشَّافِعِيَّ كَالشَّمْسِ لِلنَّاسِ وَكَالْعَافِيَّ لِلْبَدْنِ.

ترجمہ: حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا تو امام احمد بن حنبل کے صاحزوں نے حضرت امام شافعی ایسے ہیں جیسے لوگوں کے لئے سورج اور بدن کے لئے تدرستی۔ (شواید الحج صفحہ ۱۶۶)

ثابت ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی دلیل کا عقیدہ حق ہے کہ انہوں نے خود حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا۔

## صاحب شرح وقایہ حضرت عبید اللہ بن مسعود کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضاوں۔ متوفی ۷۴۷ ہجری)

آپ کا اسم گرامی عبید اللہ اور لقب صدر الشریعہ ثانی ہے۔ آپ کے والد کا نام مسعود اور دادا کا نام محمود ہے جن کا لقب تاج الشریعہ ہے اور پردادا کا نام احمد ہے جو صدر الشریعہ اول سے مشہور ہیں۔ آخر میں آپ کا سلسلہ نب مسعود رحیم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔

آپ بڑے زبردست عالم، حافظ قوانین شریعت، حلالی مشکلات فروع و اصول، واقف رموز معقول و منقول، محدث جلیل، فقیہ بے مثیل، اصولی بے نظیر، مفسر، نحوی، نفوی، ادیب، متكلم، منطقی، اپنے وقت کے امام علوم مردوہ متعارفہ میں ضرب المثل تھے۔ آپ کے دادا تاج الشریعہ نے آپ کی پروردش اپنے سائیہ عاطفت میں کی، انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کو تمام علوم و فنون پڑھایا اور آپ کے حفظ کرنے کے لئے وقایہ تصنیف فرمایا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ دوسرے لوگ ہلکو زبانی یاد کرنے میں سستی کرتے

إِنْ رَجُلًا كَانَ يَخْلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ فِي حَاجَةٍ وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْعَبُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْتَظِرُ فِي حَاجَةِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفَ فَشَكَّ إِلَيْهِ ذِلِكَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ بِالْمِيَضَةِ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَتَتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوْجَهُ إِلَيْكَ بِنَيْكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدًا إِنِّي أَتَوْجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي وَإِذْكُرْ حَاجَتَكَ ثُمَّ رُحْ خُتْنَى أَرْوَحَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَصَنَعَ ذَلِكَ ثُمَّ أَنِّي بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ فَجَاءَ الْبَوَابَ فَاخْتَدَ بِيَدِهِ فَادْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ فَاجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّفْسَةِ فَقَالَ انْظُرْ مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ حُتْنَى كَلْمَتَهُ قَالَ مَا كَلْمَتَهُ وَلِكُنْتَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَهُ ضَرِبَرَ فَشَكَّ إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ أَوْ تَصْبِرْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي فَالِدَّ وَقَدْ شَقَ عَلَيَّ فَقَالَ أَنْتَ بِالْمِيَضَةِ فَتَوَضَّأْ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوْجَهُ إِلَيْكَ بِنَيْكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدًا إِنِّي أَتَوْجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَجْلِي لِي عَنْ بَصَرِي اللَّهُمَّ شَفِعْهُ فِي وَشَفَعْنِي فِي نَفْسِيِّ. قَالَ عُثْمَانُ فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقَا حُتْنَى دَخَلَ الرَّجُلُ كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ.

ترجمہ: ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی ضرورت کے لئے جاتا تھا۔ مگر حضرت عثمانؓ اس کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے اور نہ اس کی ضرورت کے سلسلے میں توجہ کرتے تھے تو اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات کر کے اس کی شکایت کی۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ دھونگاہ پر جا کر وضو کرو اور مسجد میں آ کر درکعت نماز پڑھو۔ پھر دعا کرو اے اللہ! میں تمھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلیل سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے دلیل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری حاجت پوری فرمائے۔ اور (یہ دعا کرتے ہوئے) اپنی حاجت کا ذکر کرو پھر شام کو میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ (حضرت عثمانؓ کی خدمت میں) چلوں۔ تو وہ شخص چلا گیا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ پر آیا تو دربان آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ

ترجمہ: اقویٰ ذریعہ سے یا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں یا قرآن یا حضور ﷺ پر درود۔ یا شریعت اور ان احکام کا علم مراد ہے جو فقہ، اصول اور کلام کو شامل ہو اور یا تو علم فقہ مراد ہے۔

لیکن ظاہر یہ ہے کہ اقویٰ ذریعہ سے حضور پیدا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی مراد ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لئے سب سے طاقت و رحیمہ حضور ﷺ ہی ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ بہر حال صاحب شرح و تفایہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر سے ان کا عقیدہ ثابت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سارے بزرگان دین کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ کا وسیلہ بنانا جائز ہے اور مولانا عبدالجی فرنگی محلی کا بھی یہی عقیدہ ثابت ہوا۔

### امام ابن ہمام صاحب فتح القدر کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۸۲۱ ہجری)

آپ کتاب الحج باب زیارت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَيَسْأَلُ اللَّهُ حَاجَةً مُتَوَسِّلاً إِلَى اللَّهِ بِحَضُورَةِ نَبِيِّهِ (إِلَى أَنْ قَالَ) ثُمَّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَتَوَسِّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ .

ترجمہ: اور اللہ سے اپنی حاجت کے بارے میں اس کے نبی ﷺ کو وسیلہ بناتے ہوئے سوال کرتے پھر نبی ﷺ سے شفاعت کا طالب ہو کر کہے۔ اے اللہ کے رسول! میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہوں۔ اے اللہ کے رسول! میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہوں۔

(فتح القدر جلد ۳ صفحہ ۹۵)

اس تحریر سے امام ابن ہمام علیہ الرحمۃ والرضوان کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضور پیدا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی ان وسیلہ بنانا جائز ہے۔

### علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۹۱۱ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ بن ہشیث بن خدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے۔

برکت ایں بندہ کہ تو رحمت و اکرام کردہ اور ابیر آوردہ گروہ حاجت مرا۔ یا ندا کندا آں بندہ مقرب و مکرم را کہ اے بندہ خدا و ولی وے شفاعت کن مراد نجوہ از خداۓ تعالیٰ مطلوب مراتا قضا کند حاجت مرا۔ پس نیست بندہ درمیان مگر وسیلہ و قادر و عطی و مسئول پروردگارست تعالیٰ شلنہ۔ و دروے یعنی شاہبہ شرک نیست چنانکہ منکر و ہم کردہ۔ و آں چنانست کہ توسل و طلب دعا از صالحین و دوستانِ خدا در حالت حیات کند و آں جائز است بااتفاق۔ پس آں چرا جائز نباشد۔ و فرقہ نیست در ارواح کاملان درمیان حیات و بعد از ممات مگر بہ ترقی کمال۔

ترجمہ: مدد طلب کرنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ضرورت مند اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے اس نیک بندے کی روحانیت کے وسیلے سے طلب کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیٰ میں مقرب و مکرم ہے اور کہے خداوند! اس بندے کی برکت سے کہ جس پر تو نے رحمت و اکرام فرمایا ہے میری حاجت کو پورا فرم۔ یا اس مقرب بندہ کو پکارے کہ اے بندہ خدا اور اللہ کے ولی! میرے لئے شفاعت کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ میرے مقصد کو پورا فرمائے۔ لہذا بندہ درمیان میں صرف وسیلہ ہے۔ قادر، دینے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں شرک کاشاہبہ تک نہیں جیسا کہ منکرنے و ہم کیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ نیک لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ظاہری زندگی میں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ ان سے دعا طلب کی جاتی ہے اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو وفات کے بعد وہی بات کیوں جائز نہ ہوگی؟ کاملین کی ارواح میں ظاہری زندگی اور وفات کے بعد صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں اور زیادہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ (فتاویٰ عزیزیہ جلد ۲ صفحہ ۱۰)

اس فتویٰ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر اپنا عقیدہ تحریر فرمادیا کہ بزرگانِ دین کو جس طرح ان کی ظاہری زندگی میں وسیلہ بنانا جائز ہے ایسے ہی وصال کے بعد بھی جائز ہے اور اس میں شرک کاشاہبہ تک نہیں۔ اس لئے کہ سوال اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے اور بزرگانِ دین صرف وسیلہ ہوتے ہیں۔

کرامیر المؤمنین کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ مند پر بٹھایا اور فرمایا کہ میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ پھر وہ شخص امیر المؤمنین کے یہاں سے جا کر عثمان بن خلیف سے ملاقات کی اور کہا اللہ آپ کو جزاۓ خیر عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین میری ضرورت کے بارے میں کوئی توجہ نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے میرے بارے میں ان سے گفتگو کی۔ عثمان بن خلیف نے کہا میں نے ان سے گفتگو نہیں کی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نایبنا شخص نے آ کر اپنے اندر چھپن کی شکایت کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے کوئی راہ بتانے والا نہیں اور یہ میرے لئے تکلیف وہ ہے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ وضو گاہ میں جا کر وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ پھر دعا کرو۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھ کی تکلیف دور فرمادے۔ اے اللہ! تو حضور ﷺ کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما اور میری شفاعت میرے بارے میں۔ حضرت عثمان بن خلیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے گئے نہیں تھے کہ وہ شخص آیا گویا کہ وہ انداھا ہی نہیں تھا۔ (نصالص کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۲۰۲)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ وصال کے بعد بھی حضور پیر عالم ﷺ کو خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لئے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو بلا تردید اس حدیث کو اپنی کتاب میں شامل نہ فرماتے۔

### سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۲۳۹ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

نیست صورت استمد اد مگر ہمیں کہ محتاج طلب کند حاجت خود از جناب عزت الہی بتول روحا نیت بندہ کہ مقرب و مکرم درگاہ والا است۔ و گوید خداوند ابا

الأنبياء أحياءٌ في قبورِهم يَصْلُونَ۔ (أخرج أبو يعلى والبيهقي)

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔

(خاصص کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۲۸۱)

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاصص کبریٰ میں اس حدیث شریف کو لکھ کر قبروں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کے متعلق اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا۔

### حضرت ملا علی قاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۱۳ھجری)

آپ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں۔

لَا فِرْقَ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ وَلَدَا قِيلَ أُولَيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يُنْقَلُونَ مِنْ ذَارٍ إِلَى ذَارٍ.

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام کی دنیوی اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ (مرقاۃ جلد ۲ صفحہ ۲۱۲)

اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .

ترجمہ: بے شک خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرمادیا ہے۔ (ابوداؤد، نسائی، دارمی، تیہقی، ابن ماجہ، مخلوۃ صفحہ ۲۰)

اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

الأنبياء في قبور أحياء.

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ (مرقاۃ جلد ۲ صفحہ ۲۰۹)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُرْزَقُ وَيُسْتَمَدُ مِنْهُ الْمَدْدُ المُطْلَقُ.

## قبر کی زندگی

اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء اور اولیاء کا اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتا ہے۔  
سرکار اقدس ﷺ اور تمام علماء و بزرگانِ دین کا یہی عقیدہ ہے۔ ثبوت ملاحظہ ہو۔

### حضور سید عالم کا عقیدہ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وصال اقدس ۱۱ ہجری بہ طابق ۶۳۲ عیسوی)

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنِيَ اللَّهُ حَمْدُهُ يُرْزَقُ.  
ترجمہ: بے شک خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیائے کرام علیہم السلام کے جسموں کو  
کھانا حرام فرمادیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں۔  
(ابن ماجہ۔ مکلوۃ سنگر) (۱۲۱)

اس حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا یہی عقیدہ ہے کہ  
انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں اور صحابی  
رسول ﷺ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف کو روایت کیا تو ان کا  
بھی یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

### محمد شین کا عقیدہ

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ذکورہ کو محمدث حضرت ابن ماجہ  
اور صاحب مکلوۃ علامہ خطیب تمیری نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ کر ثابت کر دیا کہ ہمارا یہ  
عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور دوسرا محدث  
کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

### حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متوفی ۹۱۱ ہجری)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ اصلوۃ والسلیم نے فرمایا۔

فرماتے ہیں۔

حیاتِ انبیاء متفق علیہ است یعنی کس را دروے خلاف نیت حیاتِ جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیاتِ معنوی روحانی چنانکہ شہداء راست۔

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام کی زندگی سب مانتے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ (اشہد المعمات جلد اصفہن ۵۷۳)

ان تحریروں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان فرمادیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں، جس میں مجاز کی آمیزش اور کسی قسم کی تاویل کا وہم نہیں ہے بلکہ تمام انبیائے کرام کی زندگی دنیا کی طرح جسمانی حقیقی ہے اور شیخ محقق کی تحریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے زمانہ تک اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں رہا۔

**علامہ شہاب الدین خفاجی کا عقیدہ**  
(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۷۰ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

الآنَبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءُ فِي قُبُوْرِهِمْ حَيَاةً حَقِيقَةً.

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔  
(نیم الریاض جلد اصفہن ۱۹۶)

آپ کا عقیدہ اس عبارت سے کھلم کھلا ظاہر ہے۔

**شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ**  
(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۱۷۲ھجری)

آپ لکھتے ہیں کہ والد ماجد شاہ عبدالرجیم فرمایا کرتے تھے کہ جن دنوں اور نگز زیب اکبر آباد میں تھا میں محتسب لشکر مرزا زاہد ہروی سے کچھ اسماق پڑھتا تھا۔ اسی بہانے میں اپنے والد کے ہمراہ اکبر آباد گیا۔ سید عبداللہ بھی سید عبدالرحمٰن کی رفاقت کے سبب وہاں موجود تھے۔ وہاں انہیں ایک عارضہ ہو گیا اور رحمت حق سے واصل ہوئے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے

ترجمہ: بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات ہیں انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ (مرقاۃ جلد اصحفہ ۲۸۳)

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان تحریروں سے ان کا عقیدہ کھلماً ظاہر ہے کہ حضرات انبیاءؐ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ اللہ کے دوسرے محبوب بندے بھی نہیں مرتے ہیں۔ صرف دارِ فقائی سے دارِ بقاء کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔

### حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۵۲ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

باقندیں اختلاف و کثرت مذاہب کہ در علمائے امت ست یک کس رادریں مسئلہ خلاف نیست کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقت حیات بے شایبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی ست و براعمال امت حاضر و ناظر و مرطابان حقیقت را و متوجہاں آں حضرت رامفیض و مریبی۔

ترجمہ: علمائے امت میں اتنے اختلافات اور بہت سے مذاہب ہونے کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات (دنیوی) کی حقیقت کے ساتھ قائم و باقی ہیں۔ اس حیات نبوی میں مجاز کی آمیزش اور تاویل کا وہم نہیں ہے اور آپ ﷺ امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ نیز طالبان حقیقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے کہ آں حضرت ﷺ کی جانب توجہ رکھتے ہیں، حضور ﷺ ان کو فیض بخشنے والے اور ان کے مرلي ہیں۔

(مکتوب سلوک اقرب اسلبل بالتجه الی سید الرسل مع اخبار الاخیار صفحہ ۱۶۱)

اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

پیغمبر خدا زندہ است حقیقت حیات دنیاوی۔

ترجمہ: خدا تعالیٰ کے نبی دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔

(اوحہ المدعات جلد اصحفہ ۵۷۶)

اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے تحت تحریر

میں اکیلان کے کپڑوں اور سامانوں کی حفاظت کے لئے جاگتا رہا۔ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لئے میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ چند سورتیں تلاوت کر کے میں خاموش ہو گیا۔ اچاک قریب کی قبروں میں سے ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں قرآن مجید کے زندگی بخش نغمات سننے کے لئے مدت سے ترس رہا ہوں۔ اگر کچھ وقت اور تلاوت کریں تو احسان مند ہوں گا۔ میں کچھ اور تلاوت کر کے پھر خاموش ہو گیا۔ صاحب قبر نے مزید استدعا کی۔ میں نے پھر پڑھا۔ میرے چپ ہونے پر اس نے تیسری بار درخواست کی۔ میں نے اس دفعہ بھی اس کی درخواست قبول کی اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کیں۔

اس کے بعد یہ صاحب قبر مخدومی برادر گرامی کو جو پاس ہی سورہ ہے تھے، خواب میں آیا اور کہا کہ میں نے ان کو بار بار تلاوت کے لئے کہا ہے۔ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ انہیں فرمائیں کہ قرآن مجید کا کچھ زیادہ حصہ تلاوت کر کے میرے لئے روح کی غذا فراہم کریں۔ وہ نیند سے اٹھے اور مجھے صورتِ حال سے آگاہ کیا۔ میں نے نسبتاً زیادہ تلاوت کی اور اس پر ان اہل قبور میں خوشی و سرست کی خاص کیفیت محسوس کی اور انہوں نے مجھے فرمایا۔ *جزاکَ اللہُ عَنِّی خَيْرَ الْجَزَاءِ*۔

اس کے بعد میں نے ان سے عالم بزرخ کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا میں ان قربی قبروں میں سے کسی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ البتہ میں اپنا حال آپ کو سناتا ہوں۔ جب سے میں نے دنیا سے انتقال کیا ہے میں نے کسی قسم کا عذاب یا عتاب نہیں دیکھا۔ اگرچہ بہت زیادہ انعام و اکرام بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کون سے عمل کی برکت سے تمہیں نجات ملی ہے؟ اس نے کہا میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی تھی کہ دنیاوی بکھیزوں سے خود کو آزاد رکھوں اور ذکر و عبادات سے غافل کرنے والی چیزوں سے کنارہ کش رہوں۔ اگرچہ اپنے اس ارادہ کو مکمل عملی جامہ نہ پہنانسا کا۔ پھر بھی خدا تعالیٰ نے میرے حسن نیت کو پسند فرمایا کہ مجھے یہ صلحہ عطا فرمایا۔ (انفاس العارفین اردو صفحہ ۱۱۲)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام واقعات کو کتاب میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور وقت ضرورت دنیا والوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔

مکینوں کے قبرستان میں وفن کرنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میں بھی اس دن شدید بیمار تھا۔ جنازہ کے ساتھ جانے کی سخت نہیں تھی۔ جب میں تندروت ہوا اور چلنے پھرنے کی طاقت پیدا ہوئی تو ایک ایسے شخص کے ساتھ جوان کے جنازہ وفن میں موجود تھا زیارت و برکت کے لئے ان کے مزار مبارک کی طرف چل پڑا۔ یہ ان کی آخری وصیت کا کمال تھا کہ میرے ساتھی کافی غور فکر کے باوجود ان کی قبر نہیں پہچان سکے۔ آخر اندازے سے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا۔ میری پشت کی طرف سے سید صاحب نے آواز دی کہ فقیر کی قبر ادھر ہے لیکن جو کچھ شروع کر چکے ہو اے وہیں تمام کرلو اور اس کا ثواب اسی قبر والے کو بخشو۔ جلدی مت کرو! جو کچھ پڑھ رہے ہو اے انجام تک پہنچاؤ! یہ سن کر میں نے ساتھی سے کہا۔ اچھی طرح غور کرو سید صاحب کی قبر وہی ہے جو حضرت نے اشارہ کیا یا میری پیٹھ کے پیچھے ہے؟ تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگا میں غلطی پر تھا۔ حضرت سید صاحب کی قبر تمہارے پیچھے ہے؟ میں اسی سمت ہو کر بیٹھا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اسی اثناء میں دل گرفتہ اور غلکین ہونے کے سبب اکثر مقامات پر تولید قرأت کی رعایت نہ کر سکا۔ قبر میں سے آواز آئی کہ فلاں فلاں جگہ پر تسائل سے کام لیا ہے۔ قرأت کے معاملے میں حزم و احتیاط کی ضرورت ہے۔ (انفاس العارفین صفحہ ۵)

اور لکھتے ہیں مردی ہے کہ میر ابوالعلی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی سلسلہ ابوالعلائی) کے اہل خانہ نے ان کے فرزند میر نورالعلی کے عارضہ علالت کے سبب ایک روپیہ اور ایک چادر بطور نیاز حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے مزار پر بھجوائی تھی جس کی اطلاع حضرت میر ابوالعلی کو نہیں تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ کی طرف متوجہ تھے کہ مزار سے آواز آئی کہ تمہارے فرزند کی صحت کے لئے تمہارے گھر سے یہ جو کچھ نیاز آئی ہے اور اہل خانہ نے دوسرے فرزند کے لئے بھی الجما کی ہے، نیاز قبول اور الجما مبذول ہے۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۹)

اور لکھتے ہیں کہ والد ماجد شاہ عبدالریحیم صاحب نے فرمایا کہ شیخ بازیزیہ اللہ کو نے حرمن شریفین کی حاضری کا قصد کیا تو آپ کی معیت میں بہت سے ضعیف العمر، بچے اور عورتیں بھی تیار ہو گئیں۔ حالانکہ زادراہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ برادر گرامی اور میں نے متفق ہو کر ارادہ کیا کہ انہیں واپس لایا جائے۔ جب ہم تغلق آباد پہنچنے تو دن بہت گرم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ اس دوران تمام احباب سو گئے اور

## فقہا کے عقیدہ

صاحب نور الایضاح علامہ شرنبلائی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۶۹ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

وَمِمَّا هُوَ مُقْرَرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ وَيُرْزَقُ مُتَمَّعًّ بِجَمِيعِ الْمَلَادِ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ أَنَّهُ حَجَبَ عَنْ أَبْصَارِ الْفَاقِرِينَ عَنْ شَرِيفِ الْمُقَامَاتِ.

ترجمہ: یہ بات ارباب تحقیق کے نزدیک ثابت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ) زندہ ہیں ان پر روزی پیش کی جاتی ہے۔ ساری لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں لیکن جو لوگ کہ بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوچھل ہیں۔ (مراتی الفلاح مع طحطاوی صفحہ ۲۲۷)

حضرت علامہ شیخ حسن شرنبلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھلم کھلا اپنا اور تمام محققین کا عقیدہ لکھ دیا کہ حضور ﷺ زندہ ہیں، مگر عام لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہیں۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ

میری جسمِ عالم سے چھپ جانے والے

## علامہ ابن حجر مکی شافعی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۳۴۹ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا میں کل ظہر کے وقت انتقال کر جاؤں گا تو کہنے کے مطابق ہی ان کا انتقال ہوا اور جب قبر میں رکھے گئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ دفن کرنے والے نے ان سے کہا کیا آپ موت کے بعد زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا۔ آنا حیٰ وَ كُلُّ مُحِبٍ لِلَّهِ حَيٌ۔ ترجمہ۔ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہر ایک زندہ ہے۔ (فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۲۶۷)

## حضرت علامہ نبھانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۳۵۰ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صدر الدین بکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۱۸ھجری) جب حج کے لئے گئے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو لوگوں نے سن کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۷۲۳) اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن محمد بن شرف الدین غلبی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۳۷۱ھجری) جو بیت المقدس میں مقیم تھے وہ اپنی زبانی یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہمارا واقعہ یوں ہے کہ میں رات کو آپ کی زیارت کے لئے آپ کے مزارِ اقدس کے پاس اتر ا۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر صلاۃ والسلام والی کتاب ”دالل الخیرات“ پڑھنا شروع کیا۔ ایک دفعہ ختم کر کے جب دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے خیال آیا بہتر یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہما السلام پر صلاۃ والسلام بھیجوں۔ تو میں نے یوں درود شریف پڑھا۔ اللہُمَّ صلِّ عَلَى مُوسَى وَأَخْيُه هَارُونَ۔ یعنی اے اللہ! موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون پر درود بھیج۔ میں نے قبر شریف سے فتح و بلیغ آوازنی کہ ”نبت کا رشتہ والا“ (آزادی) کے رشتے سے افضل اور مقدم ہے، میں اس جملہ کا مطلب سمجھ گیا۔ مقصد یہ تھا کہ حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم یوں منسوب ہو جیسے نب کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ نبیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ”میری امت میرا عصبہ و رشتہ ہے“ اور دوسروں سے تمہارا رشتہ والا کا ہے اور نب کا رشتہ والا کے رشتہ سے مقدم ہے۔ یہ کہ پھر میں نے دالل الخیرات پڑھنا شروع کیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۸۲۰)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ بقول حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آدمی حضرت محمد بن کبیر حکمی علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفی ۷۱۷ھجری) کی خدمت میں ان کی وفات کے بعد حاضر ہوا اور الجای کی کہ اسے اپنی دوستی کا شرف بخشیں۔ آپ قبر سے نکلے اور اس سے دوستی کا عہد باندھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۳۶)

علامہ یوسف نبھانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات کو لکھ کر واضح کر دیا کہ انبیاء و اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ حق ہے۔

حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جواہرات سے مرصع ایک خلہ ہے اور آپ کے سر پر یاقوت کا تاج، ہاتھوں میں سونے کے لگن اور دونوں پاؤں میں طلاٹی جوتے ہیں، لیکن آپ کا داہنا ہاتھ شل ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے میں نے تجھے پانی میں دھکا دیا تھا۔ کیا تو مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا بلاشبہ معاف کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا سے دعا کر کے یہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ میں جس وقت کمزرا ہوا دعا کر رہا تھا تو پانچ ہزار اولیائے کرام اپنے مزارات میں میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمایا کہ شیخ حماد کے ہاتھ کی تکلیف دور کر دیا اور آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس طرح میری اور ان کی خوشی پوری ہو گئی۔ (فلامد الجواہر صفحہ ۹۹)

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت جماد نے مجھ سے گفتگو کی اور ہاتھ ٹھیک ہونے کے لئے خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کی۔

## حضرت شیخ علی بن ہبیتی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۶۳ ہجری)

آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ہبیتی مشائخ عراق میں بڑے صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں اور ان شیوخ میں سے ایک ہیں جو اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے اور آپ اکثر غیب کی خبریں بھی بتا دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بہت تعریف کرتے اور نہایت محبت و احترام کے ساتھ پیش آتے اور اکثر فرمایا کرتے کہ بغداد میں جو اولیائے کرام داخل ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی مہمان ہوتے ہیں، لیکن ہم شیخ علی بن ہبیتی کے مہمان رہتے ہیں۔ (فلامد الجواہر صفحہ ۳۱۳)

حضرت شیخ علی بن ہبیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ بقاء بن بطور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ حضرت امام احمد بن حببلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے مزار کی زیارت کی تو دیکھا کہ امام احمد بن حببلہ نے قبر سے نکل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے

اس تحریر سے حضرت علامہ ابن حجر عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات تو ارفع و اعلیٰ اور بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کا ہر وہ نیک بندہ جو اس سے محبت کرنے والا ہے، وہ بھی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے۔

## اولیاء اللہ کے عقیدے

### حضور سیدنا غوثِ اعظم شیخ عبدالقدار جیلانی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۶۱ ہجری)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ کیمیائی، شیخ بزاں اور شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی کے ہمراہ ۲۷ ذی الحجه بروز چہار شبہ ۵۲۳ ہجری مقبرہ شونیز میں مزارات کی زیارت کے لئے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ فقہاء و قراء کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ وہاں آپ شیخ حماد (متوفی ۵۲۵ ہجری) کے مزار پر بہت دیر کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ گری نے شدت اختیار کر لی، لیکن آپ کو دیکھ کر تمام لوگ بھی آپ کے پیچھے خاموش کھڑے رہے۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کے چہرے پر بہت ہی بثاشت تھی۔ لوگوں نے جب دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

میں جمعہ ۱۵ شعبان ۳۹۹ ہجری میں شیخ حماد کے ہمراہ جمعہ کی نماز کے لئے جامع الرصافہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی۔ چنانچہ جب ہم لوگ قسطوہ یہود (یہودی پل) کے قریب پہنچے تو شیخ حماد نے شدید سردی کے باوجود مجھے پانی کے اندر دھکا دے دیا۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ اس وقت میرے جسم پر ایک اونی ججہ تھا اور دوسرا جب میری آستین میں تھا جسے نکال کر میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا تاکہ بھیگنے سے محفوظ رہے۔ شیخ حماد مجھے دھکا دے کر آگے بڑھ گئے۔ چنانچہ میں نے پانی سے نکل کر اپنا ججہ نچوڑا اور ان کے پیچے روانہ ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر لوگوں نے افسوس کیا تو شیخ حماد نے انہیں جھڑک کر فرمایا میں نے تو محض امتحاناً اس کو نہ میں دھکیلا تھا، لیکن یہ تو ایسا کوہ گراں ہے جو اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرتا۔ پھر حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی نے فرمایا کہ آج میں نے شیخ حماد کو قبر کے اندر ایسی

حضرت سید احمد کبیر رفاقتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عرض پر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنے دست مبارک کو باہر نکالا جس کو انہوں نے چوما۔

**الْبَنِيَانُ الْمَبْشِيدُ** میں ہے کہ اس وقت کئی ہزار کا جمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور ﷺ کے دست اقدس کی زیارت کی۔ ان لوگوں میں محبوب بجانی حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاقتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ ورنہ وہ ہرگز حضور ﷺ سے یہ عرض نہ کرتے کہ اپنا دست مبارک بڑھائیے، تاکہ ہم اسے بوسے دیں۔

## خواجہ خواجہ گان حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۷۱۷ ہجری)

آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۸۳ ہجری) کے مرید و خلیفہ ہیں اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کے پیرو مرشد ہیں۔ آپ ہی کی نگاہ کرم نے حضرت خواجہ کو سلطان الہند اور سلطان العارفین بنا دیا۔ آپ کا وصال مکہ شریف میں ہوا۔ مزار مبارک مسجد جن کے قریب تھا جس کو نجدی حکومت نے توڑ کر روڈ میں لے لیا۔ اللہ کے محبوب بندے بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجہ گان حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ تمس العارفین کا یہ حال گزرنا کہ جس روز وہ رسول ﷺ کے روضہ انور پر حاضر ہوئے تھے اور سلام عرض کیا تھا تو وہاں سے آواز آئی۔ **وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا شَمْسَ الْعَارِفِينَ** پس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے باہر نکلے تو جو کوئی ملت تھا وہ **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَمْسَ الْعَارِفِينَ** کہتا تھا۔ پھر اسی جگہ اسی کے متعلق یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ گزرنا کہ جب شروع میں حضرت نعمان کو فی علیہ الرحمۃ والرضوان، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کیا **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ** تو وہاں سے جواب سلام آیا کہ **وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ** (انیں الارواح صفحہ ۲۸)

فرمایا کہ اے عبد القادر! تمام لوگ علم شریعت و طریقت میں تیرے محتاج ہوں گے۔ پھر میں حضرت کے ہمراہ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۲۰۰ھجری) کے مزار پر گیا۔ وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا شیخ مَعْرُوفِ غَبْرَنَاكَ بِدَرْجَتَيْنِ۔ یعنی اے شیخ معروف ہم آپ سے دو درجہ بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے قبر میں سے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یَا مَسْدَدَ أَهْلِ زَمَانِہِ۔ یعنی اے اپنے زمانہ والوں کے سردار! وَعَلَيْکُمُ السَّلَامُ۔ (فَلَانَدَ الْجَوَاهِرُ صفحہ ۱۳۱)

حضرت شیخ علی بن ہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بیان سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ بزرگان دین وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حبل نے اپنی قبر سے نکل کر حضرت غوث پاک سے معاافۃ کیا اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر سے آپ کے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ باہر سنائی دیا۔

### حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۵۷۵ھجری)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الحادی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی علیہ الرحمۃ والرضوان جو مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ ۵۵۵ھجری میں حج سے فارغ ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور قبر انور کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے۔

فِي حَالَةِ الْبَعْدِ رُوْحِيْ كُنْتُ أَرْسِلُهَا

تُقْبِلُ الْأَرْضَ عَنِّيْ وَهِيَ نَائِبِيْ

ترجمہ: میں دور ہونے کی حالت میں اپنی روح کو خدمت مبارکہ میں بھیجا کرتا تھا جو میری نائب بن کر حضور کے آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی۔

وَهَذِهِ دُولَةُ الْإِشَاحِ قَدْ حَضَرَتْ

فَأَمْدُدْ يَمِينِكَ كَمْ تَخْطُلِ بِهَا شَفَتِيْ

ترجمہ: اب جسموں کی حاضری کا وقت آیا۔ لہذا اپنے دست اقدس کو

عطافرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چوٹیں۔

گزر کر اتنے کثیر لوگ ان بزرگوں کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ ان کے آنے کی ان بزرگوں کو اطلاع ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے دل میں یہ خیال گزرائی تھا اور میں روضہ مبارکہ کے قریب مراقبہ میں مشغول تھا کہ میں نے روضہ مبارکہ سے یہ شعر سنایا۔

مرا زندہ پندار چوں خویشن  
من آیم بجاں گر تو آئی بے تن

ترجمہ: مجھ کو اپنی طرح زندہ سمجھو۔ میں جان کے ساتھ آتا ہوں، اگر تم جسم کے ساتھ آتے ہو۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۷۷)

اور حضرت خواجہ امیر خورد کرمانی نظامی مصنف سیر الاولیاء تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غیاث پور میں رہتے تھے۔ مولا نا فتح الدین اور قاضی محی الدین کاشانی آپ کی خدمت میں غیاث پور حاضر ہوئے۔ قدم بوی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان دونوں نے بیعت ہونے کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فوراً ہی قاضی محی الدین کاشانی کو مرید کر لیا اور مولا نا فتح الدین سے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق شیخ شیوخ العالم سے پوچھوں گا۔ یہ سن کر مولا نا فتح الدین کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگے کہ شیخ شیوخ العالم تو وفات پاچے ہیں۔ سلطان المشائخ ان سے کیسے پوچھیں گے۔ یہ بات ان کے دل میں گزری، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور قدم بوی کے بعد لوث آئے۔

جب وہ دوسری مرتبہ سلطان المشائخ سے ملے تو سلطان المشائخ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق شیخ شیوخ العالم سے عرض کیا تھا۔ آپ نے قبول فرمایا ہے۔ اب تم بیعت ہو سکتے ہو۔ چنانچہ وہ سلطان المشائخ سے بیعت ہو گئے۔ جب وہ بیعت کر چکے تو مولا نا فتح الدین نے عرض کیا کہ مخدوم من! شیخ شیوخ العالم تو وفات پاچے ہیں۔ آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ فرمایا جب مجھے کسی بات میں تردود ہوتا ہے تو میں شیخ شیوخ العالم ہی سے پوچھتا ہوں اور آپ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہوں۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۳۵۲)

سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان سے کہ میں نے روضہ مبارکہ سے فارسی کا ایک شعر سنایا اور اس فرمان سے کہ جب مجھے کسی بات میں تردود ہوتا ہے تو میں شیخ شیوخ العالم ہی سے پوچھتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی وصال کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہتے

حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مذکورہ بیان سے ثابت ہوا کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔

### سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۶۳۳ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کم معظمه سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روپہ انور کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روپہ انور کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ اب تو حضور اقدس میں حاضر ہے سلام کر۔ میں نے سلام عرض کیا۔ روپہ انور سے آواز آئی۔ **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا قَطْبَ الْمَسَائِخِ لِلْبَرِّ وَالْبَحْرِ**۔ جب یہ آواز آئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بس اب تیرا کام پورا ہو گیا۔ (انیں الارواح صفحہ ۲)

حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تحریر سے ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں کہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب اتنی بلند آواز سے دیا کہ ہم لوگوں نے سن لیا۔

### شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۶۷۰ھجری)

آپ فرماتے ہیں۔  
**الآنِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي الْقُبُوْرِ**۔ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۵۱)  
 اس فرمان سے انبیاء کرام علیہم السلام کا قبروں میں زندہ رہنے کے بارے میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

### سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۷۲۵ھجری)

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے گیا۔ میرے دل میں خیال

## زیارت قبور اور ان سے استفادہ

قبوں کی زیارت کرتا اور ان سے فائدہ حاصل کرتا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بزرگان دین کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

### حضور سید عالم کا عقیدہ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وصال اقدس السلام ۱۱ ہجری برابر ۶۳۲ عیسوی)

(۱) حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

*نَهِيْتُكُمْ عَنِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَرُؤُرُوهَا.*

ترجمہ: میں نے تم لوگوں کو قبوں کی زیارت سے منع کیا تھا (اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ) ان کی زیارت کرو۔ (مسلم۔ مخلوٰۃ صفحہ ۱۵۲)

محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے قرب کے سبب اس اندیشہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے قبوں کی زیارت سے منع کر دیا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ پھر کہیں جاہلیت والا رویہ نہ اختیار کر لیں۔ پھر جب اسلام کے قوانین سے لوگ خوب آگاہ ہو گئے تو آپ نے قبوں کی زیارت کے لئے اجازت دے دی۔

(اعلل المعمات جلد اصفہان ۱۷)

(۲) حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: *نَكْثُ نَهِيْتُكُمْ عَنِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَرُؤُرُوهَا.*

ترجمہ: میں نے تم لوگوں کو قبوں کی زیارت سے روکا تھا تو اب تم ان کی زیارت کرو۔ (ابن ماجہ۔ مخلوٰۃ صفحہ ۱۵۲)

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا۔  
 کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ أَخْرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ.

ہیں اور پہلے واقعہ سے آپ کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ بزرگانِ دین قبروں میں رہتے ہوئے دنیا والوں کے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔

### حضرت علامہ جامی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۸۹۸ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک معتبر شخص سے جو حضرت خواجہ محمد پارسا بخاری قدس سرہ (متوفی ۸۲۲ ہجری) کے صاحبزادے خواجہ برہان الدین ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۶۵ ہجری) کے خواص میں سے تھے۔ وہ خواجہ برہان الدین ابو نصر سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی روح پرواز ہوئی تھی تو اس وقت میں حاضر نہ تھا۔ جب میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے رونے مبارک کو اس غرض سے کھولا کہ اس کی زیارت کروں۔ آپ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں اور تبسم فرمایا جس سے میرا قلق اور اضطراب بہت بڑھ گیا۔ میں آپ کے پائیں گیا اور اپنا چہرہ آپ کے کف پاسے ملنے لگا۔ آپ نے اسی وقت اپنے پاؤں سمیٹ لئے۔ (نفحات الانس صفحہ ۲۳۱)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں بلا تردید تحریر فرمائی کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ بعد وفات زندہ رہتے ہیں۔



قبو دعا کی مقبولیت کے لئے تریاقی مجرب ہے۔ (الفہد المعمات جلد اصحفہ ۱۷)

ان تحریروں سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عقیدے معلوم ہوئے کہ بزرگوں کے مزاروں کی زیارت کے لئے جانا، صاحب مزار سے برکت حاصل کرنا، ان کے مزاروں کے پاس جا کر دعا کرنا اور صاحب مزار کو حاجت روائی کا ذریعہ ٹھہرانا جائز ہے اور بعض بزرگوں کا مزار دعا کی مقبولیت کے لئے تریاقی مجرب ہے۔

### عارف باللہ علامہ صاوی ماکلی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان)

آپ آیت کریمہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِیلَةَ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

مِنَ الظَّالِمِينَ وَالخُسْرَانِ الظَّاهِرِ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ بِزِيَارَةِ  
أَوْلِيَاءِ اللَّهِ رَأَى عِمَّيْنَ أَنَّ زِيَارَتَهُمْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ رَأَى عِمَّيْنَ أَنَّ زِيَارَتَهُمْ مِنْ  
عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ كَلَّا بَلْ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْجَّةِ إِلَى أَهْلِهِ۔

ترجمہ: اولیاء اللہ کی زیارت کے سب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ ان کی زیارت عبادت غیر اللہ ہے واضح گمراہی اور کھلی ہوئی ہلاکت ہے (اولیاء اللہ کی زیارت عبادت غیر اللہ ہرگز نہیں بلکہ الحب فی اللہ میں سے ہے۔ (تفسیر صاوی جلد اصحفہ ۲۲۵)

معلوم ہوا کہ عارف باللہ حضرت علامہ صاوی ماکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے جانا جائز ہے کہ وہ عبادت غیر اللہ نہیں ہے بلکہ الحب فی اللہ میں سے ہے۔

### سلطان التارکین حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۷۷ھجری)

آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ میری بیوی سیدہ خدیجہ کی

قبر پر جا کر عرض کرے کونکہ آپ نے کسی حاجت مند کو اپنے دروازہ سے محروم نہیں کیا۔

(سلطان التارکین صفحہ ۹۳)

حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس فرمان سے ان کا

ترجمہ: جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرماتے تو آخر رات میں اٹھ کر مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے۔ (مسلم۔ مکملۃ صفحہ ۱۵۳)

(۲) حضرت محمد بن نہمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبْوَيْهِ أَوْ أَحِدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفرَانٌ وَكُثْبَ بَرَا.  
ترجمہ: جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن تو اسے بخش دیا جائے گا اور اسے نیکی کرنے والا لکھا جائے گا۔ (مکملۃ صفحہ ۱۵۳)

ان حدیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور پیدا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک قبروں کی زیارت جائز ہے بلکہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے وہ بخش دیا جائے گا۔

### حضرت امام شافعی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۲۰۳ ہجری)

حضرت علامہ ابن عابدین شاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۲۵۳ ہجری) تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا۔

إِنِّي لَا تَبَرَّكُ بِأَبَيِّ حَنِيفَةَ وَأَجْنَىءَ إِلَى قَبْرِهِ فَإِذَا عَرَضْتَ لِي حَاجَةً صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَنَالْتُ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَضَى سَرِيعًا۔

ترجمہ: میں امام ابوحنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس آتا ہوں۔ توجہ مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ (رد المحتار جلد اصفہ ۳۸)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

امام شافعی گفتہ است قبر موی کاظم تریاق مجرب ست مراجابت دعا را۔

ترجمہ: حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت موی کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

نے مجھے بہت خوش کیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی، مگر اس کو نہیں پہچان سکا۔ وہ ترک ہی کہتا۔ کیا تم وہ عقل مند نہیں ہو جس نے فلاں جگہ میرے ساتھ بہت نیکی کی تھی۔ میں نے اس سے کہا میں تم کو نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا میں تم کو پہچانتا ہوں۔ خود کو کیوں چھپاتے ہو۔ الغرض اس قسم کی بہت سی باتیں کیں۔ اس کے بعد میں روپے لایا اور بڑی معدالت کے ساتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ (فواہد الغواد مجلس ۲۱ بست وکیم صفحہ ۱۲۳)

حضرت محبوب اللہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو بلا تردید بیان فرمایا۔ اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ جس طرح ظاہری زندگی میں اولیاء اللہ سے کسی چیز کو دینے کے لئے عرض کرنا جائز ہے، ایسے ہی بعد وصال ان کی قبر کے پاس حاضر ہو کر کسی چیز کو دینے کے لئے کہنا جائز ہے۔ اس لئے کہ حقیقتاً دینے والا خدا تعالیٰ ہے اور اولیاء اللہ کی طرف نسبت مجاز ہے جیسے حقیقتاً بیار و اچھا کرنے والا اللہ ہے لیکن مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب! ہم کو اچھا کر دیجئے۔

## حضرت علامہ جامی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۸۹۸ ہجری)

آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالحارث اول اسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ والرضوان کی بہت شہرت سنی تھی۔ چند مسلوکوں کے حل کرنے کے لئے میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں مصر پہنچا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کا توکل انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر میں ان کے مزار پر گیا۔ وہاں پہنچ کر مراقبہ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آگئی۔ خواب میں ان کا دیدار ہوا اور مجھے جو مشکل مسئلے درپیش تھے وہ میں نے ان سے دریافت کئے۔ انہوں نے ان سب کا مجھے جواب مرحمت فرمایا۔ (نفحات الانس صفحہ ۱۹۳)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو تحریر فرمایا۔ اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر اپنی کسی حاجت کو لے کر جانا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔

عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اپنی قبروں سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیئے کہ اپنی حاجتوں کے لئے بزرگوں کی قبروں پر جائیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔

## سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۲۵ جمادی)

آپ نے فرمایا کہ مولانا تھیلی نے مجھ سے بیان کیا کہ دہلی میں ایک سال قحط پڑا۔ میں کرباسی بازار سے گزر رہا تھا اور بھوکا تھا۔ میں نے کھانا خریدا اور خود سے کہا کہ اس کھانے کو تھانیہں کھانا چاہیئے۔ کسی کو بلا کر کھانے میں اس کو بھی شریک کرو۔ ایک کمل والے درویش کو میں نے دیکھا جو گذڑی پہنے ہوئے میرے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خواجہ! میں درویش ہوں اور تم بھی درویش ہو اور میں غریب ہوں تم بھی غریب دکھائی دیتے ہو۔ کچھ کھانا موجود ہے۔ آؤ! تاکہ مل کر کھائیں۔ وہ درویش راضی ہوئے۔ ہم نابالی کی دوکان کے اوپر گئے اور کھانا کھایا۔

اس دوران میں اس درویش کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے خواجہ مجھ پر بیس روپے قرض ہو گیا ہے۔ میرا وہ قرض ادا ہونا چاہیئے۔ اس درویش نے کہا تم اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ میں بیس روپے تم کو دیتا ہوں۔ مولانا تھیلی نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ اس پہنچے حال شخص کے پاس بیس روپے کہاں ہوں گے جو مجھ کو دے گا۔ الغرض جب کھانا کھا چکے وہ اٹھے اور اپنے ساتھ مجھ کو لے چلے۔ وہ مسجد کی طرف گئے۔ مسجد میں ایک قبر تھی اس کے سرہانے کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ مانگا اور ایک چھوٹی لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی، آہستہ سے اس کو دوبار قبر پر مارا اور کہا اس درویش کو بیس روپے کی ضرورت ہے اس کو دو! یہ کہا اور میری طرف منہ کر کے مجھ سے کہا مولانا! واپس جاؤ! بس آپ کو بیس روپے مل جائیں گے۔

مولانا تھیلی نے کہا جب میں نے یہ بات سنی اس درویش کا ہاتھ چوما اور ان سے جدا ہو کر شہر کی طرف چل پڑا۔ میں اس وقت حیرت میں تھا کہ وہ بیس روپے مجھ کو کہاں سے مل جائیں گے۔ میرے پاس ایک خط تھا جو کسی کے گمراہ مجھے دینا تھا۔ اس دن وہ خط لے کر دروازہ کمال پہنچا۔ ایک ترک اپنے گمراہ کے جھنجو پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ کو دیکھا اور آواز دی اور اپنے غلاموں کو دوڑایا۔ وہ مجھے پوری کوشش سے اوپر لے گئے۔ اس ترک

بزرگانِ دین کا، اور ادب کی رعایت ان لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے ضروری ہے، جیسا کہ ان کی ظاہری زندگی میں تھا۔ اس لئے کہ بزرگوں کی مد ان کی زیارت کرنے والوں کے لئے ادب کے اعتبار سے پہنچتی ہے۔

(فتح المدعیات جلد اسٹری ۷۲۰)

ان تحریروں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ عقیدے کھلم کھلا ثابت ہوئے کہ قبروں کی زیارت کے لئے جانا شرک و بدعت نہیں بلکہ بالاتفاق مستحب ہے اور زیارت کرنے والوں کے لئے بزرگوں کی مدد پہنچتی ہے۔

### سید العلما حضرت سید احمد طحطاوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۲۳۱ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

**الْبُرَكُ بِزِيَارَةِ قُبُوْرِ الصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْ عَجَانِزَ وَمُكْرِهَ ذلِكَ لِلشَّائِبَاتِ كَحُضُورِهِنَّ فِي الْمَسَاجِدِ لِلجمَاعَاتِ حَاصِلَةً أَنَّ مَحَلَ الرُّخْصَةِ لَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلَى وَجْهِ لَيْسَ فِيهِ فَتْحَةٌ.**

ترجمہ: شریعت کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کئے بغیر بورڈی عورتوں بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں اور وہ جوان عورتوں کے لئے ناجائز ہے جیسے کہ ان کا مسجدوں میں جماعتوں کے لئے حاضر ہونا جائز نہیں۔ خلاصہ یہ کہ عورتوں کے لئے اجازت صرف اس صورت میں ہے جب کہ زیارت ایسے طریقہ پر ہو کہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو۔  
(طحطاوی علی مراتق صفحہ ۳۲۱)

یعنی حضرت سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مردوں کو بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور عورتوں کو صرف اس صورت میں اجازت ہے جب کہ فتنہ نہ ہو۔

## علامہ ابن حجر مکی شافعی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۹۷۳ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے علماء اور اہل حاجت کا طریقہ رہا کہ وہ حضرت امام اعظم ابوحنینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کرتے اور اس کے ویلے سے قضاۓ حاجت چاہتے اور اس ذریعہ سے کامیابی کا اعتقاد رکھتے اور منہ مانگی مراد پاتے تھے۔ ازاں جملہ رکن اسلام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب وہ بغداد میں فروکش تھے۔ فرمایا کہ میں امام ابوحنینہؓ سے برکت لیتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے، دور کعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس جاتا ہوں۔ خداوند عالم سے وہاں دعا کرتا ہوں تو فوراً حاجت روائی ہوتی ہے۔ (الْخَيْرَاتُ الْحَسَانُ مُتَرْجِمٌ صفحہ ۱۲۶)

اس تحریر سے حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرتا اور ان کے ویلے سے حاجت روائی چاہنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔

## حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۰۵۲ھجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

زیارت قبور مستحب است بالاتفاق۔

ترجمہ: قبروں کی زیارت بالاتفاق مستحب ہے۔ (افظ المعمات جلد اصلح صفحہ ۱۵۷)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

واجب است احترام میت نزد زیارت وے خصوصاً صالحان و مراعات ادب برقد مراتب ایشان، چنانچہ در حالت حیات ایشان بود۔ زیراً کہ صالحان را مدد بلیغ است مزیارت کنندگان خود را بر اندازہ ادب ایشان۔

ترجمہ: میت کا احترام اس کی زیارت کے وقت واجب ہے۔ خصوصاً

میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا میرا مقصد یہ نہیں بلکہ یہ فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خود تمہارے صلب سے ہو گا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور اسی سے کاتب المحرف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اتر گیا اس لئے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب انہیں یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۱۰)

اس واقعہ کے تحریر کرنے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ عقیدے واضح طور پر ثابت ہوئے کہ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کے لئے جانا جائز ہے۔ اولیاء اللہ کو بعد وصال بھی علم غیب ہوتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرزند کے پیدا ہونے کی خبر کئی سال پہلے دے دی اور صاحب مزار بزرگ زیارت کرنے والوں کے خطراتِ قلب پر آگاہ ہو جاتے ہیں۔

### حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۲۳۹ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں:

در شرح مقاصد ذکر کردہ نفع یافہ می شود بزيارة قبور واستعانت بنفوس اخیار از اموات بدرستیکه نفس مفارقة را تعلقہ ہست به بدنه و تربتے که دفن کردہ شود در آں تربت را و متوجه می شود بسوئے نفس میت حاصل می شود میان ہر دو نفس ملاقات و فاکھات۔ و اختلاف کردہ اند در آنکه امدادی قوی ترست از امداد میت یا بالعكس مختار بعض محققین ثانی است۔ و دریں باب بعضی روایات کنند کہ فرمود آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوں تمحیر شوید شادر امور یعنی برآمد کارہا پس مدد جوئید از اصحاب قبور۔ شیخ اجل در شرح مشکوہ گفتہ کہ یافہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح چیز یکہ مخالف و منافق ایں باشد و رد کند ایں را۔

ترجمہ: شرح مقاصد میں ہے کہ قبروں کی زیارت اور نیک لوگوں کی نفوس سے وفات کے بعد نفس کا بدنه اور قبر کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے۔ لہذا جب کوئی شخص اس قبر کی زیارت کرتا ہے اور میت کے نفس کی طرف متوجہ

## علامہ ابن عابدین شامی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۲۵۳ ہجری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

**أَمَا الْأُولَيَاءِ فَإِنَّهُمْ مُتَفَارِقُونَ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفْعُ الزَّانِيْرِيْنَ  
بِخَسْبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ.**

ترجمہ: اولیاء اللہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف درجہ رکھتے ہیں اور زیارت  
کرنے والوں کو اپنے معارف و اسرار کے لحاظ سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔

(روالختار جلد اصنفہ ۲۰۳)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

**الثَّبَرُكُ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ فَلَا بَاسَ إِذَا كُنْ عَجَاجًا نَزَوْيِيْكَرَةً  
إِذَا كُنْ شَوَّابَ كَحُضُورِ جَمَائِعِ فِي الْمَسَاجِدِ.**

ترجمہ: بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنا بوڑھی  
عورتوں کو حرج نہیں اور جبکہ جوان ہوں تو ناجائز ہے جیسے کہ جماعت کے لئے  
مسجدوں میں حاضر ہونا جائز نہیں۔ (روالختار اصنفہ ۲۰۳)

ان تحریروں سے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ بالکل  
 واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ اپنے درجے کے اعتبار سے زیارت کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں  
اور بوڑھی عورتوں کو بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنے میں حرج نہیں البتہ  
جو ان عورتوں کو ناجائز ہے۔

## حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ

(علیہ الرحمۃ والرضوان۔ متوفی ۱۷۶۱ ہجری)

آپ لکھتے ہیں کہ والد گرامی شاہ عبدالرحیم قبلہ نے فرمایا۔ ایک دفعہ میں حضرت خواجہ  
قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی  
روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ اس کا نام قطب  
الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصہ کو پہنچ چکی تھیں جس میں اولاد کا پیدا  
ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد یہی کہ فرزند یعنی پوتا ہے۔

## ایک ضروری فتویٰ

**غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیسا ہے؟**

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ غیر صحابہ کے لئے استعمال کرنا کیسا ہے؟ بکر، کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کے لئے بھی جائز ہے کہ یہ لفظ صاحبہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے اور زید، کہتا ہے کہ کوئی دینی پیشوا خواہ کتنا عی بڑا ہو اگر صحابی نہ ہو تو اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز نہیں کہ یہ لفظ صاحبہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لئے حضرت اولیس قرنی کو جو عاشق رسول اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول تھے، مگر اتنے بڑے بزرگ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتا غلط ہے۔ لہذا اس کے بارے میں کس کا قول صحیح ہے؟ مفصل جواب تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔

المستقی— محمد حنیف رضوی  
خطیب سنی رضوی مسجد کرلا بمبئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**لَكَ الْحَمْدُ يَا اللّٰهُ أَوَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ!**

الجواب: غیر صحابہ کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ درِ مختار مع شامی جلد چھتم صفحہ ۳۸۰ میں ہے۔ یستحب الترضی للصحابۃ والترحم للتابعین ومن بعد هم من العلماء و العباد وسائر الاخیار وكذا یجوز عکسہ وهو الترحم للصحابۃ وانترضی للتابعین ومن بعدهم على الراجح. ۱۔ ملخصاً یعنی صحابہ کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا مستحب ہے اور تابعین وغیرہ کے لئے رحمة اللہ تعالیٰ علیہ مستحب ہے اور اس کا الثالث یعنی صحابہ کے لئے رحمة اللہ تعالیٰ علیہ اور تابعین وغیرہ علماء و مشائخ کے لئے راجح نہ ہب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جائز ہے۔

اور حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نیم الریاض شرح شقا قاضی عیاض جلد سوم صفحہ ۵۰۹ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ویدکر من سواهم ای من سوی

ہوتا ہے تو دونوں نفوس کے درمیان ملاقات اور فیضان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ زندہ کی امداد کوئی ہے یا میت کی۔ بعض محققین نے میت کی امداد کو قوی قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے اس سلسلے میں روایت کی ہے کہ آس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کام میں حیران ہو جاؤ تو قبر والوں سے مدد طلب کرو۔ شیخ اجل حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکملۃ کی شرح میں فرمایا کہ کتاب و سنت نیز اقوال سلف میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو اس کے مخالف و منافی ہو اور اس بات کو رد کرے۔ (فتاویٰ عزیزیہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۸)

اس تحریر سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ بزرگان دین کے مزاروں کی زیارت کرنا اور اپنی مشکلات کے حل ہونے کے لئے ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔



حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

اور سید العلما حضرت سید احمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف طحاوی علی مرافق مطبوعہ قطبانیہ صفحہ ۱۱ پر حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

اور حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم جلد دوم صفحہ ۷ پر حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

اور شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری صفحہ ۱۸ پر امام بخاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جن کی پیدائش ۱۹۳ ہجری میں ہوئی اور انہی علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسی کتاب کے مقدمہ صفحہ ۲۱ پر حضرت امام شافعی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا۔

اور شارح مسلم حضرت ابو زکریا امام حجی الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقدمہ شرح مسلم شریف صفحہ ۱۱ پر حضرت امام مسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جن کی ولادت ۲۰۳ ہجری میں ہوئی۔

اور محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امداد المعنات جلد اول صفحہ ۱۶ پر حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور اسی کتاب اسی جلد کے صفحہ ۹ پر حضرت شیخ نے امام بخاری کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

اور حدیث کی مشہور کتاب مخلوۃ شریف کے مصنف حضرت شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مخلوۃ شریف کے مقدمہ صفحہ ۱۱ پر صاحب مصائب حضرت علامہ ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا اور انہی علامہ بغوی کو تفسیر معالم التریل مطبوعہ مصر کے صفحہ ۲ پر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہے جو تعیین تابعی بھی نہ تھے کہ ان کا انتقال چھٹی صدی ہجری میں ہوا۔

اور حضرت علامہ احمد شہاب الدین خنجری مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف شیم الریاض جلد اول مطبوعہ صفحہ ۵ پر حضرت علامہ قاضی عیاض کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور یہ بھی تعیین تابعی نہ تھے چھٹی صدی ہجری کے عالم تھے کہ ان کا انتقال ۵۵۲ ہجری میں ہوا۔

اور سید اتفاقین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امداد المعنات جلد اول صفحہ ۷ ا پر اخبار الاخیار مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند کے صفحات ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ کل پندرہ مقامات پر حضرت

الانبياء من الائمة وغيرهم بالغفران والرضى فيقال غفر الله تعالى لهم ورضي عنهم۔ ۱۔ ملخچا یعنی اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ آئمہ وغیرہ علماء و مشائخ کو غفران و رضا سے یاد کیا جائے تو غفر اللہ تعالیٰ لہم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جائے۔ لہذا بکر کا قول صحیح ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ صاحبہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کے لئے بھی جائز ہے اور زید کا یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی دینی پیشواؤ خواہ کتنا ہی بڑا ہو اگر صحابی نہ ہوتا اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز نہیں اور یہ بھی غلط ہے کہ حضرت اویس قرنی کو اسی لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا جاتا کہ وہ صحابی نہیں تھے۔ اس لئے کہ محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو کتب خانہ رحیمیہ دیوبند نے اخبار الاخیار شریف کے تائیل جمع پر سید احتقشین اور برگزیدہ جناب باری تعالیٰ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب امداد المدعیات میں جلد چہارم صفحہ ۳۲۳ پر حضرت اویس قرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

اور حضرت اویس قرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تابعی ہیں کہ جن کی ملاقات بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے ہوئی ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تابعی ہیں جن کی ملاقات صرف چند صحابہ سے ہوئی ہے۔ ان کو خاتم احتقشین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شامی جلد اول مطبوعہ دیوبند صفحات ۳۵، ۳۸، ۳۱، ۳۱ اور ۳۳ پر کل سات جگہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور صفحہ ۳۷ پر حضرت سہل بن عبد اللہ شتری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں بزرگ تابعی بھی نہ تھے کہ امام شافعی کی پیدائش ۱۵۰ ہجری میں ہوئی اور انتقال ۲۰۳ ہجری میں ہوا اور حضرت شتری کا انتقال ۲۸۳ ہجری میں ہوا۔

اور حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی حکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ذریح تمار مع ردمختار جلد اول مطبوعہ دیوبند صفحہ ۲۵ پر حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا اور صفحہ ۲۳ پر حضرت عبد اللہ بن مبارک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا اور یہ بھی تابعی نہ تھے کہ ان کی پیدائش ۱۱۸ ہجری میں ہوئی۔

اور حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ ۳۸۲ پر حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور امام احمد بن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مرقاۃ شرح مخلوٰۃ جلد اول مطبوعہ بہمنی صفحہ ۳ پر

بخاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

قرآن کریم سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ فقط صاحبہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پارہ ۳۰ سورۃ البینہ میں ہے۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْهُ . ذلک لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ . یعنی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈریں۔ جیسا کہ تفسیر مدارک جلد چہارم مصری صفحہ ۳۷۱ میں ہے (ذلک) ای الرضا لمن خشی ربه اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا یعنی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دل میں رب کی خشیت ہو۔

اور رب کی خشیت علماء ہی کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت کریمہ ذلک لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ . کے تحت فرماتے ہیں۔ ہدیۃ الایة اذا صم الیها ایۃ اخیری صار المجموع دلیلاً علی فضل العلم والعلماء و ذلک لانہ تعالیٰ قال إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمُونَ فدللت هذه الایۃ علی ان العالم یکوں صاحب الخشیة یعنی اس آیت کریمہ کو دوسری آیت سے ملانے پر علم اور علماء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اس کے بندے علماء ہی کو خشیت الہی حاصل ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ خشیت الہی علماء کا خاصہ ہے۔ (تفسیر کبیر جلد هشتم صفحہ ۲۶۰)

اور تفسیر روح البیان جلد دهم صفحہ ۳۹۱ میں اس آیت کریمہ ذلک لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ . کے تحت ہے۔ ذلک الخشیة التي من خصائص العلماء بشؤن الله تعالى ..... ؟ الجمعیع الکمالات العلمیہ والعملیہ المستبعة للسعادات الدینیة والدنیویة قال الله تعالیٰ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمُونَ یعنی خشیت الہی جو خدا تعالیٰ کے امور و احوال جانے والوں کا خاصہ ہے۔ اسی پر تمام کمالات علیہ و عملیہ کا دار و مدار ہے کہ جن سے دینی اور دنیوی سعادتیں حاصل کی جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اس کے لئے ہے جسے خشیت الہی ہو اور خشیت الہی خدا تعالیٰ کے امور و احوال جانے والوں کے لئے ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ خدا تعالیٰ کے امور و احوال جانے والوں کے لئے ہے۔ یعنی جلیل القدر علماء و مشائخ کے لئے نہ کہ بے عمل علماء کے لئے کہ جب وہ بے عمل ہیں تو ان کو خشیت الہی حاصل نہیں ہے۔ اور جب خشیت الہی نہیں ہے تو وہ صرف نام کے عالم ہیں۔ حقیقت

غوث پاک شیخ عبدالقدار مجی الدین جیلانی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، جن کی ولادت ۲۷ محرمی اور بقول بعض ۲۷ محرمی میں ہوئی ہے۔

اور امام الحمد شیخ حضرت ملا علی قاری نے مرقاۃ شرح مکملۃ جلد اول صفحہ ۲۷ پر حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت لیث بن سعد، حضرت امام مالک بن انس، حضرت داؤد طائی، حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت فضیل بن عیاض وغیرہم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعیں لکھا ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔

اور عارف باللہ حضرت شیخ احمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر صاوی جلد اول صفحہ ۳ پر حضرت علامہ شیخ سلیمان جمل، علامہ شیخ احمد درد علامہ شیخ امیر، علامہ شمس الدین محمد بن سالم حنفی، امام ابو الحسن شیخ علی صعیدی عدوی، علامہ محمد بن بدیری دیباٹی، علامہ نور الدین علی شبرا ملکی، علامہ طبی صاحب السیرۃ علامہ علی الجوری، علامہ برہان علّمی، علامہ شمس الدین محمد علّمی، علامہ امام زیادی، علامہ شیخ رملی، شیخ الاسلام علامہ زکریا انصاری علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی۔ ان تمام علماء کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکھا ہے جن میں سے کوئی بھی صحابی نہیں۔

اور علامہ ابو الحسن نور الملة والدین علی بن یوسف فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف بہجۃ الاسرار میں غیر صحابہ کو بے شمار مقامات پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور ہدایہ میں صاحب ہدایہ کو ان کے شاگرد نے کئی مقامات پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

ان تمام شواہد سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ فقط صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ ان کے ساتھ خاص ہوتا یعنی غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتا جائز نہ ہوتا تو اتنے بڑے محققین جو اپنے زمانے میں علم کے آفتاب و ماہتاب تھے یہ لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز نہ لکھتے۔

یہاں تک کہ عام دیوبندی وہابی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں اور غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے پیشوای مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا گیا ہے جیسا کہ تذکرہ الرشید جلد اول صفحہ ۲۸ پر ہے۔ ”مولانا محمد قاسم صاحب و مولانا رشید احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند روز کے بعد ایسے ہم سبق بنے کہ آخرت میں بھی ساتھ نہ چھوڑا“ اور کتب خانہ رشید یہ دہلی نے بخاری شریف کی دونوں جلدیوں کے ٹائیتل اور سرورق پر حضرت امام

میں عالم نہیں ہیں۔

تفسیر خازن اور تفسیر معاجم المتریل جلد چھم صفحہ ۳۰۲ میں ہے۔ قال الشعوبی انما العالم من خشی اللہ عز و جل۔ یعنی امام شعبی نے فرمایا کہ عالم صرف وہ شخص ہے جسے خدا عز و جل کی خیثت حاصل ہو۔ اور تفسیر خازن کے اسی صفحہ ۳۰۲ پر ہے۔ قال الربيع بن انس من لم يخش الله فليس بعالم۔ یعنی امام ریبع بن انس نے فرمایا کہ جسے خیثت الہی حاصل نہ ہو وہ عالم نہیں۔

ثابت ہوا کہ رضی اللہ عنہ صرف باعمل علماء و مشائخ کے لئے ہے۔ مگر یہ لفظ چونکہ عرف میں بڑا موقر ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ اسے محلبہ کرام ہی کے لئے خاص سمجھتے ہیں۔ لہذا اسے ہر ایک کے لئے نہ استعمال کیا جائے بلکہ اسے بڑے بڑے علماء و مشائخ ہی کے لئے استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔

هذا ما ظهر لی والعلم بالحقِّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ جَلَّ شَانَهُ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کتبہ جلال الدین احمد الامجدی

صفر المظفر ۱۳۰۱ھ



جمال



یار رسول اللہ  
پکے کا بڑت

سیرت کوڑ  
نہیں

نماز



شادی مبارکہ  
با شرکت  
بانی احمد علیان  
403531  
403531  
f: 053-3609935, 3005463 Fax: 053-3609936  
E mail: shahswar\_travels@hotmail.com

مکتبہ پنج

Shahswar Travels